غیر مقلدین کی ڈائری

از قلم: محمد ابوبکر غازیپوری

غیر مقلدین کے مسلک و مذہب اور ان کی تاریخ کے موضوع پر ایک نہایت دلچسپ کتاب، ایک ایسا آئینہ جس میں غیر مقلدین کا واقعی چہرہ دیکھا جا سکتا ہے

ناشر: مکتبہ اثریہ قاسمی منزل سیدواڑہ
غازی پور، یوپی، انڈیا۔

غیر مقلدین کی ڈائری

از قلم

محمد ابوبکر غازی پوری

غیر مقلدین کے مسلک و مذہب اور ان کی تاریخ کے موضوع پر ایک نہایت دلچسپ کتاب، ایک ایسا آئینہ جس میں غیر مقلدین کا واقعی چہرہ دیکھا جا سکتا ہے۔

ناشر
مکتبہ اثریہ قاسمی منزل سیدواڑہ غازی پور

marfat.com

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب ——— غیر مقلدین کی ڈائری

مصنف ——— محمد ابوبکر غازی پوری

صفحات ——— ۲۶۰

سنہ اشاعت ——— ۱۹۹۷ء

طبع اوّل ——— ایک ہزار

کتابت ——— شمس الحسن ادروی

ناشر ——— مکتبہ اثریہ قاسمی منزل سیدواڑہ غازیپور

قیمت ——— ۶۰/ روپے

طباعت ——— ربّانی انٹرپرائزز لال کنواں دہلی ۶

فون :- ۷۳۰۱۱۸

marfat.com

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان
۱۲	مقدمہ ۔ بقلم مولانا نورالدین نوراللہ الاعظمی
۱۴	مقدمہ از مصنف
۱۵	غیر مقلدین کی تحریفات قرآنیہ کے چند نمونے
۱۸	قرآن میں تحریف لفظی
۱۹	آیت قرآن کی غلط تفسیر
۴۰	غیر مقلدین حضرات کے چند فقہی مسائل
۴۸	زکوٰۃ کا پیسہ ان جگہوں پر لگایا جا سکتا ہے
۴۹	زکوٰۃ کا پیسہ صرف اپنے شہر کے فقراء پر صرف کیا جائیگا
۴۹	فرقہ اہلحدیث کے بارے میں ایک من گھڑت افترا یا حقیقت
۵۹	غیر مقلدین پر انگریزی سرکار کا سایہ
۶۰	الاقتصاد فی مسائل الجہاد کا ذکر
۶۱	الاقتصاد رسالہ کا مقصد کیا تھا
۶۲	مسلمانوں سے بھی جہاد ہوتا ہے ۔
۶۲	جہاد اصل مطالب خداوندی نہیں
۶۴	اسلام وایمان کا کمال جہاد پر موقوف نہیں
۶۵	لفظ کافر کی ایک دلچسپ تشریح
۶۷	سرکار برطانیہ کا ہندوستان دارالاسلام تھا

marfat.com

عنوان	صفحہ
پنجاب کے اہلحدیثوں نے گورنمنٹ برطانیہ کی خیرخواہی وفاداری کا عہد کیا تھا	۶۸
گورنمنٹ برطانیہ سے لڑنا یا اس سے لڑنے والوں کی مدد کرنا غدر اور حرام ہے	۶۹
۱۸۵۷ء کی تحریک جہادِ آزادیٔ ملک میں جو شریک تھے وہ مشرک باغی و بدکردار تھے	۶۹
غیر مقلدوں کا اسلام کی تاریخ پر ایک زبردست حملہ	۷۰
خانصاحب بھوپالی اور ان کی ترجمان وہابیہ	۷۲
قریب قیامت کے اکثر ملکوں کے حاکم عیسائی ہو جائیں گے	۷۳
گورنمنٹ برطانیہ سے لڑنا سخت بیوقوفی ہے۔	۷۴
ہماری معلومات میں زبردست اضافہ	۷۵
آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لیکر تازمانۂ گورنمنٹ برطانیہ جو امن و آسائش انگریزی حکومت میں تھی کسی حکومت میں کبھی نہیں رہی	۷۶
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حنفی تھے۔	۷۷
مجاہدین جنگ آزادی کے سلسلہ میں نواب صاحب بھوپالی کا گندا ریمارک	۷۸
جنت میں داخل ہونے کو فقط اسلام کافی ہے (نواب صاحب کا فرمان)	۸۰
۱۸۵۷ء کا جہاد آزادی ہڑبونگ تھا۔ بیوقوفی کا جہاد تھا۔	۸۱
رعایا پروری میں حکام فرنگ کا مثل و نظیر نہیں	۸۲
اہلحدیث میں کبھی کوئی حاکم یا بادشاہ نہیں ہوا۔	۸۴
سرکار برطانیہ کی مخالفت کسی غیر مقلد نے نہیں کی	۸۶
انگریزوں کی مخالفت نقد دین کا کھونا ہے۔	۸۸

marfat.com

صفحہ	عنوان
۹۱	انگریزوں کیخلاف تحریک جہاد احناف نے برپا کیا (نواب صاحب بھوپالی کا اعتراف)
۹۳	مذہب حنفیہ ایک بڑی بلا ہے
۹۴	غیر مقلدین سب مذہبوں سے آزاد ہیں۔
۹۴	غیر مقلدوں کی آزادگی مذہب وہی ہے جو انگریزی سرکار کی مرضی تھی
۹۵	غیر مقلدین سرکار برطانیہ کی موافقت والے رسائل شائع کرتے تھے
۹۸	غیر مقلدین خالص اہلسنت والجماعت ہیں
۱۰۱	کتاب لکھنا دینی عمل نہیں ہے۔
۱۰۳	اس دور میں جہاد نہیں ہو سکتا۔
۱۰۶	جہاد کرنے والے بادشاہ محدث نہ تھے۔
۱۰۷	گورنمنٹ برطانیہ کے سامنے غیر مقلدین کی سپردگی
۱۰۹	دیوبندی مداہن ہیں
۱۱۰	غیر مقلدین کی ندامت
۱۱۱	وہابیوں نے اہلحدیث کے مذہب ہندوستان سے لیا
۱۱۲	جو مسلمان ہندوستان میں پہلے آئے وہ اہلحدیث کے مذہب پر تھے
۱۱۳	صحابہ کرام میں بھی تصوف تھا
۱۱۴	حدیث پر عمل کرنے کے سلسلے میں غیر مقلدین کی ہیرا پھیری
۱۱۶	مولانا نذیر حسین میاں مؤلف حیاۃ بعد المماۃ کی نظر میں
۱۱۸	سید نذیر حسین میاں صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا نمونہ تھے
۱۱۹	میاں صاحب کی قابلیت کا نمونہ
۱۲۰	میاں صاحب نے ۱۲۲۷ھ میں ایک کتاب ۹ روپے میں بیچی

marfat.com

عنوان	صفحہ
میاں صاحب کی طالب علمی کے بارے میں مؤلف حیاۃ بعد المماۃ کی تضاد بیانی	۱۲۱
میاں صاحب حضرت شاہ اسحٰق صاحب کے باقاعدہ شاگرد نہیں تھے	۱۲۲
میاں صاحب نے بخاری کئی سو مرتبہ پڑھائی	۱۲۴
ہندوستان میں کوئی شخص مجتہد و امام فن نہیں گذرا	۱۲۵
میاں صاحب بخاری شریف کی پہلی حدیث ۲۷ روز میں پڑھاتے تھے	۱۲۵
پوری جلالین میاں صاحب صرف ایک مہینہ میں پڑھا دیا کرتے تھے	۱۲۶
میاں صاحب نے اُلّو کے حلال ہونے پر ۲۸ سندیں نکالیں	۱۲۷
میاں صاحب گورنمنٹ برطانیہ کے وفادار تھے	۱۲۷
انگریز کمشنر کی میاں صاحب کیلئے چٹھی	۱۲۸
میاں صاحب کے صاحبزادے نصف گھنٹہ میں نماز فرض ادا کرتے تھے	۱۲۸
میاں صاحب رمضان میں دو ختم قرآن سنتے۔ ایک تراویح میں ایک تہجد میں	۱۲۹
میاں صاحب پیری مریدی کرتے تھے	۱۳۰
میاں صاحب پیشین گوئی بھی فرماتے تھے	۱۳۱
میاں صاحب کا سلسلہ نسب	۱۳۱
تقلید صرف غیر مجتہد کو جائز ہے	۱۳۳
مسلمانان ہند کے بارے میں نواب صاحب کی رائے۔	۱۳۳
استواء علی العرش کی کیفیت معلوم نہیں	۱۳۴
آنحضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں	۱۳۴
قیاس صحیح	۱۳۵

marfat.com

صفحہ	عنوان
۱۳۵	تقلید شخصی مطلقاً حرام ہے
۱۳۶	تقلید بلا دلیل حرام ہے
۱۳۷	علماء ومفتی وقاضی کی تقلید تقلید اصطلاحی نہیں ہے
۱۳۸	بخاری ومسلم کی تمام مرفوع روایتیں صحیح ہیں
۱۳۹	غیر مقلدین کے یہاں کھلے ستر نماز درست ہے
۱۴۰	صحابی کا فتویٰ حجت نہیں ہے
۱۴۰	عصر کا وقت مثلین تک ہے
۱۴۱	مس ذکر سے وضو ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کی روایتیں
۱۴۳	امام بخاری کی مخالفت لوہے کے چنے چبانا ہے
۱۴۵	جب مختلف احادیث میں جمع کرنا ممکن ہو تو بعض کا رد کرنا جائز نہیں
۱۴۵	اعمال ایمان کا جز نہیں ہیں۔
۱۴۷	ضعیف حدیث سے جواز واستحباب ثابت ہوتا ہے۔
۱۴۸	مشرکوں کے فعل سے استدلال
۱۴۹	جمعہ کا خطبہ سننا فرض ہے۔
۱۵۰	حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول صحیح ہونے کے باوجود قابل رد ہے
۱۵۱	غیر مقلدین کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فہم پر عدم اعتماد
۱۵۱	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں غیر مقلدین کی جرأت بیجا اور گستاخی
۱۵۴	قرآن کا اجرت دیکر سننا
۱۵۵	سنت صحابہ سے استدلال
۱۵۶	جب کسی ضعیف راوی کے ضعف پر سب محدثین کا اتفاق ہو تب وہ روایت مردود ہے

marfat.com

عنوان	صفحہ
راوی کا ضعیف حدیث کو روایت کرنا اسکو قابل اعتبار بنا دیتا ہے	۱۵۶
وتر ایک سے تیرہ رکعت تک	۱۵۷
تارکِ صلوٰۃ نہ مسلم ہے نہ کافر	۱۵۸
جمعہ کی اذان ثالث	۱۵۸
نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ زور سے پڑھنا	۱۵۹
مردہ پر مٹی ڈالتے وقت کچھ پڑھنا معلوم نہیں	۱۶۰
حنابلہ مالکیہ اور شافعیہ اہلحدیث نہیں	۱۶۱
تعویذ لکھ کر گلے میں لٹکانا جائز ہے	۱۶۲
قرآن وحدیث کے علاوہ سے جھاڑ پھونک جائز ہے	۱۶۳
جماعتِ محدثین کی پہلی کڑی اور آخری کڑی۔	۱۶۴
استواء علی العرش اور صفاتِ باری کے بارے میں مولانا امرتسری کا عقیدہ	۱۶۵
میں کسی امتی کا امتی نہیں ہوں میں تین جنتوں کا قائل ہوں (مولانا امرتسری)	۱۶۶
مولانا امرتسری دین میں جدید معنی پیش کرتے تھے	۱۶۷
صرف سود لینا حرام ہے سود دینا نہیں۔ (مولانا امرتسری کا ارشاد گرامی)	۱۶۸
مولانا امرتسری قیاس کرتے تھے	۱۶۹
اہلحدیث احباب کے بارے میں مولانا امرتسری کا اظہار خیال	۱۷۰
قادیانی و شیعہ بھی متقی ہیں	۱۷۱
مولانا امرتسری کا عقیدہ و مذہب	۱۷۲
صحیح حدیث سے مشروعیت قیاس کی دلیل	۱۷۳
بیعت میں سنت کیا ہے۔	۱۷۵

marfat.com

صفحہ	عنوان
۱۷۶	اگر کوئی صحیح حدیث قواعد قطعیہ کی مخالف ہے تو وہ قابل التفات ہے
۱۷۷	غیر مقلدین کا تعارف مولانا محمد جوناگڈھی کے قلم سے
۱۷۸	اہلحدیث کے حق پر ہونے کی دلیل
۱۸۱	ہم محمدی تو ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں
۱۸۲	حنفی اور اہلحدیث اصولاً ایک ہیں
۱۸۴	چاروں ائمہ کی عزت
۱۸۵	آنحضور کے روضہ کی زیارت
۱۸۶	ایمان نام قول فعل عقیدے کا
۱۸۶	ہم عبدالوہاب نجدی اور نہ کسی زندے مردے کے مقلد ہیں۔
۱۸۷	ہم محمدی ہیں ہم اہلحدیث ہیں
۱۸۸	حضرت ابوبکر اور خلفاء راشدین کی شان میں مولانا جوناگڈھی کی گستاخی
۱۹۰	گمراہی کی دعوت
۱۹۱	خدا والوں اور اہل حق کی تقلید بھی گمراہی ہے۔
۱۹۲	قیاس کا ثبوت قرآن سے
۱۹۶	تمام صحابہ فقیہ تھے
۱۹۶	مصلحین عظام مذہب حنفی کے پیرو تھے
۱۹۷	غیر مقلدیت کے وجود کی ابتدا ہندوستان میں
۱۹۸	غیر مقلدوں کے شیخ الاسلام پر دارالعلوم دیوبند کا علمی فیضان
۱۹۹	دیوبند کی سند امتحان میرے لئے باعث فخر میرے پاس موجود ہے (مولانا امرتسری)

marfat.com

صفحہ	عنوان
۲۰۱	مولانا میاں نذیر حسین کو فقہ حنفی پر حدیث سے زیادہ عبور تھا
۲۰۲	احادیث کو رد کرنے سے بہتر ہے کہ انکی تاویل کیجائے
۲۰۲	جنازہ میں چار تکبیر پر حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کیا
۲۰۳	حدیث صحیح کو چھوڑ کر حدیث حسن پر عمل
۲۰۳	امام بخاری پر مولانا مبارکپوری کا شدید نقد
۲۰۴	عموم کی تخصیص
۲۰۵	مولانا عبدالرحمٰن مبارکپوری کا طریقۂ استدلال
۲۰۶	رسول اللہ کی اتباع بالاستقلال فرض ہے
۲۰۷	دلیل سے سوال کرنا چاہیئے
۲۰۷	صحابہ کرام کو محمدی کہا جاتا تھا
۲۰۷	اہلحدیث کا لقب بھی صحابہ کے زمانہ سے چلا آتا ہے
۲۰۸	بزرگوں کو مطاعن کا نشانہ نہیں بنانا چاہیئے
۲۰۸	اہلحدیث کسی معین امام کی تقلید کی اجازت نہیں دیتے
۲۰۹	اہلحدیث کی نسبت
۲۱۰	یہ تقلید کا اقرار ہے کہ انکار
۲۱۲	حضرت شاہ ولی اللہ کی تعریف یا تنقیص
۲۱۳	سب سے بڑا جھوٹ
۲۱۴	حدیث کے معتبر ہونے کا ایک اصول یہ بھی ہے
۲۱۵	ضعیف حدیث کو جمہور نے قبول کیا ہے
۲۱۶	حیاۃ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں مولانا اسمٰعیل سلفی کا جھوٹ

marfat.com

عنوان	صفحہ
قبر میں آنحضور صلے اللہ علیہ وسلم کی عدم حیات پر قرآن کی آیت سے استدلال	۲۱۷
مولانا عبدالرحمٰن مبارکپوری کی عصبیت اور انکی امام ابوحنیفہ دشمنی	۲۲۰
امام ترمذی کی شان میں مولانا مبارکپوری کے ہفوات اور انکی تضاد بیانی	۲۲۱
امام بخاری پر مولانا مبارکپوری کا رد	۲۳۰
مولانا مبارکپوری کے تعصب کی ایک واضح مثال	۲۳۲
صحابہ کرام قیاس کرتے تھے	۲۳۳
کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مذموم نہیں ہے۔	۲۳۴
سنتِ مؤکدہ چھوڑنے پر مواخذہ نہیں	۲۳۵
حضرت مجدد الف ثانی کے متعلق ایک غیر مقلد کی بکواس	۲۳۶
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس غیر مقلد کی بکواس	۲۳۷
حضرات حسنین کو صحابہ میں شامل نہیں کیا جا سکتا	۲۳۹
حضرت ابوذر غفاری کے بارے میں غیر مقلدین کا نظریہ	۲۳۹
تقلید شرعی اصطلاح اور لغوی مفہوم دونوں کی روشنی میں برا عمل ہے	۲۴۰
میت سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کی دلیل	۲۴۱
قادیانی عورت سے نکاح جائز ہے	۲۴۲
قادیانی کے پیچھے نماز جائز ہے	۲۴۳
قادیانی مسلمان ہیں	۲۴۴
مرزا غلام احمد قادیانی کا نکاح میاں نذیر حسین دہلوی نے پڑھایا	۲۴۵
غیر المقلدوں کے شیخ الکل کے درس حدیث پر ایک صاحب علم کا تبصرہ	۲۴۶
مولانا سید نذیر حسین صاحب کا درس	۲۴۶
جماعت اہلحدیث کے متعلق اکابر غیر مقلدین کی رائے	۲۴۸
غیر مقلدوں کے اہلحدیث بننے کی تاریخی شہادت	۲۵۵
سرکار برطانیہ سے اہلحدیث نام الاٹ کرانے کی درخواست کا متن	۲۵۶

marfat.com

مقدمہ

بقلم۔ مولانا نور الدین نور اللہ الاعظمی

الحمد للہ وکفیٰ وسلام علیٰ عبادہ الذین اصطفیٰ

اہل حق کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ باطل فرقوں اور شیطانی طاقتوں کا ایمانی طاقت کے سہارے پامردی واستقلال سے مقابلہ کرتے ہیں، مصلحین امت نے یہی کارنامہ انجام دیا تو آج اسلام اپنی پوری تاب وتوانائی کے ساتھ دنیا میں موجود ہے اور انشاء اللہ اہل حق مجاہدین اسلام کی جماعت جب تک اپنا یہ فریضہ انجام دیتی رہے گی اسلام کا نور پوری قوت سے چمکتا و مکتا رہے گا اور شریعت کی سرحدوں میں کوئی چور نقب لگانے کی جرأت وہمت نہیں کرے گا۔ اور اگر کسی نے ایسی جرأت کی بھی تو اس کا ہاتھ پکڑنے والے موجود ہوں گے۔

غیر مقلدیت عصر حاضر کا بہت بڑا فتنہ ہے، قرآن وحدیث کا نام لیکر اس جماعت نے شریعت اسلام پر، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر فقہاء ومحدثین پر اولیاء اللہ اور بزرگان دین پر شب خون مارنے کی تگ ودو میں اپنی پوری طاقت جھونک دی ہے، عربوں کی دولت ان کو بے تحاشا مل رہی ہے، جس کا یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، عرب بیچارے اپنی سادہ لوحی میں ان کو دین اسلام اور کتاب وسنت کا خادم سمجھے ہوئے ہیں اور انھوں نے اپنی دولت ان کے لئے انڈیل دی ہے۔

انھیں کیا پتہ کہ جن کو تم نے رہنما سمجھا ہے وہ ڈاکو ہیں وہ دین پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ شب خون مار رہے ہیں۔

marfat.com

ہندو پاک میں یہ فتنہ پھیلا اور پھیلتا جا رہا ہے، اس کی شدت کو اہل حق علماء محسوس کرنے لگے ہیں، اور سنت اللہ کے مطابق اہل حق کی جماعت نے اس فتنہ کا پیچھا شروع کر دیا ہے، پاکستان میں یہ کام علماء دیوبند بڑے استقلال اور پامردی سے انجام دے رہے ہیں۔

ہندوستان کے علماء بھی اس فتنہ کے استیصال اور عوام کیلئے جو ان نام کے اہلحدیثوں نے دام ہمرنگ زمین بچھایا ہے انکو اس سے نکالنے کیلئے بیدار ہیں اور اللہ ان سے دین کی حفاظت کا یہ کام لے رہا ہے، ہمارے ملک کی قابل قدر علمی شخصیت حضرت مولانا محمد ابوبکر غازی پوری مدظلہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس فتنہ کے استیصال کے عمل کا زبردست داعیہ پیدا فرما دیا ہے۔

اس سلسلہ کی انکی دو اہم کتابیں "وقفۃ مع اللامذھبیۃ" عربی اور "مسائل غیر مقلدین" اردو میں طبع ہو کر قبول عام کی سند علمی حلقوں سے حاصل کر چکی ہیں۔ اس سلسلہ کے کئی مضامین بھی مختلف پرچوں میں شائع ہو چکے ہیں۔

اب یہ تیسری کتاب "غیر مقلدین کی ڈائری" جو میرے خیال میں پہلا حصہ ہو ان کے قلم سے ناظرین کی خدمت میں پہنچ رہی ہے۔ یہ کتاب بھی بڑی اہم ہے اور اس میں اس جماعت کے تعلق سے ایسے تاریخی انکشافات ہیں کہ ناظرین حیران رہ جائیں گے۔

اور اسکے سوا جو باتیں ہیں وہ بھی اپنی جگہ ایسی ہیں کہ ان سے ہر مسلمان کا واقف ہونا ضروری ہے، تاکہ اس جماعت کی فریب کاریوں سے محفوظ رہا جا سکے۔

اللہ سے دعا ہے کہ مؤلف موصوف کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور ان کے علم و قلم میں برکت دے۔

نورالدین نوراللہ الاعظمی

۲۲ ربیع الثانی ۱۴۱۷ھ

marfat.com

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

میں جب اپنی کتاب " تحفۃ مع اللامذھبیۃ فی شبہ القارۃ الھندیۃ "
(عربی) اور مسائل غیر مقلدین کتاب وسنت اور مذہب جمہور کے آئینہ میں "
(اردو) لکھ رہا تھا تو کچھ مزید باتیں سامنے آتی گئیں، جن کو میں نوٹ کرتا رہا
اب انھیں باتوں کو بلاکسی ترتیب کے ناظرین کے سامنے "غیر مقلدین کی ڈائری "
کی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔

مجھے امید ہے کہ اس ڈائری سے قارئین کو غیر مقلدین کے مذہب وعقیدہ
کے سلسلہ میں مزید بصیرت حاصل ہوگی اور ان کی تاریخ کیا رہی ہے اس پر ایک
اجمالی نظر پڑ جائے گی۔

غیر مقلدین حضرات کے عقیدہ اور ان کے مذہب سے پوری واقفیت
حاصل کرنے کیلئے میری مذکورہ بالا عربی واردو کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیئے۔
اللہ تعالیٰ اس کتاب کو بھی پہلی دونوں کتابوں کی طرح قبولیت عطا فرمائے۔

محمد ابوبکر غازی پوری

marfat.com

غیر مقلدین کی تحریفاتِ قرآنیہ کے چند نمونے

قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے۔ اللہ والے اس کلام مقدس کی توقیر کو جزو ایمان سمجھتے ہیں، قرآن کی تفسیر، توضیح اور اس کا مطلب بیان کرنے میں اس کا خیال رکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کی تفسیر یا اس کا ترجمہ کرنے میں اپنی رائے کا دخل نہ ہو، اور صحابہ کرام اور سلف امت نے قرآنی آیات کا جو مطلب جانا اور سمجھا ہے اس سے تجاوز کرنے سے بچا جائے، قرآن کی آیات کا ایسا مطلب بیان کرنا جو مراد خداوندی نہ ہو بہت بڑا گناہ ہے اور قصداً اور عمداً ایسا کرنا تو "یفترون علی اللہ الکذب" کے ضمن میں آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ محتاط علمائے کرام نے قرآن مقدس کی ترجمانی کے بجائے اس کے لفظ لفظ کی پابندی کے ساتھ ترجمہ کرنے کی اجازت دی ہے، اور تفسیر بالرائے تو مطلقاً حرام ہے۔(۱) اور ایسے مفسد کا ٹھکانا جہنم ہے، غرض قرآن کا

---

(۱) اللہ کے رسول صلے اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من تکلم فی القرآن برایہ فاصاب فقد اخطأ۔ یعنی جو شخص قرآن کریم کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ گفتگو کرے تو اگر صحیح بات بھی کہے تو اس نے غلطی کی۔

ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:
من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار یعنی جو شخص قرآن کریم کے معاملہ میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے۔

بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر

marfat.com

معاملہ عام کتابوں سے اور انسانی کلام سے بالکل الگ ہے۔ جن لوگوں نے اس کا لحاظ نہیں کیا انھوں نے ضلالت کا بیج بو یا، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور امت میں فتنہ وشر کے نہ ختم ہونے والے سلسلہ کی بنیاد ڈال دی۔

ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن پاک کی ترجمانی و تفسیر کے سلسلہ میں غیر مقلدین علمار کے طبقہ میں یہ احتیاط بہت کم نظر آتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کی تحریفات کا ایک پورا سلسلہ ان کی کتابوں اور تحریرات میں نظر آتا ہے، میں عیون زمزم مصنفہ مولانا عنایت اللہ اثری کی بات نہیں کر رہا ہوں جس میں قرآن کی کھلی تحریف کی گئی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہا السلام سے متعلقہ آیتوں کی من مانی تفسیر کر کے اس غیر مقلد عالم نے اپنا ایمان برباد کیا ہے، اور بزعم خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیلئے باپ اور حضرت مریم علیہا السلام کیلئے شوہر ڈھونڈ نکالنے کا فریضہ انجام دیا ہے۔
اسی طرح میں غیر مقلدوں کے شیخ الاسلام مرکزی جمعیت اہلحدیث کے بانی مولانا ثنار اللہ صاحب امرتسری مرحوم کی عربی تفسیر کی بابت بھی نہیں کہہ رہا ہوں جس میں مولانا امرتسری مرحوم نے معتزلہ و خوارج اور نیچریوں کے مسلک و عقیدہ کی ترجمانی کی ہے، اور معتزلہ و دھریوں کے انداز میں معجزات و کرامات و خرق عادات کا انکار کیا ہے، اللہ کی صفات کی معتزلانہ وگمراہانہ تفسیر کی ہے۔
میں ان کتابوں پر اس ڈائری میں اس لئے گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ

غیر مقلدین علمار نے ان وعیدوں سے سبق حاصل کئے بغیر قرآن کے معاملہ میں بڑی جرأت اور جسارت کا مظاہرہ کیا ہے جیسا کہ ناظرین کو آئندہ معلوم ہوگا۔

marfat.com

اس کے لئے بڑا وقت چاہیئے، اور یہ ڈائری کسی ایک موضوع پر طویل گفتگو کی متحمل نہیں، میں نے اپنی عربی کتاب وقفة مع اللامذهبية میں اس پر قدرے تفصیلی گفتگو کی ہے۔

میں یہاں کتاب اللہ کے ترجمہ اور اس کی تفسیر کے سلسلہ میں غیر مقلدین کی بد احتیاطیوں کے صرف چند نمونے مولانا محمد اسماعیل سلفی کی کتاب حركة الانطلاق الفكري اور مولانا محمد جوناگڈھی کی کتاب طریق محمدی سے پیش کروں گا اور پھر قیاس کن زگلستان من بہار مرا۔ کہہ کر آگے بڑھ جاؤنگا۔

چونکہ قرآن کریم کا مسئلہ بڑا اہم اور بڑا نازک ہے اس لئے میں ناظرین سے گذارش کروں گا کہ براہ کرم سنجیدگی سے میری معروضات پر غور کریں اور ان آیتوں کا ترجمہ و تفسیر خود کسی ترجمہ والے قرآن اور کسی معتبر عالم دین کی تفسیر سے ملا کر دیکھ لیں کہ مولانا جوناگڈھی جو غیر مقلدیت کے زبردست وکیل اور اس جماعت کے اونچے درجہ کے عالم تھے اسی طرح مولانا محمد اسماعیل سلفی جو عصر حاضر میں اس جماعت میں امامت کے درجہ پر فائز تھے ان دونوں عالموں پر جو میری گرفت ہے وہ صحیح ہے یا غلط، اسی سے اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک کے ساتھ غیر مقلدین علماء کیسا کیسا کھلواڑ کرتے ہیں اور افسوس یہ ہے کہ یہ سارا کھلواڑ دین کے نام پر اور اللہ و رسول کا نام لے کر یہ غیر مقلدین کرتے ہیں بلکہ دین کے بارے میں اسی بے راہ روی اور آزادی و عدم جمود کو غیر مقلدیت کی معراج تصور کرتے ہیں اور بڑے زنگ سے اقبال مرحوم کا یہ شعر گاتے ہیں

تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی

اب ذیل کی سطور میں ناظرین قرآن پاک کے سلسلہ میں غیر مقلدین جماعت کے ان دو نامور علماء کی گمراہیوں اور بد احتیاطیوں کے نمونے ملاحظہ فرمائیں۔

وباللہ التوفیق

marfat.com

(۱) قرآن میں تحریفِ لفظی

حرکۃ الانطلاق الفکری مولانا محمد اسماعیل سلفی پاکستانی مشہور غیر مقلد عالم کی کتاب ہے جامعہ سلفیہ بنارس نے اس کو شائع کیا ہے املاً یہ کتاب اردو میں تھی مولانا مقتدیٰ حسن ازہری جامعہ سلفیہ کے استاد نے اس کا عربی ترجمہ کیا ہے، اس کتاب کے ص۵۷ پر یہ عبارت ہے:

وھذہ الآیۃ من سورۃ المزمل وقد جاء فیھا ذکر صلوٰۃ اللیل فقال۔

فاقرؤا ما تیسر من القرآن فی صلوٰۃ اللیل (التہجد)

یعنی یہ آیت سورہ مزمل کی ہے اور اس میں صلوٰۃ اللیل کا ذکر ہے پس اللہ نے فرمایا:

فاقرؤا ما تیسر من القرآن فی صلوٰۃ اللیل (التہجد)

سورۂ مزمل انتیسویں پارہ کی سورہ ہے عموماً غیر حافظ لوگوں کو بھی یہ سورہ یاد رہتی ہے۔ کوئی غیر مقلد عالم انھیں الفاظ کے ساتھ یہ آیت ہمیں دکھلادے "فی صلوٰۃ اللیل" کا پورا جملہ اس آیت میں مولانا محمد اسماعیل سلفی اور مولانا مقتدیٰ حسن ازہری کا اضافہ شدہ ہے (۱)

---

(۱) مترجم جو خود ایک فاضل ہے وہ اپنی ذمہ داری سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا، اور وہ اس تحریف میں برابر کا شمار ہوگا، ناظرین غور فرمائیں کہ "التہجد" کا لفظ بریکٹ میں لاکر اپنی اس تحریف لفظی پر مزید مہر لگادی ہے۔

میں عرض کروں گا کہ اگر قرآن میں یہ تحریف لفظی کا عمل خطأً دنیا نا ہوا ہے تو آپ

marfat.com

اس اضافہ کی کیا ضرورت پڑی بظاہر اس کی وجہ جو بھی ہو مگر کلام اللہ میں اپنی طرف سے گھٹانا بڑھانا، ہے یہ بڑی جرأت کی بات۔

(۲) آیتِ قرآنی کی غلط تفسیر

مولانا محمد اسماعیل سلفی مذکورہ کتاب الانطلاق الفکری میں اس آیت "یاایھا الذین اٰمنوا لاتتولوا قوما غضب اللہ علیھم قد یئسوا من الاٰخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور" کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

معنی الاٰیۃ واضح فمن بیانیۃ والکفار بیان لاصحاب القبور ای یرجی الایمان فی الحیاۃ وکذلک یتعلق الامل باسباب اُخری لرحمۃ اللہ ولکن لیس ھناک معقد امل للکفار بعد الموت۔

فالمسلمون الذین یتصلون بالکفار بعد الاسلام علیھم ان ییأسوا من رحمۃ اللہ . . . . وقد اتفق جمیع المفسرین فی تفسیر الاٰیۃ علی الاسلوب المذکور، ص ۲۷۲

اس پوری عبارت کا حاصل ترجمہ یہ ہے کہ مولانا اسماعیل سلفی فرماتے ہیں کہ "آیت کا معنی واضح ہے، آیت میں من بیانیہ ہے اور کفار اصحاب قبور کا بیان ہے، مطلب یہ ہے کہ زندگی میں تو ایمان متوقع ہے اور خدا کی رحمت کے دوسرے اسباب کا سہارا مل سکتا ہے مگر مرنے کے بعد کافروں کے لئے کوئی امید باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ اس لئے مسلمانوں کو بھی جو باوجود مسلمان ہونے کے کافروں سے

اپنی اس غلطی کا اعتراف کر لیجئے اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے آپ سے ایسی فاحش غلطی خطأ ونسیاناً ہو سکتی ہے تو وہ دوسروں سے بھی ہو سکتی ہے، خطأ ونسیان بشری خاصہ ہے شرط یہ ہے کہ انسان اپنی واقعی غلطی کو تسلیم کرنے اور اعتراف قصور سے شرمائے نہ۔

marfat.com

تعلق رکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا چاہیے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

تمام مفسرین کا (قرآن کی اس آیت کی) اس تفسیر پر اتفاق ہے۔

ان غیر مقلد مجتہد صاحب نے اس آیت کی اپنی اس من مانی تفسیر میں کیا گل کھلایا ہے اور کیسا بجہ کھایا ہے اسکو میں بتلاتا ہوں۔

فرماتے ہیں کہ "من" بیانیہ ہے، اور "کفار" اصحاب قبور کا بیان ہے یہ ان غیر مقلد مجتہد صاحب کی قابلیت کا پہلا نمونہ ہے، نحو میر اور ہدایۃ النحو پڑھنے والا عربی مدرسہ کا درجہ اول و دوم کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ جو بیان ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے اور وہ جس امر کا بیان ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، یہاں "اصحٰب القبور" بعد میں ہے، اور "الکفار" پہلے ہے تو الکفار کو اصحٰب القبور کا بیان بتلانا جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر کفار اصحٰب قبور کا بیان ہوتا تو کفار کو بعد میں اور اصحٰب قبور کا لفظ پہلے ہونا چاہیے تھا۔

نحو کا جن کو یہ معمولی مسئلہ بھی نہ معلوم ہو ان کو دعویٰ ہوتا ہے مجتہد بننے کا، اور یہ اپنے سینوں میں علم کا وہ پہاڑ رکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث خود سمجھ لیں گے، انکو کتاب و سنت کو سمجھنے کیلئے کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔

اور پھر مجتہد صاحب (جو ماشاء اللہ غیر مقلدوں میں "امامت" کے درجہ پر فائز تھے) فرماتے ہیں:

"اسلئے مسلمانوں کو بھی جو کافروں سے تعلق رکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا چاہیے۔"

یہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہے یا جہالت کا یشتارہ اور حماقت کی انتہا ہے، خداوند قدوس تو مسلمانوں کو یہ خوشخبری سناتا ہے۔

"اے بندو میرے جنھوں نے زیادتی کی ہے اپنی جان پر آس مت توڑو اللہ کی مہربانی و رحمت سے بیشک بخشتا ہے اللہ سب گناہ، یقیناً وہی ہے

marfat.com

گناہ معاف کرنے والا "

یعنی اللہ کی رحمت سے بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی مایوس نہ ہونا چاہئے اللہ اپنے بندوں کو یہی سکھلاتا ہے اور قرآن میں اسی کی تعلیم ہے، اور یہاں غیر مقلد مجتہد صاحب فرماتے ہیں :

"اس لئے مسلمانوں کو بھی جو کافروں سے تعلق رکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا چاہئے "

ان امام زماں صاحب " کی اس تفسیر پر عقل انگشت بدنداں ہے کہ اتنی غلط بات ان سے آخر صادر کیسی ہوئی، کیا کافروں سے تعلق رکھنا کفر ہے، ایمان اس سے باقی نہیں رہتا ؟ کیا کافروں سے تعلق رکھنے کی وجہ سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے ؟

اللہ رحیم و کریم تو یہ فرمائے کہ بڑا سے بڑا گناہ بھی ہو جائے تب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور ہمارے " امام زماں " صاحب غلط اور جھوٹ خدا کی طرف یہ بات منسوب کر رہے ہیں کہ اس آیت میں خدا یہ فرماتا ہے کہ جو کافر سے تعلق رکھے اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا چاہئے۔

یہ اس آیت کی تفسیر ہے کہ گمراہی ہے، یہ احادیث و آثار کی روشنی میں تفسیر ہے یا تفسیر بالرائے ہے ؟ اور پھر ان غیر مقلد سلفی مجتہد مفسر صاحب کی یہ کتنی بڑی جسارت اور کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ کہتے ہیں کہ تمام مفسرین نے اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے۔

جھوٹ بولنا غلط کہنا مبالغہ کرنا اور لمبا چوڑا دعویٰ کرنا ان غیر مقلدوں کی فطرت ہے، پیش کر دیں صرف ایک ہی حوالہ جی ہاں صرف ایک ہی حوالہ اپنی اس غلط اور باطل تفسیر کی تائید میں کسی مفسر اور تفسیر کا، تمام مفسرین کی طرف اس غلط تفسیر کی نسبت کرنا تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔

بات فی الاصل یہ ہے کہ ان غیر مقلد صاحب نے اس آیت کا خالص اردو ترجمہ بھی سمجھا نہیں ہے نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ قوما غضب اللہ علیہم سے مراد

marfat.com

کون لوگ ہیں نہ ان کو یہ معلوم ہے کہ خدا کہنا کیا چاہتا ہے۔ آیئے سنئے اس آیت کا صحیح ترجمہ اور اس کی صحیح تفسیر

حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ اس کے ترجمہ میں فرماتے ہیں:

"اے ایمان والو مت دوستی کرو ان لوگوں سے کہ غصہ ہوا ہے اللہ ان پر وہ آس توڑ چکے ہیں پچھلے گھر سے جیسے آس توڑی منکروں نے قبر والوں سے"

اس صحیح ترجمہ کے بعد اب اس کا صحیح مطلب سنئے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"یعنی منکروں کو توقع نہیں کہ قبر سے کوئی اٹھے گا اور پھر دوسری زندگی میں ایک دوسرے سے ملیں گے، یہ کافر بھی ویسے ہی نا امید ہیں"

پھر فرماتے ہیں:

بعض مفسرین کے نزدیک من اصحاب القبور کفار کا بیان ہے، یعنی جسطرح کافر جو قبریں پہونچ چکے ہیں وہاں کا حال دیکھ کر اللہ کی مہربانی وخوشنودی سے بالکل مایوس ہو چکے اسی طرح یہ کافر بھی آخرت کی طرف سے مایوس ہیں۔

دیکھا آپ نے اس آیت میں مومنین کے مایوس اور عدم مایوس ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے مایوسی کا تعلق یہود اور کفار سے ہے، مگر یہ غیر مقلد مجتہد صاحب فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کافر سے تعلق رکھے اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا چاہیئے اور اس غلط بات اور غلط تفسیر کو تمام مفسرین کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کچھ تک ہے اس بے تکی کا۔

خیر یہ تو مولانا شبیر احمد صاحب علیہ الرحمہ کی تفسیر سے صحیح معنی اور مطلب اس آیت کا بتلایا گیا، ان سے متقدم اور مشہور مفسر و محدث اور فقیہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بھی ملاحظہ فرمائیں۔

marfat.com

" قوما غضب اللہ علیھم "، کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہود ہیں اور بعض لوگوں نے اس سے عام کفار کو مراد لیا ہے، اور قد یئسوا من الآخرۃ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ:

" اگر اس سے مراد یہود ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی شقاوت اور بدبختی اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے عداوت و حسد کی وجہ سے آخرت کی نعمتوں سے مایوس ہو چکے ہیں، اور ان کو یقین ہو گیا ہے کہ آخرت میں اب ان کا کچھ حصہ نہیں ہے۔

" اور اگر اس سے مراد عام کفار ہوں تو وہ اس وجہ سے آخرت کی نعمتوں سے محروم ہیں کہ وہ ایمان بالغیب کی دولت سے مشرف نہیں ہیں اور نہ آخرت کے عذاب و ثواب پر ان کا ایمان ہے۔

" کما یئس الکفار من اصحاب القبور " کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جیسے وہ کافر جو قبر میں جا چکے ہیں اس بات سے مایوس ہو چکے ہیں کہ ان کیلئے آخرت میں ثواب کا کچھ حصہ ہو اسی طرح یہود حالت زندگی میں آخرت کے ثواب سے مایوس ہو چکے ہیں، امام مجاہد امام سعید بن جبیر وغیرہ نے یہی تفسیر کی ہے "

غرض کسی مفسر نے اس آیت کی وہ تفسیر نہیں کی ہے جو ان غیر مقلد مجتہد مفسر مرحوم مولانا محمد اسماعیل سلفی نے کی ہے، یہ محض ایجاد بندہ ہے اور " تقول علی اللہ " ہے۔

اور یہ تو سراسر افترا اور بہتان ہے کہ تمام مفسرین نے بالاتفاق یہی تفسیر کی ہے جو ان غیر مقلد مجتہد صاحب نے کی ہے، اس قابلیت پر انکو شوق ہے اجتہاد کرنے اور مجتہد بننے کا اور ائمہ فقہ و حدیث کے منہ آنے کا، اللہ تعالیٰ مولانا سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی اس شدید چوک کو معاف کرے۔

marfat.com

علم کا غرور اے لوگو
آدمی کو ذلیل کرتا ہے

اور تعجب تو یہ ہے کہ اس کتاب کو عربی کا جامہ پہنانے والے وہ فاضل ڈاکٹر صاحب جو ماشاءاللہ ازہری بھی ہیں ان کو بھی اس بھیانک غلطی کا ادراک واحساس نہ ہوسکا۔

میں اہل علم سے پوچھتا ہوں بلکہ خود غیر مقلدین میں انصاف پسند لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لئے کچھ الفاظ کا بڑھا دینا ہی گمراہی اور ضلالت ہے؟؟ اپنے کسی مطلب کو حاصل کرنے کے لئے قرآن کی کسی آیت کی معنوی تحریف اور تفسیر بالرائے سراسر ہدایت قرار پائے گی؟ اب غیر مقلدین سوچتے ہوں گے اور دل میں کہتے ہوں گے۔

یہ خود اپنی قینچی تھی جس سے کٹے
میرے دونوں بازو میرے بال و پر

بہتر ہے کہ غیر مقلدین حضرات ہوش کا ناخن لیں اور ائمۂ مجتہدین اور صحابہ کرام اور اللہ و رسول کے بارے میں اپنا زاویہ فکر درست کرلیں ورنہ

یہ وہ لمحہ ہے کہ اب بھی نہ اگر ہوش آیا
موت کو سامنے پاؤ گے جدھر جاؤ گے

(۳) مولانا محمد اسماعیل سلفی مرحوم قرآن پاک کے سلسلہ میں اپنی من مانی بات کہنے کے سلسلہ میں غالباً بڑے جری تھے اور غالباً اس کو وہ غیر مقلدیت کی سب سے اہم خصوصیت سمجھتے تھے، دیکھئے درج ذیل آیت کے سلسلہ میں انھوں نے کیا گل کھلایا ہے خدا کے اس ارشاد کے بارے میں

اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، فرماتے ہیں

وھذا المیزان قد نزل مع الکتاب ولا یراد بہ المیزان الذی

marfat.com

یوزن بہ الاشیاء المادیۃ الجسمیۃ ص۶۲ (الانطلاق الفکری)

یعنی اللہ کی وہ ذات ہے جس نے حق کے ساتھ قرآن اتارا اور میزان، یہ میزان کتاب اللہ کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اس میزان سے مراد وہ ترازو نہیں ہے جس سے مادی اشیاء تولی جاتی ہیں۔

تو اس میزان یعنی ترازو سے کیا مراد ہے، فرماتے ہیں:

بل ھو میزان یساعد فی فھم الکتاب والسنۃ .....

وقد سمی ذلک فی اصطلاح الفقھاء بالقیاس۔

بلکہ اس میزان سے مراد وہ میزان ہے جو کتاب و سنت کے سمجھنے میں معاون بنتی ہے اور اسی کو فقہاء کی اصطلاح میں قیاس کہا جاتا ہے۔

اس وقت مجھے اس سلسلہ میں یہیں تک کی بات پر گفتگو کرنی ہے۔ (۱)

میری گذارش ہے کہ مولانا محمد اسمٰعیل سلفی کا قطعیت کیساتھ یہ کہنا کہ میزان سے مراد یہاں قیاس ہے بالکل غلط ہے، کسی سلفی مفسر کے حوالہ سے کوئی غیر مقلد عالم مولانا سلفی کی اس بات کی تائید پیش کر دے، یہ قرآن کی من مانی تفسیر ہے، یہ تفسیر بالرائے ہے جو عمل حرام ہے، اور جس کا وبال اور جس کا گناہ بڑا سخت ہے۔

لفظ میزان سے مراد عام مفسرین نے یا تو وہی میزان یعنی وزن کرنے کا ترازو لیا ہے یا عدل، کہ اس کے ذریعہ بھی لوگوں کے درمیان برابری کا معاملہ ہوتا ہے۔ یا کسی نے وہم و خیال کے درجہ میں پوری شریعت بھی لفظ میزان سے مراد لی ہے، مگر قطعیت کے ساتھ اس آیت کی تفسیر میں میزان سے قیاس مراد لینا ہم نے کسی بھی معتبر تفسیر کی کتاب میں نہیں پایا، اگر غیر مقلدین اہل علم کے نزدیک اور انکے

---

(۱) ناظرین اس آیت پر اور مولانا سلفی کی اس تفسیر پر پوری گفتگو اسی کتاب میں "قیاس کا ثبوت قرآن سے" کے عنوان میں ص۔ پر دیکھ لیں۔

marfat.com

علم میں یہ بات ہو کہ اس "میزان" نے سلف میں سے کسی نے قیاس مراد لیا ہو تو وہ ثابت کریں تاکہ ہم بھی اس سے استفادہ کریں۔

مولانا محمد اسماعیل سلفی اس جماعت غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم تھے اور بقول ڈاکٹر مقتدیٰ حسن ازہری کتاب وسنت میں انکو امامت کا درجہ حاصل تھا، مولانا سلفی مرحوم کی علمیت کا ہمیں انکار نہیں، رہے ہوں گے جماعت غیر مقلدین کے "امام زماں" مگر قرآن کے سلسلہ میں جو ان کی قرآن فہمی کے دو ایک نمونے انکی کتاب حرکۃ الانطلاق الفکری میں ہمیں ملتے ہیں ان سے ان غیر مقلد امام صاحب کے بارے میں ہم کوئی اچھی رائے قائم نہیں کر پا رہے ہیں، ویسے علامہ ہونا تو آج کل بائیں ہاتھ کا کھیل ہے جس نے تقلید کے خلاف دو چار نعرہ لگا دیا اور دو ایک کتاب لکھ دی، اسلاف کو کھری کھری سنا دی صحابہ کرام کے بارے میں بے باکانہ اظہار خیال کیا وہ "علامہ" بن گیا جیسے مولانا مودودی اور آگے بڑھا تو "امام زماں" بن گیا جیسے مولانا محمد اسماعیل سلفی۔

رہزنوں سے کرد رہبری کی امید

ایں خیال است و محال است و جنوں

مولانا محمد علی جوناگڈھی غیر مقلدوں کے زبردست عالم غیر مقلدیت کے زبردست وکیل اور رد تقلید میں خاص امتیاز کے حامل شخص کا نام ہے، قرآن کے سلسلہ میں انکی جرأت وبے باکی اور تفسیر بالرائے میں ان کی پیش قدمی کے چند نمونے ہم یہاں ذکر کریں گے۔

(۴) سورۂ حدید میں ایک جگہ ان تخشع قلوبھم آیا ہے، اس کا ترجمہ جوناگڈھی صاحب "پگھل جائے ان کا دل" کر رہے ہیں۔ (طریق محمدی ص۶)

حالانکہ قرآن میں ایک جگہ نہیں لفظ خشوع متعدد جگہ آیا ہے کہیں اس کا ترجمہ کسی مترجم نے پگھلنا نہیں کیا ہے

marfat.com

(۵) سورہ نور کی آیت

فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبھم فتنۃ او یصیبھم عذاب الیم، کا ترجمہ فرماتے ہیں۔

یعنی ہمارے نبی کا خلاف کرنے والے ڈرتے رہا کریں انھیں ضرور کوئی زبردست فتنہ یا دردناک عذاب پہونچے گا۔ (طریق محمدی ص۳)

میری گذارش ہے کہ یہ ترجمانی ہے نہ ترجمہ بلکہ قرآن کی معنوی تحریف ہے، ناظرین کرام صحیح ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔

"سو ڈرتے رہیں وہ لوگ جو خلاف کرتے ہیں اس کے حکم کا کہ آ پڑے ان پر کوئی فتنہ یا پہونچے انکو عذاب دردناک۔

اس آیت کا سیدھا سادھا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو مخالفت کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہئے کہ کہیں اس مخالفت کے نتیجہ میں وہ کسی فتنہ یا دردناک عذاب سے دوچار نہ ہوجائیں۔

کسی بھی تفسیر میں آپ دیکھ لیں اس آیت کا اس کے سوا کوئی دوسرا مطلب آپ کو نہیں ملے گا مگر یہ غیر مقلد عالم صاحب فرماتے ہیں جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا وہ ضرور کسی فتنہ میں یا دردناک عذاب میں پڑیگا قرآن کے مفہوم اور اللہ کی مراد کو بالکل الٹ دیا۔ ذرا کوئی ان غیر مقلد صاحب سے پوچھے یہ ضرور کس لفظ کا ترجمہ ہے۔

ایک جگہ یہی غیر مقلد صاحب لکھتے ہیں:

تمام لوگ قرآن و حدیث کے خلاف کر کے اپنے فعل کی دلیل تقلید کو بتلاتے رہے، قرآن ان کے اس مذموم فعل (یعنی تقلید) کی مذمت ان الفاظ میں ظاہر کرتا ہے واذا فعلوا فاحشۃ قالوا وجدنا علیھا اباءنا خلاف شرع کرکے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے

marfat.com

بڑے بھی یہی کیا کرتے تھے ، (صنا۔ ایضا)

ان غیر مقلد صاحب پر تقلید کے انکار کا بھوت سوار ہے اور ان کے دل سے خدا کا خوف ایسا نکل گیا ہے کہ قرآن کا جو چاہا مطلب بیان کر دیتے ہیں فاحشۃ سے مراد ان کے نزدیک تقلید ہے اور اس کا ترجمہ خلاف شرع کر کے زبردستی اس لفظ کو تقلید پر فٹ کر رہے ہیں ۔

مولانا امرتسری مرحوم کا بھی اردو ترجمہ اور تفسیر ہے کوئی غیر مقلد ہمیں دکھلا دے کہ انھوں نے فاحشۃ سے مراد یہاں تقلید لیا ہے یا اس کا ترجمہ خلاف شرع کیا ہے ۔

فاحشۃ سے مراد یہاں برا کام، بے حیائی کا کام، گندا کام ہے، مشرکین خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے عورتیں بھی برہنہ ہوتی تھیں اور مرد بھی برہنہ ہوتے تھے ، اور ایک ساتھ مل کر مرد و عورت طواف کیا کرتے تھے انکے اسی برے کام کا یہاں تذکرہ ہے مگر اس کو یہ غیر مقلد عالم صاحب تقلید پر چسپاں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاحشہ سے مراد یہاں خلافِ شرع کام یعنی تقلید ہے ۔

اس کے بعد واللہ امرنا بہا کا بھی لفظ ہے یعنی مشرکین کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس بے حیائی کے کام کا حکم دیا ہے، ان کے اس کہنے پر اس کے بعد ہی اللہ کا یہ ارشاد بھی ہے قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء ۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ برے کام کا حکم نہیں دیتا یہاں فحشاء کا لفظ لا کر اس فاحشہ کی پوری وضاحت کر دی گئی کہ جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے وہ فحشاء میں داخل تھا ۔

اس غیر مقلد نے فاحشہ کا ترجمہ خلاف شرع کام کر کے اپنے علم اپنی دیانت کا جنازہ نکال دیا ہے، اس مترجم سے کوئی پوچھے قبر پر چادر چڑھانا خلافِ شرع کام ہے کہ نہیں، مگر کیا وہ اسے فاحشہ کہے گا، اوقات مکروہ میں نماز پڑھنا

marfat.com

خلاف شرع کام ہے کہ نہیں، کیا یہ غیر مقلد اس کو بھی فاحشہ کہے گا، نماز کے بعد زور سے دعا، ثنائی کرنا خلاف شرع کام ہے کہ نہیں کیا یہ غیر مقلد عالم اسکو بھی فاحشہ کہے گا۔ غیر مقلدوں کے نزدیک قبر رسول صلے اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیلئے سفر کرنا خلاف شرع کام ہے کیا وہ اس کو فحشاء میں داخل کرے گا۔

غیر مقلدیت آدمی کو کتنا دیوانہ اور خدا کی شان میں کتنا بے باک بنادیتی ہے یہ ترجمہ یا ترجمانی اس کا ایک نمونہ ہے، خدا سوء فہم سے محفوظ رکھے۔

خود بدلتے نہیں قرآں کو بدل دیتے ہیں

(۷) قرآن کی اس آیت کا ترجمہ دیکھئے۔

ان عندکم من سلطان بھذا (سورۂ یونس آیت تمبشر طریق محمدی صـ۱۲)

کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے ؟

یہ اس آیت کا ترجمہ ہے یا کلام ربانی کی تحریف ہے، کیا قرآن کا یہ پورا جملہ کوئی سوال ہے ؟ یہ ہے ان غیر مقلدوں کی قرآن فہمی اور ایمان داری اور اسلام پسندی۔

اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے۔

نہیں ہے سند تمہارے پاس کوئی اس کی، یہ جملہ خبر ہے سوال انشا ہوتا ہے) یعنی اے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والو جو تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ عیسیٰ معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں، تمہارے پاس اس کی کوئی سند اور کوئی دلیل نہیں ہے۔

اس آیت کو غیر مقلد جونا گڈھی صاحب مقلدین کے رد میں پیش کر رہے ہیں، بات کہاں کی ہے اور فٹ کہاں کی جارہی ہے اسی کو کہتے ہیں مارو گھٹنا پھوٹے سر۔

(۸) قرآن کی آیت

ولا تجھروا لہ بالقول کجھر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم

marfat.com

وانتم لا تشعرون کا ترجمہ جوناگڑھی صاحب نے یہ کیا ہے
جیسے آپس میں اونچی اونچی باتیں کرتے ہو خبردار میرے نبی کے سامنے
یہ بے ادبی نہ کرنا ورنہ تمام نیکیاں غارت ہو جائیں گی (ص۱۶ ایضا)
قرآن کے الفاظ میں اپنی طرف سے الفاظ بڑھا دینا جناب باری میں بہت بڑی گستاخی ہے، میں اہلحدیثوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ یہ خبردار جو اتنے گرجدار وگونجدار آواز میں کہا گیا ہے، یہ قرآن کی اس آیت کے کس لفظ کا ترجمہ ہے۔؟

(۹) ذرا اس آیت کا ترجمہ ناظرین ملاحظہ فرمائیں:

ومایںطق عن الھوی ان ھوالا وحیی یوحی

غیر مقلد مترجم اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں:

یعنی ہمارے نبی زبان بھی نہیں ہلاتے جب تک کہ ان کے پاس ہمارے طرف سے وحی نہ آجائے۔ (ص۲۰ ایضا)

اگر یہ ترجمہ ہے تو غلط اور اگر ترجمانی ہے تو بھی غلط ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔

اور نہیں بولتے ہیں اپنی نفس کی خواہش سے، یہ تو حکم ہے بھیجا ہوا۔
ہر مسلمان کے گھر میں مترجم کلام پاک ہوگا، ذرا ملا کر دیکھ لیں کہ میں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ صحیح ہے یا اس جوناگڈھی غیر مقلد عالم نے ترجمہ یا جو ترجمانی کی ہے صحیح ہے۔

خط کشیدہ عبارت پر غور کریں کیا یہ ان ھوالا وحیی یوحی کا ترجمہ یا ترجمانی ہے اور "جبتک کہ" اس آیت کے کس لفظ کا ترجمہ ہے۔

(۱۰) اس آیت کا ترجمہ بھی ملاحظہ ہو۔

ربنا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل

marfat.com

یعنی اے ہمارے رب ہم اپنے سرداروں اور بڑوں کے پیچھے لگ گئے
انکی ملنتے رہے اور راہ حق سے بھٹک گئے ص۴۴
ذرا کوئی ان غیر مقلد عاشق قرآن و حدیث سے پوچھے کہ میاں صاحب اس آیت
میں وہ کون سا لفظ ہے جس کا ترجمہ آپ نے پیچھے لگنا کیا ہے۔
پھر راہ حق سے بھٹک گئے، یہ فاضلونا السبیل کا ترجمہ ہے
یہ نواب صاحب بھوپالی اور میاں صاحب دہلوی کی کوئی کتاب نہیں ہے کہ
جو چاہا مطلب بیان کر دیا، جو چاہا ترجمہ کر دیا یہ خدا کی کتاب ہے، اور خدا کے
کلام میں اپنی طرف سے من گھڑت باتیں ملانے والوں کا انجام، جی ہاں انجام یہ
ہے، خدا کا ارشاد سنو۔

اگر گڑھ لیتا (اپنی طرف سے) ہم پر کوئی بات تو ہم پکڑ لیتے اسکا
داہنا ہاتھ پھر کاٹ ڈالتے اسکی گردن پھر تم میں کوئی نہیں جو اسے بچالے
(الحاقہ)

اب مذکورہ بالا آیت کا صحیح ترجمہ ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔
• اے رب ہم نے اپنے بڑوں اور سرداروں کا کہا مانا تو انھوں نے
ہم کو راستہ سے بھٹکا دیا۔
قارئین کرام دونوں ترجموں کا فرق ملاحظہ کرلیں۔

(۱۱) مولانا جونا گڈھی فرماتے ہیں:
قرآن پاک خداوند تعالیٰ کی وحی قرآن وحدیث کو ماننے اور اسکے سوا
کسی اور کے نہ ماننے کے کھلے الفاظ میں منادی کرتا ہے، فرماتا ہے
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء
اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیز قرآن وحدیث کی تابعداری کرو ص۲۲
میں کہتا ہوں کہ ما انزل الیکم من ربکم کی تفسیر یا ترجمہ میں قرآن وحدیث

کہنا یہ مولانا جونا گڈھی کی انتہائی جرأت ہے۔

حدیث کا مقام چاہے جتنا بلند کرو مگر خدا کے کلام میں تحریف تو نہ کرو، جو بات جہاں تک ہو اس سے آگے بڑھنا اور وہ بھی مراد خداوندی بتلاتے وقت گمراہی اور ضلالت ہے۔ کیا بخاری و مسلم یا احادیث کی دوسری کتابوں میں جو کچھ ہے وہ آسمان سے اترا ہوا کلام خداوندی ہے؟ کیا حدیث ماانزل الیکم من ربکم میں داخل ہے؟ یہ قرآن کی معنوی تحریف نہیں ہے؟

(۱۲) یہی مولانا جونا گڈھی دیکھئے درج ذیل آیت میں اپنی طرف سے من گھڑت بات بڑھا کر کس طرح اس آیت کے مضمون کو مقلدین پر فٹ کر رہے ہیں فرماتے ہیں:

وقال الرسول یارب انی قومی اتخذوا ھذا القرآن مھجورًا

یعنی یہ نبی کہیں گے خدایا میری امت کی اس جماعت نے تیری پاک کتاب چھوڑ رکھی تھی۔ ص۴۵

میں اہل علم سے پوچھتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کا یہ ترجمہ ہے، ترجمانی ہے یا تحریف؟ یہ غیر مقلدین ایسے دیوانے ہو گئے ہیں، خدا کے کلام کا معنی اور مفہوم بیان کرنے میں اس قدر جرأت و بیباکی، نہ حیا نہ شرم، عدم تقلید کا بھوت سر پر سوار ہے۔

میں کہتا ہوں کہ میری امت اور اس جماعت کے الفاظ بڑھا کر اس غیر مقلد عالم نے جو مفہوم اخذ کرنا چاہا ہے اس آیت میں اس کا کہیں دور دور نشان بھی ہے؟ قرآن اور خدا کا نام لے کر خلق خدا کو گمراہ کرنے کی ایسی ذلیل حرکت کرنا کیا اہل ایمان کا کام ہو سکتا ہے؟

آیت کریمہ کا صحیح ترجمہ یہ ہے۔

اور کہیں گے رسول کہ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔

marfat.com

دیکھئے قرآن کہنا کیا چاہتا ہے اور اس غیر مقلد نے قرآن کا مفہوم کیا سے کیا بنا دیا۔

(۱۳) یہی جونا گڈھی صاحب اس کتاب کے صا۶۸ پر فرماتے ہیں:

واذا قیل لھم اتبعوا ما انزل اللہ، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ اٰبائنا۔ یعنی جب انھیں قرآن وحدیث کی تابعداری کرنیکو کہا جاتا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ ہم سے اپنے بڑوں کی تقلید نہیں چھوڑی جا سکتی۔

اس آیت میں وہی تحریف کے ما انزل اللہ میں حدیث کو بھی داخل کر دیا، اور نتبع کا ترجمہ تقلید سے کر کے قرآن کی اس آیت کا مفہوم ہی مسخ کر دیا۔ اتبعوا کا ترجمہ تابعداری سے کیا اور جب یہی لفظ نتبع کی شکل میں آیا تو اس کا ترجمہ تقلید کر دیا، تقلید اور عدم تقلید کا بھوت ایسا سوار ہے کہ انکی عقل ماؤف ہو چکی ہے۔ اور پھر کمال تو یہ ہے کہ

قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ اٰبائنا کا ترجمہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم سے اپنے بڑوں کی تقلید نہیں چھوڑی جا سکتی۔ کیا ٹھکانا ہے اس عقل کا، ناظرین ترجمہ والا قرآن پاک اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، اگر اتباع اور تقلید دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے تو پھر غیر مقلدین یہ کیوں کہتے ہیں کہ شریعت میں اتباع جائز ہے اور تقلید حرام؟

(۱۴) مولانا جونا گڈھی طریق محمدی کے صا۳ پر فرماتے ہیں۔

خداوند عالم فرماتا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید یعنی یہ قرآن پاک ہے جو حکمت والے تعریفوں والے خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے نہ تو اس کے سامنے سے باطل آسکے نہ پیچھے سے، ٹھیک یہی بشارت حدیث شریف

marfat.com

کی نسبت بھی وارد ہوئی ہے سورہ جن میں فرمان ہے۔ فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربھم۔ یعنی رسول نے رسالت پہونچادی اس کے معلوم کرلنے کو اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر ہوتے ہیں۔

اہل علم غور فرمائیں یہ کسی پڑھے لکھے کی بات معلوم ہوتی ہے یا کسی مجذوب کی بڑ، یہ قرآن کے ساتھ کھیل کیا جارہا ہے یا قرآن کی آیات کی ترجمانی اور تفسیر یا ان آیات کا ترجمہ کیا جارہا ہے، حدیث کو وحی الہیٰ کا درجہ دینے اور قرآن کے ہم مرتبہ بنانے کی یہ کوشش دین وایمان کی کون سی قسم ہے؟ ان آیات سے جو معنی اور جو مفہوم ہمارے یہ غیر مقلد صاحب اخذ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ان آیات میں کہیں دور دور بھی پتہ ہے؟ مضامین قرآن کی یہ تحریف انا للہ وانا الیہ راجعون۔

میں غیر مقلدین حضرات ہی سے گذارش کروں گا کہ اگر انصاف و دیانت کا ان کے یہاں کچھ نام ونشان ہے تو بتلائیں کہ مولانا محمد جوناگڈھی غیر مقلد صاحب کا یہ کلام ان آیاتِ قرآنیہ کے مضامین کی تحریف ہے کہ نہیں؟ اگر ہے اور یقیناً ہے تو پھر غیر مقلدین علماء نے اپنے کانوں میں آج تک انگلی کیوں ڈال رکھی ہے صرف دوسروں ہی کی تحریفات انھیں نظر آتی ہیں، یہ جو تحریفات کے بڑے بڑے شہتیر ہیں آخر ان کی نگاہ سے کیوں غائب رہتے ہیں۔

یہاں "رسول" کی نہیں "رسولوں" کی بات کی جارہی ہے، اور یہ صاحب صرف رسول کا ذکر کرکے لوگوں کا ذہن نبی آخرالزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی طرح "حدیث" کا وہ غلط مفہوم اخذ ہوسکے جس کی کوشش میں یہ مولانا صاحب قرآن کی تحریف میں

marfat.com

لگے ہوئے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

چوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد

(۱۵) مولانا محمد صاحب جونا گڈھی فرماتے ہیں:

ناظرین یہ ہے نقشہ آپ کے سامنے اب ایک شخص جو صرف ابو حنیفہ نام سن کر ہی دم بخود ہو جانے والا ہو وہ غور تو کرے کس ابو حنیفہ کا کلام مجھے لوگ پہنچا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہا جائے ماتعبدون من دونہ الا اسماءً سمیتموھا انتم وآبائکم من انزل اللہ بہا من سلطان، یعنی نام کی پکار وہ چیز ہے جس پر کوئی دلیل نہیں۔ (طریق محمدی ص۶۵)

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دشمنی میں یہ صاحب قرآن میں سخت قسم کی تحریف معنوی کے مرتکب ہوے ہیں، قرآن کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں ماتعبدون من دونہ کا لفظ دیکھئے اور ان قابل مفسر یا مترجم کا ترجمہ دیکھئے، فرماتے ہیں کہ یعنی نام کی پکار وہ چیز ہے جس پر کوئی دلیل نہیں، کوئی صاحب ان سے پوچھیں کہ کیا یہ ماتعبدون من دونہ کا ترجمہ ہے؟ قرآن کی یہ تحریف انا للہ وانا الیہ راجعون پوری آیت کا ترجمہ ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔

تم لوگ نہیں پوجا کرتے ہو (عبادت کرتے ہو) اللہ کے سوا مگر کچھ ناموں کی جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا ہے اللہ نے ان کے ساتھ کوئی دلیل نہیں اتاری۔

کسی بھی لغت میں عبادت کا ترجمہ پکارنا نہیں ہے۔ مگر یہ غیر مقلد عالم صاحب امام ابو حنیفہ اور احناف کی دشمنی میں یہاں عبادت کا ترجمہ نام کا پکارنا کر رہے ہیں۔ خدا کی پناہ قرآن کا نام لے کر اور قرآن کے ساتھ یہ جرأت وگستاخی قرآن کی جس آیت کو جہاں چاہا فٹ کر دیا، جو چاہا اس کا معنی بیان کر دیا اور ابھی

marfat.com

من مانی جو چاہا آیت قرآنیہ کی تفسیر کر دی، کچھ ٹھکانا ہے اس ضلالت و گمرہی کا۔

(۱۶) یہی جوناگڈھی صاحب فرماتے ہیں:

حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم خدا ہوتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس ولا تتبع الھوی

(ص آیت ۲۶)

پس یہاں بھی تقسیم انھیں دونوں قسموں کی طرف ہے یعنی یا تو حق جو وحی الٰہی ہے یعنی قرآن وحدیث یا اتباع ہوی یعنی اسکے سوا جو ہے (طریق محمدی صث)

یہ قرآن کی آیت کا مطلب بیان ہو رہا ہے یا مار و گھٹنا پھوٹے سر والا کام انجام دیا جا رہا ہے

ناظرین غور فرمائیں کہ اس آیت کا تعلق حضرت داؤد سے ہے خدا کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے داؤد ہم نے زمین میں تم کو حاکم بنایا ہے، پس لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا کرنا اور خواہش کی اتباع مت کرنا۔

اس آیت میں تو حاکموں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ مقدمات کے فیصلہ کرتے وقت حق کی رعایت ملحوظ رہے اور کسی معاملہ میں اپنی خواہش کی پیروی نہ کیجائے کہ جس سے کسی صاحب حق کا حق مارا جائے۔

مگر ان غیر مقلد صاحب کو جن پر رد تقلید کا بھوت سوار ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں قرآن وحدیث نظر آتا ہے، کیا داؤد علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا تھا، یا داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں حدیث تھی کہ داؤد علیہ السلام کو قرآن وحدیث پر عمل کرنے کا پابند بنایا جا رہا ہے۔

سچ ہے اللہ والوں سے دشمنی عقل کو الٹ دیتی ہے، اور جن کی عقل الٹ جائے تو اگر ان کو حضرت داؤد کے زمانہ میں قرآن وحدیث نظر آنے لگے تو کچھ تعجب نہیں۔

(۱۷) یہی مولانا جوناگڈھی صاحب جو بیچارے رد تقلید کے جوش میں اپنا

marfat.com

ہوش کھو بیٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں :

۔ اور جگہ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء ۔ (اعراف آیت ۳) مسلمانو صرف اسی کی اتباع کرو جو تمہاری جانب تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کے سوا اپنی فرضی مقتداؤں کی تابعداری میں نہ لگو (طریق محمدی ص۵)

اولیاء کا ترجمہ مولانا جونا گڈھی فرضی مقتداؤں کر رہے ہیں، ناظرین آپ قرآن کھولیں آٹھویں پارہ میں سورہ اعراف کی تیسری آیت کسی بھی ترجمہ والے قرآن میں دیکھ کر آپ خود ہی فیصلہ کرلیں کہ کس مترجم نے اولیاء کا ترجمہ فرضی مقتداؤں سے کیا ہے۔

یہ غیر مقلدین قرآن کو میاں صاحب دہلوی اور نواب صاحب بھوپالی کی کوئی کتاب سمجھ رہے ہیں کیا کہ جس لفظ کا جو چاہا مطلب بیان کر دیا۔

یہ شریعت کے خادم ہیں، قرآن وحدیث پر فریفتہ ہونے والے اور جان چھڑکنے والے ہیں، اور حال یہ ہے کہ قرآن کو اپنی خواہش کا تابع بنا رکھا ہے، جو چاہا ترجمہ کر دیا، جو چاہا مطلب بیان کر دیا، اور یہ بھول گئے کہ قرآن پاک کا اپنی رائے سے مطلب بیان کرنا سیدھا جہنم میں لے جائے گا۔

غیر مقلدیت خدا ورسول کی شان میں انسان کو کتنا جری بنا دیتی ہے ناظرین اس کا اندازہ کر رہے ہوں گے۔ (۱)

(۱۸) مولانا جونا گڈھی فرماتے ہیں :

یہی لفظ ذکر اس آیت میں بھی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ

---

(۱) میری کتاب۔ تحریفاتِ قرآنیہ اور غیر مقلدین علماء۔ میں مزید تفصیل ملاحظہ فرمائیے گا۔ انشاء اللہ یہ کتاب بہت جلد طبع ہوگی۔

marfat.com

لحافظون یعنی اس ذکر کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں
مسلمانو! ایمان سے بتلاؤ کیا اس لفظ ذکر سے سوا قرآن و حدیث
کے کچھ اور بھی مراد ہو سکتا ہے۔ ص ۱۴۰

یہاں بھی وہ تحریف، اور وہی قرآن کے برابر حدیث کو کرنے کی سعی ناپاک ہیں عام مسلمانوں سے گذارش کروں گا، چودھواں سیپارہ کا پہلا صفحہ کھولیں اس پر آپکو یہ آیت مل جائے گی پھر کسی بھی ترجمہ والا قرآن یا کوئی بھی عام فہم تفسیر میں دیکھ لیں سلف میں سے کسی صحابی یا تابعی نے۔ الذکر۔ سے مراد یہاں قرآن کے سوا حدیث کو بھی لیا ہے؟

خدا تو دشمنان اسلام سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے کہ:
یاد رکھو اس قرآن کو اتارنے والے ہم ہیں اور ہم ہی نے اسکی ہر قسم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔

اور مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت
حفاظت قرآن کے متعلق یہ عظیم الشان وعدہ الٰہی ہے

اور جوناگڈھی صاحب تحریف کرتے ہوئے نہایت بے شرمی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کے ساتھ حدیث بھی ہے، اور جس طرح اللہ نے قرآن کو آسمان سے اور لوح محفوظ سے نازل کیا اسی طرح حدیث بھی نازل کی گئی ہے اور جس طرح قرآن کی حفاظت کا وعدہ الٰہی ہے اسی طرح حدیث کی حفاظت کا بھی وعدہ الٰہی ہے۔

قرآن کے الفاظ سے یہ کھلواڑ کرنے والے اپنے ایمان کی خیر منائیں اور دوسروں پر تحریف قرآن کا افترا کرنے والے اور بھول چوک کو تحریف کا نام دیکر پروپیگنڈہ کرنے والے اپنے گریبان میں بھی ذرا منہ ڈال کر دیکھ لیں۔

ناظرین کرام یہ چند مثالیں ہیں نے غیر مقلدین علماء کی صف کے دو بڑے علماء

marfat.com

کی قرآن کے سلسلہ میں تحریف لفظی و معنوی کی بیش کی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ غیر مقلدین علماء کے نزدیک قرآن کے سلسلہ میں کس درجہ بد احتیاطی برتی جاتی ہے، انکے نزدیک قرآن کے مفہوم کے توڑ مروڑ کا سلسلہ کسقدر زور وشور سے قدیم ہی سے جاری رہا ہے، ان کے نزدیک خدا ورسول کا درجہ برابر ہے، ان کے نزدیک قرآن وحدیث کا درجہ برابر ہے۔ ان کے نزدیک حدیث بھی آسمان سے اتری ہوئی چیز ہے، انکے نزدیک جس طرح قرآن کی یہ صفت ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ بالکل یہی صفت حدیث کی بھی ہے کیا یہ گمراہی نہیں ہے؟ کیا یہ دین وشریعت کو بدلنا نہیں ہے؟ کیا یہ بددینی نہیں ہے؟ آج تک سلف وخلف میں سے کس نے حدیث کو قرآن کا درجہ دیا، کس نے کہا کہ قرآن کی طرح حدیث بھی آسمان سے اتری ہے، کس نے کہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر میں ذکر سے مراد حدیث بھی ہے؟ (۱)

اور جب غیر مقلدین کی ان گمراہیوں پر ان کو متنبہ کیا جاتا ہے تو یا اپنی اصلاح حال کیا کرتے دوسروں کو سب وشتم کرتے ہیں فانا للہ وانا الیہ راجعون

اس طرح خلق کو گمراہ کیا کرتے ہو
غیرت حق کو چیلنج دیا کرتے ہو

---

(۱) ہمارے ایک کرم فرما فرماتے ہیں "تقلید اور جمود سے باہر نکلئے، یہ ذہنیت آج کے دور میں مقبول نہیں ہوسکتی" (محدث بنارس اگست ۹۰ء) یہ غیر مقلدین حضرات جو تقلید اور جمود سے باہر نکل گئے ہیں قرآن کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، قرآن کی تحریف کر رہے ہیں، غلط معنی بیان کر رہے ہیں، غلط تفسیر کر رہے ہیں، اور یہ سب ماشاء اللہ "مقبول ذہنیت" کے ساتھ کر رہے ہیں۔

marfat.com

غیر مقلدین حضرات کے چند فقہی مسائل

غیر مقلدین حضرات کا ایک رسالہ ہے جس کا نام "تعلیم الصلوٰۃ" ہے اسکے ٹائیٹل پر درج ذیل عبارت ہے۔

رسالہ "تعلیم الصلوٰۃ" جس میں اسلام کے رکن اعظم (نماز) کے متعلق تمام ضروری مسائل (جن کا جاننا تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر لازم ہے) سادہ اور سلیس اردو میں بیان کئے گئے ہیں۔

منجانب: اہلحدیث کانفرنس دہلی بمنظوری اراکین مجلس شوریٰ۔

اس رسالہ کے اس تعارف سے کتاب کی قیمت کا اندازہ لگتا ہے، غرض یہ رسالہ باتفاق علمائے اہلحدیث معتبر اور مستند ہے۔ اب اس رسالہ کے مندرجہ ذیل مسائل دیکھئے۔

(۱) نواقض وضو کے سلسلہ میں لکھا ہے:

پیشاب پاخانہ ہوا نکلنے سے اور لیٹ کر سو جانے سے اور اونٹ کا گوشت کھانے سے اور قے ہو جانے سے اور ذکر کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ص۵

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قے مطلقاً ناقض وضو ہے خواہ اس کی مقدار تھوڑی ہو یا زیادہ۔

نیز یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کا چھونا بھی مطلقاً ناقض وضو ہے خواہ پردہ کے ساتھ ہو یا بلا پردہ۔

(۲) موجبات غسل کے سلسلہ میں لکھا ہے:

marfat.com

اس طرح صحبت کرنے سے جب منی شہوت کے ساتھ نکلے (یعنی
غسل واجب ہوتا ہے) ص۵

اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی نے جماع کیا اور اس کو منی بھی نکلی مگر یہ منی شہوت کے ساتھ نہیں نکلی تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔
جی ہاں اجتہاد اور تفقہ فی الدین اسی کا نام ہے ۔

(۳) نیز موجبات غسل کے سلسلہ میں لکھا ہے :

یا دونوں (یعنی میاں بیوی) کے ستر ملنے سے ص۵

اوپر لکھا ہے کہ صحبت کرنے سے بھی غسل واجب نہیں ہوگا تاآنکہ منی کا خروج ہو اور خروج بھی شہوت کے ساتھ ہو ، اور یہاں فرمایا جارہا ہے کہ اگر میاں بیوی کا محض ستر بھی مل گیا تو بھی غسل واجب ہوگا ۔ عورت کا ستر پورا بدن ہے چہرہ اور کف اور قدم کو چھوڑ کر مرد کا ستر گھٹنے سے زیر ناف تک ہے ۔

اب ان غیر مقلدین حضرات سے پوچھئے کہ اگر مرد کی ران عورت کی پیٹھ پر یا اس کی ران پر یا اس کے پیٹ پر پڑ جائے ، اور دونوں کی ستر اس طرح سے چھو جائے تو کیا محض اس چھو جانے سے بھی مذہب غیر مقلدین میں غسل واجب ہوتا ہے ؟ مجتہد صاحبوں کے کیا کہنے ،

(۴) نیز موجبات غسل کے بیان میں یہ بھی لکھا ہے :

اسی طرح مسلمان مرنے سے اور مسلمان ہونے سے غسل کرنا لازم
آتا ہے ۔ ص۵

لیجیئے اب مردے بھی غسل کیا کریں گے ، اور جب وہ مرجائیں گے تو مردوں سے کہا جائے گا ، زندہ ہو جاؤ اور غسل کرو تم پر غسل واجب ہے ۔ مگر سوال یہ ہے کہ جب وہ مردہ غسل کر کے پھر مرے گا تو پھر اس پر غسل واجب ہوگا

marfat.com

اور زندہ ہونے اور مرنے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا آخر اس کو کفنایا اور دفنایا کب جائے گا۔ ؟

اور رہا یہ سوال کہ مردہ زندہ کیسے ہوگا تو اس کا آسان نسخہ یہ ہوگا کہ کسی بھی چلتے پھرتے عالم جاہل غیر مقلد کو پکڑ لایا جائے گا اور وہ

ابن قیم مددے - قاضی شوکاں مددے

کا ایک نعرہ موحدانہ مارے گا اور مردہ دم کی دم میں اٹھ کر بیٹھ جائے گا غرض اس طریقہ سے مردہ کا زندہ ہونا تو آسان ہے مگر اصل مسئلہ وہی ہے کہ آخر وہ مردہ پھر مرے گا تو پھر اس پر غسل واجب ہوگا آخر اس تسلسل سے نجات کی کیا شکل ہے ؟

غیر مقلدین حضرات بس اسی کا حل بتلادیں

اے روشنیٔ طبع تو بر من بلا شدی

(۴) اسی رسالہ میں لکھا ہے :

پھر مسجد میں بیٹھنے سے پہلے دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھے یہ نماز اہل حدیث کے نزدیک واجب ہے ص۹

مگر اس واجب پر عموماً اہلحدیث حضرات کا عمل نہیں۔

(۵) اسی کتاب میں لکھا ہے :

پھر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم (پڑھے) یہ ہر سورت قرآن کی ایک آیت ہے نماز جہری میں جہر سے اور نماز سری میں سر سے کہنا بہتر ہے۔ ص۱۱

جب بسم اللہ کا جہری میں جہر سے کہنا بہتر ہے تو آمین کی طرح غیر مقلدین کی مساجد میں یہ سنائی کیوں نہیں دیتا، کم سے کم ہمارے اطراف کے غیر مقلدین کی مسجدیں اس شور سے نا آشنا ہیں اور کہیں ہو تو ہو۔

ذرا غیر مقلدین حضرات یہ بھی بتاتے چلیں کہ بسم اللہ جہراً نماز میں کہنے کی

marfat.com

کوئی حدیث صحیح بھی ہے!

(۶) اسی کتاب میں ہے :

اور فجر و مغرب و عشاء میں پکار کر اور جیسے تشہد اوسطا کو جلد پڑھ کر کھڑا ہو جائے ۔ ص۱۱

اس " جیسے " کا کیا مطلب ہے یعنی فجر اور مغرب اور عشاء میں جس طرح پکار کر قرات کرنی ہے اسی طرح " تشہد اوسط " کو بھی پکار کر پڑھنا جائے گا ،

جن کو صحیح عبارت لکھنے کا ڈھنگ نہیں انھیں حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ مجتہد بنیں اور قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کریں ۔

پھر تشہد کو جلد پڑھنے کا کیوں حکم ہے ، نماز تو اطمینان سے پڑھی جاتی ہے کیا یہ " تشہد اوسط " نماز سے باہر ہے کہ اس کو جلد پڑھنا ضروری ہے ، یا اس وجہ سے اس کو جلد پڑھنا چاہیے کہ اس میں پیارے نبی صلے اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا جاتا ہے ؟

سنبھل کے رکھنا قدم دشت خار میں مجنوں
کہ اس نواح میں سودا برہنہ پا بھی ہے

(۷) اسی کتاب میں لکھا ہے :

پھر تشہد اخیر کے بعد جونسی دعا چاہے ماثور یا غیر ماثور مانگے ۔ ص۱۲

یہ رسالہ مسلمان مرد اور عورتوں کو نماز کا طریقہ سکھلانے کے لیے لکھا گیا ہے اور اہلحدیث کانفرنس اور ان کی مجلس شوریٰ کے اراکین کی متفقہ منظوری کے بعد شائع کیا گیا ہے ، اس میں تو نماز کے ہر عمل کا وہ طریقہ بتلانا چاہیے تھا جو ماثور ہو ، غیر ماثور طریقہ بتلانا خصوصا ان لوگوں کو جو ہم اہلحدیث ہیں برادر کا نعرہ لگاتے ہیں زیب نہیں دیتا ۔ تشہد اخیر کے بعد ماثور دعائیں ہی مانگنا بہتر ہے ، غیر ماثور دعائیں تو صرف جواز کی حد تک ہیں

marfat.com

اور جب "غیر ماثور" دعائیں مانگنے کا ذکر آہی گیا تھا تو پھر اس غیر ماثور کی پوری تفصیل بیان کرنی ضروری تھی کہ کون سی غیر ماثور دعائیں جائز ہیں اور کون سی نہیں، کیا ہر غیر ماثور دعا مانگی جا سکتی ہے یا اس میں کچھ تفصیل ہے؟

(۸) اسی کتاب میں ہے:

ف حضرت نے ایک شخص کو جس نے بری طرح نماز پڑھی تھی اور اچھی طرح رکوع و سجدہ وغیرہ نہیں کیا تھا اس طرح نماز پڑھنا سکھایا تھا کہ پہلے تو اچھی طرح وضو کر پھر قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہہ پھر جو قرآن پڑھ سکے وہ پڑھ پھر رکوع کر ساتھ اطمینان کے پھر سیدھا کھڑا ہو برابر پھر سجدہ کر اطمینان سے پھر سر اٹھا کر چین سے بیٹھ جا پھر دوسرا سجدہ باطمینان تمام کر پھر بیٹھ کر اٹھ اور برابر کھڑا ہو جا پھر اسی طرح ساری نماز پڑھ جس طرح کہ اس رکعت کا طریقہ تجھ کو سکھا دیا ہے، اس حدیث کو حدیث مسئ کہتے ہیں اصل کیفیت نماز میں یہی ایک حدیث ہے۔

ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ غیر مقلدین حضرات کی متفق علیہ جماعت جس میں تمام علما رہی ہیں ان کی طرف سے منظور شدہ اس نماز کے رسالہ میں بڑے کھلے الفاظ میں بغیر کسی ایچ پیچ کے یہ اعتراف کیا جا رہا ہے کہ "اصل کیفیت نماز میں یہی ایک حدیث ہے۔

اور اس حدیث میں جو اصل کیفیت نماز کی واحد حدیث ہے، نہ اس کا بیان ہے کہ تجھ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے اور نہ اس کا بیان ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرنا بھی ہے۔

مگر یہ غیر مقلدین حضرات ہر مصلی کے لئے سورہ فاتحہ بھی ضروری بتلائیں گے اور رفع یدین کرنے پر بھی اصرار کرتے رہیں گے، اور جو یہ نہ کرے اسکی نماز کو ناقص تبلائیں گے۔

(۹) اسی کتاب میں ہے

marfat.com

چار رکعت نفل میں چاروں قل پڑھے اور دو رکعت میں قلیا اور قل ھو اللہ احد ۔ ص۱۸

یہ "قلیا" کیا چیز ہے کیا عام لوگ اس قلیا کو سمجھ لیں گے، یہ غیر مقلدین حضرات کی عام فہم زبان ہے ۔

(۱۰) اسی کتاب میں ہے :

قیام شہر رمضان کی بڑی فضیلت آئی ہے لیکن تعداد رکعات کی ثابت نہیں غالباً[1] مع وتر نماز تہجد سے زیادہ نہ تھی مگر بیس بیس چالیس رکعت بھی جائز ہیں ص۲۰

اس عبارت سے دو باتیں ثابت ہوئیں ایک یہ کہ قیام رمضان یعنی تراویح کی رکعات غیر مقلدین کے یہاں ثابت نہیں ہے، غیر مقلدین جو ۸ رکعت پڑھتے ہیں وہ محض اٹکل سے پڑھتے ہیں ۔

دوسرے یہ کہ نماز تراویح الگ ہے اور تہجد کی نماز الگ ہے، اب جو غیر مقلدین حضرات نماز تہجد ہی کو رمضان میں تراویح کہتے ہیں ان کا یہ کہنا اس عبارت کی روشنی میں صحیح نہیں ہے ۔

کس سے محرومئ قسمت کی شکایت کیجئے
دوست سمجھے تھے جسے جان کا دشمن نکلا

(۱۱) اسی کتاب میں تراویح کے بارے میں لکھا ہے :

اور یہ نماز گھر میں بہ نسبت مسجد کے افضل ہے ص۲۰

آج کل عام طور پر غیر مقلدین حضرات مسجد میں تراویح پڑھتے ہیں اور یا صرار اسی غیر افضل طریقہ کو اپنائے ہوئے ہیں، بلکہ بعض حضرات مسجد ہی میں تراویح باجماعت کو مسنون کہتے ہیں، غیر افضل عمل کو مسنون کہنا جیسا کچھ ہے وہ ظاہر ہے ۔

(۱۲) . اسی کتاب میں ہے ۔

---

(۱) ناظرین اس "غالباً" کو نوٹ کرلیں، کل کا یہ غالباً آج محرف ہو کر علم قطعی بن گیا ہے، اب آٹھ ہی رکعت تراویح غیر مقلدین کے یہاں سنت ثابت ہے ۔

marfat.com

امام کی نماز میں خلل پڑنے سے مقتدی کی نماز نہیں جاتی ہے بلکہ ہو جاتی ہے ۔ ص۲

اب مثلاً کسی غیر مقلد امام صاحب نے نماز میں گوز مار دیا تو گو کہ امام کی نماز میں خلل پیدا ہو گیا ہے مگر غیر مقلدین مقتدی اس گوز مارنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھتے رہیں گے اور ان کی نماز بلا کسی خلل کے تام اور کامل ہو گی ۔

ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے اور دوسری طرف اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے ۔

(۱۳) جب امام سجدہ (سہو) کرے تو مقتدی بھی کرے ص۲

جب یہ بات غیر مقلدین کے یہاں مسلم ہے کہ امام کی نماز میں خلل پڑنے سے مقتدی کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو امام کے سجدہ سہو کرنے سے مقتدی پر کیوں سجدہ سہو کرنا ضروری ہو گا، امام کا سجدہ سہو کرنا کسی خلل کے واقع ہی ہونے سے ہو گا، اور امام کی نماز کا فساد اور اس کی نماز میں خلل کا واقع ہونا مقتدی کی نماز کو کسی درجہ میں متاثر نہیں کرتا تو پھر یہ مقتدی سجدہ سہو کیوں کرے ؟ بریں عقل و دانش بباید گریست

(۱۴) اسی کتاب میں لکھا ہے :

جو نماز عمداً ترک ہوئی ہے اس کی قضا پڑھے ص۲

یعنی کیا مطلب ؟ کیا جو نماز بلا عمد و قصد ترک ہوئی ہو اس کی قضا نہیں پڑھے گا ؟ اگر نہیں پڑھے گا تو کیوں ؟ کتاب و سنت سے اسکی دلیل پیش کی جائے ۔ آپ تو یہ کہتے ہیں اور کنز الحقائق میں نواب وحید الزماں غیر مقلد عالم فرماتے ہیں جو نماز قصداً چھوڑ دی جائے اس کی قضا نہیں ہے ، ان دونوں میں سے کون سا مسئلہ صحیح ہے جماعت غیر مقلدین فیصلہ کرے ۔

(۱۵) اسی کتاب میں ہے

خطبہ منجملہ شعائر دین کے ہے یہ خطبہ عربی زبان میں بہتر ہے ص۲۱

marfat.com

افسوس کہ غیر مقلدین حضرات اس " بہتر " پر عمل کیا کرتے جو اس پر عمل کرتا ہے اور جمعہ کا خطبہ عربی زبان میں پڑھتا ہے اس پر یہ حضرات لعن طعن کرتے ہیں۔

نگاہیں جب بدلتی ہیں حیرت کھٹکتی ہیں کسی کی خوبیاں تک

(۱۶) اسی کتاب میں یہ مسئلہ بھی ہے۔

خائن اور قاتل نفس اور کافر اور مرتد و شہید کے لئے نماز جنازہ نہیں ہے ص۲۲

اب معلوم نہیں خائن اور قاتل نفس پر نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی جائے گی۔ کیا یہ دونوں اپنے گناہوں کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو چکے ہیں؟ کیا اہل سنت کا یہی مذہب ہے؟

اور پھر شہید کو کافروں اور مرتد کے ساتھ ذکر کرنا غیر مقلد حضرات کی صحت دماغی کا کافی پتہ دیتا ہے۔

(۱۷) اسی کتاب میں یہ بھی ہے:

مردہ بچہ اگر پیدا ہو نماز نہیں مگر جب کہ وہ (یعنی مردہ بچہ) رودئے جائز ہے۔ ص۲۳

" وہ " کا اشارہ مردہ بچہ ہے، غیر مقلدین کے یہاں مردہ بچہ بھی روتا ہے یہ نیا انکشاف ہے۔

تنبیہ

یہ رسالہ تعلیم الصلوٰۃ جس کے بارے میں مصنف رسالہ لکھتا ہے:

اس رسالہ میں بچوں کیلئے ترکیب وضو و غسل و نماز لکھی گئی ہے ص۲

اپنے اسلوب تحریر اور اپنی ژولیدہ بیانی کی وجہ سے اس لائق نہیں ہے کہ بچے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بلکہ اس سے بڑے کا بھی فائدہ اٹھانا مشکل ہے۔

marfat.com

زکوٰۃ کا پیسہ ان جگہوں پر بھی لگایا جا سکتا ہے

اہلحدیث کانفرنس نے باتفاق مجلس شوریٰ جمعیۃ اہل حدیث ایک دوسرا رسالہ "تعلیم الزکوٰۃ" کے نام سے مسلمان بچے اور بچیوں کو مسائل زکوٰۃ سکھانے کے لئے شائع کیا تھا اس رسالہ کا یہ مسئلہ ملاحظہ فرمائیں :

(زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف قرآن نے فی سبیل اللہ بیان کیا ہے، جمہور کے یہاں اس سے مراد غازیانِ اسلام ہیں یعنی وہ لوگ جو اللہ کے راستہ میں کافروں سے جہاد کرنے والے ہوں، اس مسئلہ کی پوری تفصیل میری کتاب "مسائل غیر مقلدین" میں ہے۔ اس فی سبیل اللہ کے بارے میں اس رسالہ تعلیم الزکوٰۃ میں ہے)

(۱۸) "میں کہتا ہوں اگرچہ غالباً مراد راہ خدا سے جہاد ہوا کرتا ہے لیکن لفظ عام ہے تو جس چیز پر عرفاً و شرعاً و لغۃً لفظ فی سبیل اللہ صادق آئے گا وہ جگہ بھی مصرف زکوٰۃ ہو سکتی ہے .... جیسے عمارت مساجد سرائے و مدارس پل و کنویں کھدوانا اور قرآن مجید کا پھیلانا و کتب تفسیر و حدیث" ص ۹

اب معلوم نہیں میاں نذیر حسین دہلوی شیخ الکل فی الکل رحمۃ اللہ علیہ کو اس عرفاً و شرعاً و لغۃً کا پتہ تھا یا نہیں، انھوں نے فتاویٰ نذیریہ میں زکوٰۃ کا مال مذکورہ بالا جگہوں میں خرچ کرنے کو جائز نہیں رکھا ہے۔

marfat.com

زکوٰۃ کا پیسہ صرف اپنے شہر کے فقراء پر خرچ کیا جائیگا

(۱۹) اسی رسالہ میں یہ مسئلہ بھی ہے :

امام پر واجب ہے کہ ہر جگہ کے تونگروں سے زکوٰۃ لیکر اسی جگہ کے فقراء کو دے ۔ ص۶

مگر غیر مقلدین حضرات اپنی زکوٰۃ کے پیسے باہر بھیجتے بھی ہیں اور باہر سے لاتے بھی ہیں ، ان کے نزدیک اس ممنوع شرعی کا ارتکاب بڑے زور و شور سے جاری ہے ، ان کے مدرسوں کی شاندار عمارتیں ان کے اداروں کی آسمان سے چھوتی ہوئی بلڈنگیں سب اسی ممنوع اور ناجائز اموال زکوٰۃ سے بنی ہوئی ہیں ، جہاں دین کا کام اور کتاب و سنت کی بزعم خود تعلیم اور خدمت ہو رہی ہے ۔

فرقۂ اہلحدیث کے بارے میں ایک من گھڑت افتراء یا حقیقت ؟

(۲۰) مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ " اہلحدیث کا مذہب " کے ص۴ پر فرماتے ہیں :

فرقہ اہلحدیث کی نسبت کئی ایک من گھڑت افتراء لگائے گئے ہیں اور لگائے جاتے ہیں ، بڑا افتراء جس نے اس فرقہ کو سب کی نظروں میں حقیر اور مطعون کر رکھا ہے (اور واقعی وہ افتراء درصورت ثابت ہونیکے اسی ذلت اور حقارت کو مستلزم ہے) یہ ہے کہ یہ لوگ انبیاء اور اولیاء کی توہین کرتے ہیں ۔ ص۴

اس عبارت میں کئی باتیں قابل ملاحظہ ہیں :

اولاً یہ کہ یہ ہندوستان کا فرقہ اہلحدیث اپنے وجود کے زمانہ ہی سے

marfat.com

برصغیر ہند میں ذلیل وحقیر رہا ہے۔ مولانا امرتسری خود اسکا اعتراف کر رہے ہیں
ثانیاً یہ کہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کے حقیر و ذلیل ہونے کی وجہ یہ تھی
کہ عام طور پر یہ بات لوگوں میں مشہور تھی کہ یہ فرقہ انبیاء اور اولیاء کی توہین
کرتا ہے۔

(اگرچہ مولانا امرتسری مرحوم اس بات کو افتراء بتلاتے ہیں مگر آخر کچھ
تو وجہ رہی ہوگی کہ فرقہ اہلحدیث کے بارے میں برصغیر ہند و پاک میں یہ بات
زبان زد عوام ہوئی، زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو)

ثالثاً یہ کہ اگر فی الواقع کسی فرقہ کے بارے میں یہ بات ثابت ہو جائے
کہ وہ اولیاء اللہ اور انبیاء علیہم السلام کی توہین کرتا ہے تو وہ اس لائق ہے
کہ لوگ اسکو حقیر و ذلیل جانیں، اور یقیناً وہ فرقہ حقیر و ذلیل ہوگا۔

مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فرقہ اہلحدیث کے
بارے میں یہ بات غلط اور افتراء ہے کہ وہ انبیاء اور اولیاء کی توہین کرتا ہے
میں یہاں پر صرف چند ہی باتیں ذکر کرتا ہوں اور ناظرین کرام کو حکم بنا کر
فیصلہ چاہوں گا کہ وہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر فیصلہ فرمائیں کہ ان باتوں
سے انبیاء و اولیاء کی توہین لازم آتی ہے یا نہیں،

(۱) اہلحدیث کانفرنس نے بمنظوری مجلس شوریٰ اہلحدیث ایک رسالہ
"تعلیم الصیام" کے نام سے بچے اور بچیوں کیلئے لکھا ہے اس میں حضرت نوح
علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے:

نوح علیہ السلام کا مزاج سخت تھا ص۱۱

میں پوچھتا ہوں کہ کسی نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا مزاج سخت تھا یہ
اس کی تعظیم کی بات ہے یا عدم تعظیم کی، اور کیا کسی بھی مسلمان کو زیب
دیتا ہے کہ وہ اس طرح کا کلمہ کسی نبی معصوم کے بارے میں اپنی زبان سے

marfat.com

ادا کرے۔

ممکن ہے کہ غیر مقلدین حضرات کہہ دیں کہ ہمارے نزدیک یہ کلمہ توہین کا نہیں ہے، تو میں نے حکم ان کو نہیں بنایا ہے، میں اپنا یہ مقدمہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے عوام کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں، کیا واقعی عام مومنین کا یہی فیصلہ ہوگا کہ کسی نبی کے بارے میں اس طرح کے کلمات موجب توہین نہیں ہیں؟

اور پھر میں غیر مقلدین حضرات سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہی کلمہ ان کے اکابر کی شان میں استعمال کیا جائے تو اس کا کیا ردعمل ہوگا۔ مثلاً میاں نذیر حسین صاحب دہلوی کے بارے میں یا حافظ عبداللہ محدث غازی پوری کے بارے میں یا حافظ عبدالرحمٰن مبارکپوری کے بارے میں یہ کہا جائے کہ دہلوی صاحب کا مزاج بڑا سخت تھا غازی پوری صاحب کا مزاج بڑا سخت تھا مبارکپوری صاحب کا مزاج بڑا سخت تھا۔ تو کیا یہ کڑوا گھونٹ غیر مقلدین آسانی سے پی جائیں گے۔

مزاج کی سختی یہ انسان کی محمود صفت نہیں ہے۔ یہ اس کی صفت غیر محمود ہے اور اسی وجہ سے قرآن میں آنحضور کے بارے میں ارشاد ہے:

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك ۔ (آل عمران)

یعنی سو کچھ اللہ ہی کی رحمت ہے جو تو نرم دل مل گیا ان کو اور اگر ہوتا تند خو سخت دل تو متفرق ہو جاتے تیرے پاس سے۔

اس سے معلوم ہوا کہ سخت مزاجی تندخوئی اور سخت دلی وغیرہ انسان کی مذموم صفتیں ہیں، ان صفات سے انبیاء علیہم السلام پاک ہوتے ہیں اسلئے کسی نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا مزاج سخت تھا بڑی توہین کی بات ہے، ایک عام آدمی بھی اپنے حق میں اس کہنے کو توہین سمجھتا ہے اور خود غیر مقلدین

marfat.com

حضرات بھی اس کو کلمہ توہین ہی سمجھتے ہیں اسی لئے وہ اپنے اکابر کے بارے میں اس کو سننا گوارہ نہیں کریں گے۔

(۲) مولانا محمد جوناگڈھی کا ایک رسالہ "ملت محمدی" کے نام سے ہے اس میں موصوف رقم طراز ہیں:

"پس اہلحدیث پر وہی اعتراض عائد ہو سکتا ہے جو قرآن اور صحیح حدیث پر ہو" صـ

اس عبارت میں یہ دعویٰ موجود ہے کہ اہلحدیث حضرات اپنے کو ہمسر خدا اور رسول جانتے ہیں کہ جس طرح خدا اور رسول پر اور خدا اور رسول کی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا ہے اسی طرح اہلحدیث پر بھی کسی طرح کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔

میں کہتا ہوں کہ کیا اس سے بڑھ کر بھی خدا اور رسول کی شان میں گستاخی ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنے کو خدا اور رسول کے منصب پر فائز ہونے کا مدعی بن جائے۔؟

اور رہا غیر مقلدوں کا یہ کہنا کہ اہل حدیث پر وہی اعتراض عائد ہو سکتا ہے جو قرآن اور صحیح حدیث پر ہو۔ اس کی ہوائیں نکل جاتی ہے کہ قرآن پر یہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا کہ اسکی کسی بات میں کوئی شک شبہ یا غلطی کا امکان ہے۔

کیا اہلحدیث حضرات اپنے بارے میں بھی یہ دعویٰ کریں گے کہ انکی بات قرآن کی طرح شک وشبہ اور غلطی کے امکان سے بالاتر ہوتی ہے۔

بہرحال میں اس بات کو بہت زیادہ طول نہیں دینا چاہتا ورنہ میں بتلاتا کہ ملت محمدی کا مذکورہ بالا کلام اللہ ورسول کے حق میں کس قدر توہین آمیز ہے۔ میں نے یہاں صرف اشارے کر دیئے ہیں۔

(۳) یہی مولانا محمد جوناگڈھی صاحب اپنی ایک دوسری کتاب طریق محمدی میں فرماتے ہیں:

شریعت اسلام میں تو خود پیغمبر اسلام صلے اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے

marfat.com

بغیر وحی الٰہی کچھ فرمائیں تو وہ بھی حجت نہیں ہے صفحہ ۳۰

مزید لکھتے ہیں :

تعجب ہے کہ جس دین میں نبی کی رائے حجت نہ ہو اس دین والے آج ایک امتی کی رائے کو دلیل اور حجت سمجھنے لگے صفحہ ۳۰ - ۳۱

ختم رسل سید الانبیاء صلے اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا اظہار خیال چاہے غیر مقلدین اس کو اپنے لئے باعث فخر سمجھیں مگر مقام رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم کا ادنیٰ شناسا بھی اس اسلوب بیان کو رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے حق میں گستاخانہ ہی سمجھے گا ۔

اللہ کے رسول صلے اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے روزہ فرض کیا وسننت لکم قیامہ ۔ اور میں نے تمہارے لئے رمضان کا قیام مسنون کیا ، غیر مقلدین حضرات یہ بتلائیں کہ آنحضور کا یہ ارشاد گرامی دین ہے یا نہیں اور غیر مقلدین اس کو مانیں گے یا نہیں ؟

رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں پچاس لوگوں کو ایک پہاڑی پر کافروں سے حفاظت کی خاطر مقرر کیا تھا ، یہ آنحضور نے اپنی دانشمندانہ فراست سے کیا تھا یا قرآن کے حکم سے ؟ کیا ان پچاس صحابہ کرام میں سے کسی کے لئے جائز تھا کہ آپ کی اس رائے کا یہ کہہ کر انکار کر دیتا کہ اے رسول یہ آپ کی رائے ہے اور آپ کی رائے ہم پر حجت نہیں ؟

غزوۂ خندق میں خندق کھودنے کا کام حضرت سلمان فارسی کی رائے سے تھا اور آپ صلے اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا تھا اور صحابہ کرام کو خندق کھودنے پر مامور کیا تھا ، کیا کسی صحابی کی یہ مجال تھی یا اس کیلئے جائز تھا کہ وہ آپ کے فرمان سے روگردانی کرتا اور غیر مقلدوں کے الفاظ میں یہ کہتا کہ حضور یہ سلمان فارسی کی رائے ہے اور آپ نے دین کے معاملہ میں ایک

marfat.com

فارسی کی رائے پر عمل کیا ہے ہم آپ سے اس بارے میں اتفاق نہیں کرتے۔
اس طرح ایک نہیں بیجا سوں مثالیں دی جاسکتی ہیں کہ آپ نے بحیثیت نبی جب بھی کسی بات کا حکم فرمایا خواہ خدا کے حکم سے خواہ اپنی رائے سے صحابہ کرام نے اس پر سر اطاعت خم کر دیا اور اس کو ایجاباً و نفیاً قابل عمل جانا کسی نے یہ کہہ کر انکار نہیں کیا کہ نبی کی رائے دین میں حجت نہیں ہوتی۔
اللہ اللہ کس درجہ جسارت کی بات ہے یہ کہنا کہ

شریعت اسلام میں تو خود پیغمبر اسلام صلے اللہ علیہ سلم اپنی طرف سے بغیر وحی الٰہی کچھ فرمائیں تو وہ بھی حجت نہیں۔ اس میں رسول کے بالاستقلال مطاع ہونے کا صریحاً انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سوئے فہم اور اس بددینی اور جناب نبوت میں اس گستاخانہ انداز کلام سے محفوظ رکھے۔

(۴) یہی مولانا جوناگڈھی صاحب اپنی اسی مایہ ناز کتاب طریق محمدی میں حضرت فاروق اعظم رض کے بارے میں فرماتے ہیں:

پس آؤ سنو! بہت صاف صاف موٹے موٹے مسائل ایسے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے ان میں غلطی کی ...... ان مسائل کے دلائل سے حضرت فاروق بے خبر تھے ص ۴۱

نیز لکھتے ہیں:

ان موٹے موٹے مسائل میں جو روزمرہ کے ہیں دلائل شرعیہ آپ سے مخفی رہے ص ۴۱ - ۴۲

اس عبارت کو ناظرین کرام غور سے پڑھ کر اپنے سینہ پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں کہ کیا حضرت عمر فاروق کے بارے میں یہ کلام گستاخانہ نہیں ہے؟
جو لوگ دین اسلام میں اور صحابہ کرام کی جماعت مقدسہ میں حضرت عمر کے مقام بلند سے واقف ہیں کیا وہ کسی بھی درجہ میں حضرت فاروق اعظم

marfat.com

کے بارے میں اس قسم کے اظہار خیال کو پسند فرمائیں گے ؟

مگر یہ غیر مقلدین اپنی اس بد شرست صفت کے باوجود یہ کہیں گے کہ ہم انبیاء اولیاء کی توہین اور تحقیر نہیں کرتے۔ اور ہم کو جو اعلای سوسائٹی میں ذلیل و حقیر سمجھا جا رہا ہے وہ ہم پر ظلم ہے۔

یہ رسالہ مولانا ثناء اللہ صاحب مرحوم کی حیات میں طبع ہو کر شائع ہو چکا تھا، کیا وہ اس سے بے خبر تھے کہ انکی جماعت اہل حدیث میں کیسے کیسے سورما اور علامہ پیدا ہو چکے ہیں جو حضرت عمر فاروق کی مسائل دینیہ میں غلطیاں نکالا کرتے ہیں۔

حضرت مولانا امرتسری مرحوم ہوتے تو میں ان سے یہ پوچھتا کہ للہ آپ ہی بتلائیں کہ جوناگڈھی کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ فرمانا کہ

"صاف صاف اور موٹے موٹے مسائل میں انھوں نے غلطی کی تھی اور وہ ان مسائل کے دلائل سے بے خبر تھے۔"

یہ بارگاہ فاروقی میں گستاخی ہے کہ نہیں ؟ اگر نہیں ہے تو کیوں ؟ اور اگر ہے یقیناً ہے تو پھر اہلحدیث حضرات کا امت مسلمہ میں ذلیل و حقیر ہونا چنداں تعجب خیز کیوں ہے، اور اس سے مولانا امرتسری مرحوم کو تکلیف کیوں تھی، جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے یہ تو قانون فطرت اور قانون قدرت ہے۔ (۱)

---

(۱) غیر مقلدین حضرات کا صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ و مسلک کیا ہے اور ان نفوس قدسیہ تلامذہ نبوت کی شان میں ان کی جسارت و گستاخی کس حد تک پہونچی ہوئی ہے اس کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے میری عربی کتاب وقفۃ مع اللامذہبیۃ اور اردو کتاب مسائل غیر مقلدین کتاب و سنت اور مذہب جمہور کے آئینہ میں دیکھیں۔

marfat.com

(۵) صوفیائے کرام سے اللہ نے دین کی جو خدمت لی ہے وہ اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے ۔ ان اللہ والوں نے اپنی اپنی جھونپڑیوں میں بیٹھ کر اور اپنی اپنی کٹیوں میں رہ کر لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بدل دی ہیں ان کے وجود سے گمراہیوں کے بادل چھٹتے رہے ہیں اور اسلام کی آب و تاب میں چار چاند لگتا رہا ہے ۔

ان اللہ والوں نے اپنے فقیرانہ لباس میں رہ کر اور اپنی فقیرانہ زندگی کے راستہ سے وہ کام کیا اور ایسے کارنامے انجام دیئے کہ شاہوں کے محلات سے وہ کام نہ ہو سکا ۔

یہ وہ حقیقت ہے کہ تاریخ اسلام کا ہر واقف کار اس کا اعتراف کرے گا مگر یہ غیر مقلدین جو ہر طرف سے آنکھیں بند کر کے اپنے من کی دنیا میں مست رہتے ہیں ، ان صوفیاء کرام اور اللہ والوں کے بارے میں بے انتہا گستاخی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کے عوض اللہ کے غضب اور دنیا والوں کی تحقیر و تذلیل کا نشانہ بنتے ہیں ۔

ایک صاحب تصوف اور اہل تصوف کے بارے میں لکھتے ہیں :

جب سے شریعت مطہرہ میں تصوف و سلوک کو جگہ دی گئی اس وقت سے صوفیت نے بڑے بڑے اکابرین امت کے شرعی ہوش و حواس مضمحل کر کے غیر شعوری طور پر شریعت کے جادہ مستقیم سے ہٹا دیا ۔

(اہل توحید کیلئے لمحہ فکریہ ص۲۱)

ایک صاحب فرماتے ہیں :

تصوف اس قدر خطرناک چیز ہے جتنا نقصان اسلام کو ان صوفیوں سے پہونچا ہے اس تصوف کے چکر میں جتنے مسلمان برباد ہوئے ہیں جتنا اسلام کے اندر اس کے ذریعہ پلیدی شامل ہوئی اتنا کسی چیز نے بھی اسلام کو برباد نہیں کیا ۔ ایضاً ص ۲۱ - ۲۲

marfat.com

یہ ہے تصوف اور اہل تصوف کے بارے میں غیر مقلدین حضرات کا تأثر اور ان کی رائے، ان اہل تصوف کے بارے میں بلا استثنا اس گستاخانہ اظہارِ خیال کے باوصف مولانا ثنا ء اللہ صاحب مرحوم کا یہی خیال تھا کہ "اہلحدیث انبیاء و اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کرتے ہیں، معلوم نہیں ان اہلحدیثوں کے یہاں گستاخی کس چیز کا نام ہے۔

جن اہل تصوف کے بارے میں مذکورہ بالا عبارتوں میں مذکورہ بالا خیالات کا اظہار کیا گیا ہے ان میں جنید شبلی بھی ہیں اور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بھی خواجہ معین الدین چشتی بھی ہیں اور نظام الدین اولیاء بھی شاہ ولی اللہ بھی ہیں اور ان کے صاحبزادگان بھی سید اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی بھی ہیں اور مولانا فضل رحمٰن گنج مرادآبادی) اور مولانا رشید احمد گنگوہی بھی۔

یہ وہ اللہ والے ہیں کہ فرشتوں کو بھی ان پر رشک آئے، ان کے ورع تقویٰ طہارت پابندی شرع کی بات نہیں بلکہ ان اللہ والوں کے ذریعہ کروڑہا نفوس نے ہدایت پائی اور ان کے دلوں میں توحید و اسلام کی شمع روشن ہوئی انھوں نے کلمہ حق عند سلطان جائر کا نمونہ پیش کیا توحید کا پرچم حق بلند کیا سنتوں کو زندہ کیا بدعتوں کو مردہ کیا قلوب میں ایمان کی حرارت پیدا کی لوگوں کو راہ حق سے لگایا، ان پاکباز اللہ والوں کے بارے میں غیر مقلدوں کا اور آج کے زبانی قرآن وسنت پر فدا ہونے والوں کا جن کی زندگی میں ایمان و اسلام کی کوئی بو باس نہیں۔ جن کے چہرہ پر اسلام کا نور نہیں جن کے دلوں میں ایمان کی حرارت نہیں جن کے دلوں میں اسلام کی غیرت نہیں جن کی زندگی میں ورع و تقویٰ کا نام نہیں، جن کو عبادات سے لگاؤ نہیں اور جن پر نوافل کے چند سجدے بھی گراں ہیں، جن کی زندگی میں صرف دنیا کی حرص و طمع ہے۔ اور جن کی زبان پر اللہ والوں کے بارے میں گندے کلمات ہیں ــــــ یہ کہنا

marfat.com

کہ ان سے دین اسلام برباد ہوا اور ان کے ذریعے اسلام میں پلیدی شامل ہوئی یہ گستاخی اور انتہائی گستاخی نہیں تو اور کیا ہے، اور اس گستاخی کی پاداش میں خدائے تعالیٰ جو اپنے دینوں سے کسی کی عداوت و دشمنی برداشت نہیں کر سکتا اور خود اس کو دعوت جنگ دے دیتا ہے اگر ان گستاخوں کو ہمیشہ کیلئے ذلیل و خوار کر دے تو مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری جیسے لوگوں کو آخر برا کیوں لگتا ہے، برائی کا بدلہ تو برائی ہی ہے۔

مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری فرماتے ہیں کہ یہ اہلحدیث پر افتراء ہے کہ وہ انبیاء اور اولیاء اللہ کی توہین کرتے ہیں، میں نے یہ چند مثالیں جو ذکر کی ہیں ان سے ہر شخص کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ اہلحدیثوں پر یہ افتراء ہے یا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا

ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی
ہو دیکھنا تو دیدہ و دل وا کرے کوئی

marfat.com

غیر مقلدین پر انگریزی سرکار کا سایہ

(۲۱) مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری مرحوم اپنے رسالہ مذہب اہلحدیث کے حاشیہ میں والی افغانستان امیر حبیب اللہ خاں کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں:

" ما یان جماعت اہلحدیث زیر سایہ سرکار انگریزی بامن و عافیت ہستیم " ص۶

یعنی ہم اہل جماعت اہلحدیث کے لوگ(۱) انگریزی سرکار کے زیر سایہ بڑے امن و عافیت کے ساتھ ہیں۔

اس پر یہ چبھتا ہوا سوال کوئی بھی ان اہلحدیثوں سے کر سکتا ہے کہ زیر سایہ سرکار انگریزی امن و عافیت کی یہ زندگی صرف اہلحدیثوں ہی کو کیوں حاصل تھی اور اسکے مراحم خسروانہ کی صرف یہی جماعت کیوں مستحق قرار پائی۔ آخر کوئی تو

---

(۱) جی ہاں جماعت اہلحدیث کے لوگ حنفی نہیں شافعی نہیں کیونکہ یہ بیچارے تو زیر سایہ سرکار انگریزی ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ کوئی حبس دوام کی سزا بھگت رہا تھا۔ کوئی کالا پانی کی ہوا کھا رہا تھا، کوئی پھانسی کی سولی پر لٹکایا جا رہا تھا کوئی شہر بدر کیا جا رہا تھا کسی کی املاک کی قرقی ہو رہی تھی، اور ان کا جرم یہ تھا کہ وہ انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کئے ہوئے تھے۔ اور زیر سایہ سرکار انگریزی امن و عافیت کے ساتھ رہنے والے اور پر عیش زندگی کا مزہ مارنے والے یہ جماعت اہلحدیث کے لوگ تھے اسلئے کہ برٹش سرکار ان کیلئے رحمت خداوندی تھی، اور ان پر اسکے مراحم خسروانہ تھے۔

marfat.com

خاص بات ہوگی غیر مقلدین حضرات اس خاص بات سے پردہ نہیں اٹھائنگے ورنہ ان کی تاریخ بڑی گندی بڑی سازشی نظر آئے گی، مگر ہم اس پردہ کو اٹھا دیں گے، اس لئے کہ تاریخ تاریخ ہے اور ہر مسلمان کو اور خصوصًا نئی نسل کو اپنی تاریخ سے واقف ہونا ضروری ہے۔ آئندہ سطور میں دیکھتے جایئے یہ پردہ کس طرح اٹھتا ہے۔

الاقتصاد فی مسائل الجہاد کا ذکر

(۲۲) مولانا محمد حسین بٹالوی

غیر مقلدین کی سرکار برطانیہ سے وفاداری! کے رسالہ "الاقتصاد فی مسائل الجہاد"[1] میں اس کے دوسرے صفحہ پر "التماس" کے عنوان کے تحت درج ذیل عبارت ہے۔

ناظرین با تمکین سے جو اصل اصول مسائل رسالہ "اقتصاد" کی

---

(۱) یہ رسالہ سرکار برٹش کی عنایت سے طبع ہو کر مختلف زبانوں میں شائع ہوا تھا پنجاب کے انگریز گورنر نے اپنے نام نامی سے اس کا ڈیڈیکیٹ ہونا منظور فرمایا تھا۔ اور اسی رسالہ کے طفیل میں جماعت غیر مقلدین کا نام سرکاری دفاتر اور رجسٹروں میں بجائے وہابیہ کے لکھا جانے لگا (دیکھو وقفۃ مع اللامذہبیہ) اس رسالہ کا موضوع ہے کہ گورنمنٹ برطانیہ کے خلاف جو لوگ جہاد کر رہے تھے انکا یہ عمل سراسر غیر اسلامی تھا، برطانیہ سرکار میں بڑا امن تھا بڑی عافیت تھی، یہ سرکار خدا کی رحمت تھی، اس سرکار کے خلاف جہاد کا نعرہ بلند کرنا قطعًا حرام تھا، پوری تفصیل اس رسالہ میں دیکھو، غیر مقلدین کی سیاہ تاریخ معلوم کرنے کا یہ رسالہ بڑا ذریعہ ہے اور دوسرا بڑا ذریعہ نواب بھوپالی کی کتاب "ترجمان وہابیہ" ہے جس کا ذکر آئندہ صفحات میں آئے گا۔

marfat.com

نسبت بجواب استفتاء مندرجہ ضمیمہ اشاعۃ السنہ نمبر ۱۱ جلد ۶ مشتہرہ نومبر ۱۸۸۳ء توافق رائے ظاہر فرما چکے ہیں اب اسکے تفصیلی مسائل اور اس کے دلائل کی نسبت اپنا توافق رائے ظاہر کریں اور اپنے نام نامی بخط واضح پوری تفصیل مقام و خطاب وعہدہ سے تحریریں لاکر ہمارے پاس بھیجدیں ہم ان ناموں کو بشمول رسالہ اقتصاد یا بذریعہ اشاعۃ السنہ گورنمنٹ میں پیش کریں گے اور سلطنت انگلشیہ کی نسبت آنکی وفاداری واطاعت شعاری کو خوب شہرت دیں گے۔ ص ۲

جب ہندوستان کی آزادی کے پروانے اس ملک کو انگریزوں کے پنجہ ظلم واستبداد سے آزاد کرانے کے لئے اپنے سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے۔ غیر مقلدوں کے اکابر سرکار برطانیہ سے اپنی وفاداری اور اطاعت شعاری ثابت کرنے میں لگے ہوئے تھے۔

"الاقتصاد" رسالہ کا مقصد کیا تھا

(۲۳) مولانا حسین بٹالوی نے یہ رسالہ جن اغراض کے پیش نظر لکھا تھا ان میں سے ایک غرض یہ تھی کہ۔

"حاکم ومحکوم اور عام رعایا اور خاص اہل اسلام میں رابطہ اتحاد پیدا ہو اور ملک میں ہمیشہ امن وامان قائم رہے" ص ۲

جب غیر مقلدوں کی سرکار برطانیہ کی تئیں یہی کوشش تھی تو ان کیلئے سرکار برطانیہ رحمت نہیں ثابت ہوگی تو کیا زحمت ثابت ہوگی، اور امن وامان اور عافیت کی زندگی زیر سایہ سرکار برطانیہ ان غیر مقلدوں کی قسمت نہیں ہوگی تو کس کی قسمت ہوگی؟

marfat.com

مسلمانوں سے بھی جہاد ہوتا ہے

(۲۴) مولانا محمد حسین بٹالوی اپنے اس رسالہ میں لکھتے ہیں:

ملکی وہ جہاد ہے جس سے ملک گیری مقصود ہو مذہب مخالفین سے
اس کا کوئی تعلق نہ ہو وہ مسلمانوں سے بھی ویسا ہی کیا جاتا ہے جیسا
کہ مخالفین اسلام سے۔ صہ ۳

جہاد، ایک شرعی اصطلاح ہے ہم نے آج تک اس کا جو شرعی مفہوم سمجھا تھا وہ یہ تھا کہ جہاد محض اللہ کی خاطر اس کا دین پھیلانے اس کا کلمہ بلند کرنے کیلئے کافروں سے کیا جاتا ہے، یا اسلامی حکومتوں کی سرحدوں کو کفار کے غلبہ و تسلّط سے آزاد کرنے کے لئے ہوتا ہے، یا مسلمانوں پر جب طاغوتی طاقتیں حملہ آور ہوں اور ان کا دین و ایمان خطرہ میں پڑا ہو (جیسا کہ یہی صورت حال مسلمانوں کے لئے گورنمنٹ باطنیہ کے اندر تھی جس کی وجہ سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دے دیا تھا) اس وقت مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، لیکن غیر مقلد کے اس بڑے عالم نے ہمیں یہاں جہاد کے ایک نئے مفہوم سے آشنا کیا کہ جہاد ملک گیری کیلئے اور مسلمانوں سے بھی ہوتا ہے۔

ضمیر زر کی ترازو میں تل رہے ہیں یہاں
کہاں کا زہد و تقدس کہاں کا علم و ہنر

جہاد اصل مطالب خداوندی نہیں

(۲۵) مولانا بٹالوی لکھتے ہیں:

مذہبی جہاد اصول مقاصد اور اصلی مطالب خداوندی سے نہیں ہیں صہ ۵

marfat.com

میں غیر مقلدوں سے گذارش کروں گا کہ کتاب وسنت یا کسی امام حدیث وفقہ کے قول سے مولانا بٹالوی کے اس کلام کی دلیل پیش کردیں۔

سرکار برطانیہ کی چاپلوسی میں اس حد تک آگے چلے جانا کہ دین کی تفہیم وتشریح بھی طبع زاد ہونے لگے انتہائی ضلالت کی بات ہے۔

بخاری ومسلم نے اللہ کے رسول کا یہ ارشاد حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے نقل کیا ہے

عن ابن مسعود قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایُّ الاعمال احب الی اللہ قال الصلوٰۃ لوقتها قلت ثم ای قال بر الوالدین قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ رواہ الشیخان

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ صلے اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ خدا کو سب عملوں سے زیادہ پیارا عمل کون سا ہے آپ نے فرمایا، اپنے وقت پر نماز کی ادائیگی پھر آپ نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو پیارا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ سے نیک سلوک کرنا، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ اسکے بعد کون سا عمل اللہ کو سب عملوں سے زیادہ محبوب ہے تو آپ نے عرض کیا کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔

اندازہ لگائیے جس جہاد کی شریعتِ اسلامیہ میں یہ اہمیت ہے اس کی اہمیت کو غیر مقلدین کے اکابر یہ کہہ کر گھٹاتے ہیں کہ:

"مذہبی جہاد اصل مطالب خداوندی نہیں ہیں"

اور جن مجاہدین فی سبیل اللہ کے لئے اللہ کے رسول کی یہ بشارت ہے ان فی الجنۃ مائۃ درجۃ اعدھا اللہ للمجاھدین رواہ البخاری

یعنی جنت میں سو درجے ہیں جو مجاہدین کیلئے اللہ نے تیار کئے ہیں ان مجاہدین کے جہاد کے عمل کو فتنہ وفساد، شور وشغب اور ہنگامہ خیزی بتلاتے

marfat.com

رہے ہیں۔ یہ محض اس لئے کہ سرکار برطانیہ کے مراحم خسروانہ سے انکا فیض اٹھانا باقی رہے اس کی نظر عنایت ان سے نہ پھرنے پائے اور جماعت غیر مقلدین کو سرکار برطانیہ کے زیر سایہ جو امن وامان اور عافیت میسر تھی وہ ان سے ختم نہ ہو

پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہان میں
شاہین کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور

(۲۶) اسلام و ایمان کا کمال جہاد پر موقوف نہیں

مولانا بٹالوی لکھتے ہیں؛

اس مسئلہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام و ایمان کا کمال اور مسلمانوں کی نجات جہاد پر موقوف و منحصر نہیں مسلمانوں کو اگر دین سے روک نہ ہو تو صرف عبادت سے ان کی نجات و کمال ایمان مقصود ہے۔ ص ۹

یہ جو ,,صرف عبادت،، ہے کیا جہاد اس سے خارج ہے، اللہ کے رسول تو جہاد کو افضل اعمال اور احب اعمال فرمائیں اور آپ اس احب اعمال کو محض گورنمنٹ برطانیہ کی چاپلوسی میں عبادت ہی سے خارج کر رہے ہیں، دین کی تحریف کرتے ہوئے شرم نہیں آتی بنو گے اہل حدیث اور موحد اور متبع سنت اور قوالی گاؤ گے مابلبلان نالاں گلزار محمدی اور دعویٰ کرو گے کہ ہم اہلحدیثوں کا سر قرآن و حدیث کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اور تمہارا عمل یہ ہوگا؟

اللہ کے رسول یا صحابہ کرام کے زمانہ میں جو جہاد ہوئے ہیں کیا ان تمام جہاد کا باعث یہی تھا کہ مخالفین مسلمانوں کو ان کے دین سے روک رہے تھے؟ افریقہ سے مسلمانوں کو ان کے دین سے روکنے کے لئے عرب کی سرزمین میں کون مخالف اسلام در آیا تھا، یورپ میں اسلام کا جھنڈا طارق بن زیاد

marfat.com

نے جو گاڑا تھا اس کی وجہ کیا یہی تھی کہ کوئی مخالف اسلام مسلمانوں کو ان کے دین سے روک رہا تھا۔ مصر میں جہاد کا جھنڈا تو حضرت عمر کے زمانہ میں بلند ہوا تھا کیا اس مشہور تاریخی جہاد کے اسباب سے بھی اب تم بے خبر ہو۔

دین کی تحریف بھی کرتے ہو اور اسلام کی تاریخ بھی بگاڑتے ہو؟ اور یہ محض اسلیئے کہ سرکار برطانیہ تم سے خوش رہے، اور وہابی سے تم اہلحدیث بن جاؤ دفاتر سرکار برطانیہ میں تمہارا نام وہابی کے بجائے اہلحدیث لکھا ہو اور ہوس یہ ہے کہ تم کو سب سے بڑا مسلمان بھی سمجھا جائے اور تم کو اسلام کا سب سے بڑا ٹھیکیدار بھی مان لیا جائے۔

تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا
ورنہ گلشن میں علاج تنگیٔ داماں بھی تھا

(٢٧) لفظ کافر کی ایک دلچسپ تشریح

"مسلمان بھی کافر حتیٰ کہ معاذ اللہ ابراہیم علیہ السّلام بھی کافر"

لفظ کافر کا شریعتِ اسلامیہ میں ایک خاص مفہوم ہے، یعنی مذہب اسلام میں کافر اس کو کہتے ہیں جو دین اور ضروریاتِ دین کا منکر ہو، اور جس کا ایمان خدا پر نہ ہو جب بھی کافر کا شرعی و دینی گفتگو میں ذکر آئے گا تو یہی خاص مفہوم ذہن میں آئے گا۔ اب لفظ کافر کے سلسلہ میں مولانا بٹالوی مرحوم اہلحدیث عالم کی یہ تشریح بھی ملاحظہ فرمائیں۔

پہلے تو مولانا نے جہاد کے سلسلہ میں اپنا یہ غیر مقلدانہ خود ساختہ اصول بیان کیا،

"مذہبی جہاد نہ اس غرض سے مشروع ہے کہ کافروں کو دنیا میں کفر کی سزا دیں[1]" صہ ۹

(١) ذرا اہلحدیثوں کی یہ جماعت بتلائے کہ جہاد کی مشروعیت کس وجہ سے ہے اس جہاد کے

مولانا نے جھٹکے میں "کافروں" کا لفظ لکھ تو دیا مگر پھر خیال آیا کہ مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کو کافر کہنے سے جس میں سرکار برطانیہ بھی اور سفید چمڑی والے بھی آجاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ عافیت دامن کی جو زندگی اہلحدیثوں کو نصیب ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے چنانچہ انھوں نے اسی اندیشہ کے تحت لفظ کافر کی تشریح حاشیہ میں کرنی ضروری سمجھی ہے، جو یہ ہے، فرماتے ہیں:

"کافر بمعنی منکر ہے اور یہ لفظ اس معنی کو نسبتی اور ایسا وسیع ہے کہ ہر ایک فرقہ کو بلحاظ اس مذہب کے جس کا وہ منکر ہو کافر کہا جا سکتا ہے حتیٰ کہ مسلمان خود اپنے کو دوسرے مذاہب کا کافر یعنی منکر کہتے ہیں حضرت ابراہیم اور ان کے اصحاب نے اپنے مخالفوں کو کہا ہے کہ ہم تمہارے کافر یعنی منکر ہیں" (کفرنا بکم کا یہ ترجمہ ہے) ص ۹

کبھی کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی لفظ کافر اور کفر کی یہ اچھوتی نرالی البیلی تفسیر کیوں سوجھی ہوگی، یہ تو غیر مقلدین کے لئے انکی عدم تقلید کی پاداش میں خصوصی

ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے مجاہدین بندوں کے ہاتھوں کفر کو ختم کر کے اس کی جگہ اسلام کا کلمۂ حق ہی تو بلند کرنا چاہتے ہیں، اور فتنۂ کفر کا استیصال ہی تو اس جہاد سے مقصود ہے یا جہاد کی مشروعیت دین اسلام میں اسلئے ہے کہ کافروں کے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ دیا جائے اور ان کو قند کا شیریں ٹکڑا اٹھایا جائے آنحضورؐ نے خیبر میں کیا کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف شمشیر برہنہ کیوں کی تھی، قرآن میں ہے: فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب یعنی جب تم کافروں کے مقابلہ ہو تو مارو گردنیں، یہ گردنیں مارنا کافروں کو ان کے کفر کی سزا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سرکار برطانیہ کا "ظل عافیت" غیر مقلدین کے سروں سے سمٹ نہ جائے محض اس کی خاطر جہاد کی یہ مخترعانہ تفسیر کی جارہی ہے۔

marfat.com

عطیہ غیبی ہے۔

البتہ غیر مقلدین کے ایمان کے لئے بھلا یہ ہوتا کہ اس لفظ کافر کو اپنے ہی لئے پسند کر لے تے کسی دوسرے مسلمان کیلئے اور خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسّلام کیلئے اس کا استعمال وہ نہ کرتے، کسی نبی کے لئے اس لفظ قبیح کا استعمال انتہائی جرأت انتہائی بے غیرتی اور انتہائی بد دینی اور انتہائی گستاخی ہے۔ ہائے رے ہمارے دین وایماں کی بربادی

وہ معتبر ہی نہیں سجدہ بندگی کیلئے
کبھی کسی کے لئے ہو کبھی کسی کیلئے

(۲۸) سرکار برطانیہ کا ہندوستان دارالاسلام تھا

مولانا بٹالوی لکھتے ہیں:

"اس مسئلہ اور اسکے دلائل سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ملک ہندوستان باوجودیکہ عیسائی سلطنت کے قبضہ میں ہے دارالاسلام ہے۔ . . . . .

اس پر کسی مسلمان بادشاہ کا لڑائی و چڑھائی کرنا جائز نہیں ہے۔ ص۲۵

دین کی یہ فہم جو اہلحدیثوں کے اس عالم کو حاصل رہی ہے وہ نہ شاہ عبدالعزیز کو حاصل تھی جنھوں نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا تھا نہ ان تمام علمائے اسلام کو جو گورنمنٹ برطانیہ سے برسرپیکار تھے اور ہندوستان کی آزادی کے لئے جان ومال کی بازی لگائے ہوئے تھے۔

(۲۹) پنجاب کے اہلحدیثوں نے گورنمنٹ برطانیہ کی خیرخواہی و وفاداری کا عہد کیا تھا

مولانا بٹالوی مرحوم کا یہ اعتراف ملاحظہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں :

"بعض اشخاص کا تو صریح لفظی و حقیقی عہد ہو چکا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو تحریراً و تقریراً حاضر و غائب خیرخواہی و وفاداری گورنمنٹ کا دم بھرتے ہیں اور انکی خدمت و معاونت میں سرگرم ہیں ان لوگوں میں پنجاب کے اہل حدیث داخل ہیں جنھوں نے سر نری ڈیوس صاحب بہادر کے عہد لفٹنٹ گورنری میں بذریعہ ایک عرضداشت کے اس عہد کا اظہار کیا تھا۔"[۴۸]

جب اہل حدیثوں نے گورنمنٹ برطانیہ اور سفید چمڑی والوں سے عہد وفاداری قائم کر لیا تھا اور حاضراً و غائباً انکی خدمت میں سرگرم رہے تو جو انکا مقدر ہوگا اور جو عافیت سرکار برطانیہ کے زیرسایہ ان کی قسمت کا حصہ ہوگی اس سے دوسرے بیچارے مسلمان اور خصوصاً احناف کیوں کر حصہ پا سکتے تھے اور ان کی قسمت اتنی زوردار کہاں تھی کہ وہ سرکار برطانیہ کے زیرسایہ امن و عافیت کی زندگی بسر کرتے خصوصاً جب کہ یہ احناف گورنمنٹ برطانیہ سے برسرپیکار بھی تھے اور انگریزوں کی نیند حرام کئے ہوئے تھے۔

البتہ اہلحدیثوں کو یہ جو زیر سرکار برطانیہ امن و عافیت کی زندگی حاصل تھی اس کے لیئے ان کو ایک بڑی قربانی دینی پڑی تھی اور یہ قربانی۔ ایمانی و اسلامی غیرت کو نذر سرکار برطانیہ کر دینے کی قربانی تھی دین کے مسلمات میں اس کے لیئے انکو بڑا اکتر و بیونت کرنا پڑا تھا۔

پرچم ملتِ بیضا گرایا کس نے ؟

marfat.com

(۳۰) گورنمنٹ برطانیہ سے لڑنا یا اس سے لڑنے والوں کی مدد کرنا غدر اور حرام ہے

مولانا محمد حسین بٹالوی کا گورنمنٹ برطانیہ سے ٹکرانے والوں کے بارے میں جن میں بڑے بڑے علمار اور مشائخ اور اولیار اللہ بھی تھے یہ فتویٰ بھی ناظرین ملاحظہ فرمائیں، فرماتے ہیں:

اس گورنمنٹ سے لڑنا یا ان سے لڑنے والوں کی (انکے بھائی مسلمان کیوں نہ ہوں) کسی نوع سے مدد کرنا صریح غدر اور حرام ہے۔ ص۴۹

شورش عندلیب نے روح چمن میں پھونک دی

(۳۱) ۱۸۵۷ء کی تحریک جہاد و آزادی ملک میں جو شریک تھے وہ مفسد باغی و بدکردار تھے

اب ذرا سینہ پر ہاتھ رکھ کر اس غیر مقلد اور اہلحدیث عالم کا ان مجاہدین اور سرفروشان اسلام اور آزادی ملک کے متوالے اور ایمان و اسلام پر فدا ہونیوالے راہ حق میں سر کٹانے اور محض دین کی سربلندی کے لئے تختۂ دار پر چڑھ جانیوالے اور باطل قوتوں سے ٹکرانے والے اللہ والوں کے بارے میں یہ فتویٰ بھی ملاحظہ فرمائیں اور ان غیر مقلدوں اور نام کے اہلحدیثوں کی بے غیرتی دینی بے حمیتی اور گورنمنٹ برطانیہ سے وفاداری کی داد دیں مولانا بٹالوی مرحوم لکھتے ہیں:

غزوۂ ۱۸۵۷ء میں جو مسلمان شریک ہوئے تھے وہ سخت گناہ گار اور بحکم قرآن و حدیث وہ مفسد و باغی و بدکردار تھے، اکثر ان میں عوام کالانعام تھے جو خواص و علمار کہلاتے تھے وہ بھی اصل علوم دین و قرآن و حدیث سے بے بہرہ تھے یا نافہم و بے سمجھ ص۴۹

marfat.com

یہ ہے غیر مقلدوں کی شرافت و کردار کا ایک نمونہ، یہ مفسد و بدکردار اور قرآن و حدیث سے بے بہرہ نافہم و بے سمجھ ان علماء کو کہا جا رہا ہے جن کی علوم دینیہ میں امامت اور کتاب و سنت پر گہری نظر جن کے تقویٰ و طہارت اور جنکی ایمانی غیرت و حرارت پر ہندوستان کی علمی و اسلامی تاریخ گواہ ہے اور جنکے جذبہ ایمانی کی مثال عہد قریب کی دو چار صدیوں میں ملنی مشکل ہے۔

مفسد و باغی کا یہ خطاب ان سرفروشان اسلام اور ناموس دین کی حفاظت کی خاطر اپنی جان و مال کی بازی لگا دینے اور سامراجی استعمار کی طاغوتی طاقت سے ٹکرانے والے مجاہدین اسلام کو دیا جا رہا ہے جنھوں نے تختہ دار پر چڑھ کر اور جام شہادت پی کر اور سینوں پر گولیاں کھا اور آگ کے بھڑکتے شعلوں میں جل کر خباب و بلال (رضی اللہ عنہما) کا نمونہ پیش کیا اور لوح تاریخ پر جاں فروشی و جاں سپاری کا نقش قائم کیا تھا۔ ثبت است بر جریدۂ عالم دوام ما

دین فروشی، ضمیر فروشی ایمان فروشی کی اس سے بدتر مثال اور کیا ہو سکتی ہے اس قسم کا نمونہ ہمیں جگہ جگہ "الاقتصاد فی مسائل الجہاد" مصنفہ مولانا محمد حسین بٹالوی اہلحدیث عالم کے اس رسالہ میں نظر آتا ہے، اس پر بھی ایک غیر مقلد صاحب بطور فخر فرماتے ہیں "انگریزوں کے خلاف جہاد کے تعلق سے جماعت اہلحدیث کی تاریخ بے حد روشن ہے۔ (محدث جولائی ۱۹۹۶ء)

(۲۲) غیر مقلدوں کا اسلام کی تاریخ پر ایک زبردست حملہ

مولانا محمد حسین بٹالوی کی یہ تحقیق بھی ملاحظہ فرمائیے، اور غیر مقلدین کا طائفہ اسلام کی روشن تاریخ سے کس درجہ بدظن ہے اور برطانوی سامراج کی کاسہ لیسی میں غیر مقلدین علماء کہاں تک جا چکے تھے اس کا اندازہ بھی لگائیے فرماتے ہیں:

شرعی جہاد تب ہی سے مقصود ہے جب سے شرعی امامت و خلافت

marfat.com

دنیا سے مفقود ہوئی ہے، بنا رعلیہ پچھلے سلاطین اسلام جو قریشی
نہ تھے اور نہ دوسری شرائط و اوصاف امامت ان میں پائے جاتے تھے
کی لڑائیوں کو جو بنام جہاد انھوں نے کیں ہیں شرعی جہاد نہیں
کہا جا سکتا ۔ (ص ۲۵ ص ۷۱)

یعنی حضرت علی کے زمانہ کے بعد سے مسلمانوں نے جتنے جہاد کئے اور کافروں سے جتنی لڑائیاں لڑیں اور صلیبی طاقتوں سے جوان کی جنگیں رہیں صلاح الدین ایوبی اور نورالدین زنگی کی باطل قوتوں سے جو معرکہ آرائیاں تھیں وہ تمام اور مسلمانوں کی وہ تمام کاوشیں جو ملت بیضاء کی حفاظت کیلئے اور اسلام اور مسلمانوں کی عزت و آبرو بچانے کیلئے تھیں اور اسلامی ممالک کی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر جتنی گردنیں کٹیں یہ سب کچھ بمقصدہ تھا بغاوت تھی، غیر اسلامی لڑائیاں تھیں اور بلا وجہ کا خون خرابہ تھا، اور حضرت علی کے بعد سے اسلام کی راہ میں جتنے سر کٹے وہ بیکار عمل تھا نہ ان سر کٹانے والوں کو مجاہد کہا جا سکتا ہے نہ غازی نہ شہید، یہ ہے اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ ان غیر مقلدین کے نزدیک ۔

مگر میں ان غیر مقلدین کو آگاہ کرتا ہوں
تابکے جذب کلیمانہ رہے گا خاموش
شیطنت درپے آزار رہے گی کبتک

تم نے تمہارے علماء و مشائخ نے نواب صدیق خاں صاحب نے، مولانا نذیر حسین دہلوی نے مولانا محمد حسین بٹالوی نے اور تمہاری جماعت کے بڑے بڑے جغادریوں نے محض سرکار انگریزی کی خوشامد میں جو اسلامی تاریخ کا چہرہ مسخ کیا ہے تاکہ ان کی اور ان کی جماعت "اہلحدیث" کی امن و عافیت کی زندگی میں فرق نہ پڑنے پائے ۔ سرکار برطانیہ کا زمانہ لد گیا، مجاہدین حریت کی قربانیاں رنگ لائیں اور برصغیر ہند آج برطانوی سامراج کی غلامی سے آزاد ہو چکا ہے اب تمہارا

marfat.com

یہاں کوئی حمایتی نہیں اب تیار رہو کہ تمہارے چہرہ سے تمہارے فریب اور نفاق کا نقاب الٹ دیا جائے گا اور تمہاری اسلام دشمنیاں بے نقاب ہونگی اور تم نے ماضی میں جو علمائے حق کے کردار کو بدنما کرنے کی کوشش کی ہے یا اب بھی کر رہے ہو اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا ہوگا تم پہلے بھی ذلیل تھے اور اب بھی ذلیل رہو گے ۔

اپنے دامن کیلئے خار چنے خود تم نے !
اب یہ چبھتے ہیں تو پھر اس میں شکایت کیا ہے

خاں صاحب بھوپالی اور انکی "ترجمان وہابیہ"

گورنمنٹ برطانیہ کی ہوا خواہی اور وفاداری غیر مقلدوں کی جماعت کا اپنے وجود کے زمانہ ہی سے شیوہ رہا ہے، جس کا کچھ نمونہ آپ نے اوپر ملاحظہ کیا، مولانا محمد حسین مرحوم بٹالوی سے پہلے کا زمانہ نواب صدیق حسن خاں صاحب کا ہے، نواب صاحب موصوف بھی اپنی پوری زندگی گورنمنٹ برطانیہ کی ہوا خواہی و وفاداری کا راگ الاپتے رہے اور مختلف طریقوں سے اپنی اور اہلحدیث جماعت کی گورنمنٹ برطانیہ سے وفاداری کی شہادتیں فراہم کرتے رہے، انھیں "مساعی جمیلہ" کے طفیل میں نوابی کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا تھا، اور ان کو بڑے بڑے معزز القاب سے سرکار برطانیہ نے نوازا تھا۔

نواب صاحب کی مذکورہ "مساعی جمیلہ" ہی میں کا ایک نمونہ ہمارے سامنے "ترجمان وہابیہ" نام کے رسالے کی شکل میں ہے، اس رسالہ میں نواب صاحب نے مختلف انداز میں برٹش گورنمنٹ کے عدل وانصاف اور اس کی رعایا پروری کے گن گائے ہیں، برطانوی استعمار میں ان کو بھی بڑا امن وامان نظر آرہا تھا چاروں طرف ان کو خیر ہی خیر دکھائی دے رہی تھی، اور مسلمانوں

marfat.com

کی تحریک آزادی کی جو کوششیں اور قربانیاں تھیں یہ قربانیاں ان کو بھی بغاوت فتنہ اور فساد ہی دکھلائی دے رہی تھیں، ترجمان وہابیہ کتاب بڑی معلومات افزا اور اہلحدیث جماعت کی ہندوستان میں تاریخ کیا رہی ہے اس کا ایک مستند ذریعہ اور معتبر شہادت ہے، ہم ذیل میں ترجمان وہابیہ سے چند اقتباس ناظرین کرام کی ضیافت طبع کے لئے پیش کرتے ہیں۔

مزید معلومات کیلئے اصل کتاب کا مطالعہ کیا جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک غیر مقلد صاحب کا یہ "کلام مبارک" بھی پڑھ لیجئے۔ لکھتے ہیں:

"نواب صدیق حسن بخاری اور محمد حسین بٹالوی رحمہما اللہ نے کن حالات میں کیا لکھا اور کہا۔ (محدث جولائی ۱۹۹۶ء)

میں کہتا ہوں جن حالات میں جو لکھا اور کہا ہو لکھا اور کہا وہی ہے جو یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ غیر مقلدوں کو معلوم ہونا چاہیئے ارباب عزیمت حالات کے سامنے سپر اندازی اختیار نہیں کرتے اور خود سپردگی ان کا شیوہ نہیں ہوتا، اس لئے اس بارے میں غیر مقلدین کا کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا۔

(۳۳) قریب قیامت کے اکثر ملکوں کے حاکم عیسائی ہو جائیں گے

(غیر مقلدوں کی پیشین گوئی)

نواب صاحب بھوپالی ترجمان وہابیہ میں فرماتے ہیں:

"قریب قیامت کے اکثر ملکوں کے حاکم عیسائی لوگ ہو جائیں گے" ص۶

ہم تو اب تک یہ سمجھتے رہے کہ عالم الغیب صرف خدائے تعالیٰ ہے مگر اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ غیر مقلدین علماء کو بھی اس صفت خاص بذات خداوندی سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملا ہے۔

marfat.com

اور اگر خاں صاحب نے یہ مضمون کسی حدیث سے اخذ کیا ہے تو براہ کرم اسکا نشان و پتہ بتا کر سنداً و متناً اس کی صحت ثابت کریں، اس لئے کہ غیر مقلدین جو اپنے اہلحدیث ہونے کے مدعی ہیں، صرف صحیح حدیث کو قبول کرتے ہیں ضعیف حدیث ان کے نزدیک ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جاتی ہے۔ گورنمنٹ برطانیہ کی وفاداری میں غیر مقلدین کے علما راس حد تک جا سکتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

(۲۴) گورنمنٹ برطانیہ سے لڑنا سخت بیوقوفی و نادانی ہے

خاں صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہ بات طے شدہ ہے کہ قریب قیامت کے اکثر ملکوں کے حاکم عیسائی لوگ ہو جائیں گے تو:

"فکر کرنا ان لوگوں کا جو اپنے حکم مذہبی سے جاہل ہیں اس امر میں کہ حکومت برٹش مٹ جائے اور یہ امن و امان جو حاصل ہے فساد کے پردہ میں جہاد کا نام لے کر اٹھا دیا جائے سخت نادانی و بے وقوفی کی بات ہے" ص

جی ہاں ساری عقل اور خردمندی تو قسام ازلی نے غیر مقلدوں ہی کی قسمت میں رکھی تھی اور مذہبی احکام سے اگر کچھ واقف تھا تو غیر مقلدین کا یہی مختصر سا ٹولہ جس کے ہندوستان میں وجود کے گنتی کے چند دن ہوئے تھے۔

ظلمتیں حد ادب سے جو بڑھیں خیر نہیں
عصمت شمس و قمر کے نگراں ہیں ہم لوگ

marfat.com

(۳۵) ہماری معلومات میں زبردست اضافہ

خاں صاحب مرحوم ومغفور نے اللہ انکی قبر کو اپنی رحمتوں کے جھونکوں سے ٹھنڈا رکھے ہماری معلومات میں ایک زبردست اضافہ فرمایا ہے۔

اور وہ یہ ہے:

"۹۳۰ھ میں ایک ہزار آٹھ سو پچاس سال پہلے طوفان نوح سے وفات آدم علیہ السلام کی ہوئی اس وقت چالیس ہزار آدمی انکی اولاد سے موجود تھے۔" ص

یقیناً خاں صاحب نے اس متعین عدد کی قطعیت کا علم کہیں سے حاصل کیا ہوگا جب ہی وہ بلا کسی تردد وریب کے اس قدر پختہ لب ولہجہ میں اس چالیس ہزار عدد کا ذکر کر رہے ہیں۔

ہمارے ایک دوست نے خاں صاحب کے اس بیان پر ایک شبہ ظاہر کیا ہے اسکو ہم یہاں ذکر کر دیتے ہیں۔

ان کا فرمانا یہ ہے کہ قبل بعثت نبوی کے وقائع کے قطعی علم کا ذریعہ صرف دو چیزیں ہیں وحی الٰہی یا فرمان نبوی صلے اللہ علیہ وسلم، خاں صاحب نے اتنے قطعی لب ولہجہ میں مذکورہ بالا قبل بعثت نبوی کی تاریخ اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ میں چالیس ہزار لوگوں کی موجودگی کا متعین عدد جو بیان کیا ہے اس کا ذریعہ معلومات ان کے پاس کیا ہے۔ اگر کوئی نص قرآن ہے تو اس کی نشان دہی کی جائے کہ اس کا ذکر قرآن کی کس سورت اور کس پارہ میں ہے۔ اور اگر ان کا ذریعہ معلومات کوئی حدیث نبوی ہے تو اس سے باخبر کیا جائے۔

اور رہی اسرائیلی روایات اور توریت وانجیل کی بات تو اس کے بارے میں ہماری شریعت کا یہ حکم ہے۔

marfat.com

"نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو"

اس لیے یہ چیزیں مسلمانوں کے لئے علم کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہیں، ہمارے دوست کے اس شبہ کا کوئی جواب اگر ہمارے غیر مقلدین دوستوں کے پاس ہے تو براہِ کرم وہ ان کو مطمئن کریں۔

نالے کرنے پڑے، حشر اٹھانا پڑا
سو رہا تھا زمانہ جگانا پڑا

(۲۶) آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لیکر تا زمانہ گورنمنٹ برطانیہ جو امن و آسائش انگریزی حکومت میں تھی کسی حکومت میں کبھی نہیں رہی

نواب صدیق حسن خاں صاحب بھوپالی مرحوم جو طبقۂ غیر مقلدین کے مجدد اور عظمائے اسلام میں سے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر گورنمنٹ برطانیہ تک کے زمانہ کی ایک اجمالی تاریخ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"کتب تاریخ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو امن و آسائش و آزادگی اس حکومت انگریزی میں تمام خلق کو نصیب ہوئی ہے کسی حکومت میں نہ تھی" ص۳

اسلام کا بڑے سے بڑا دشمن بھی اسلام کی تاریخ پر اس سے زبردست حملہ نہیں کرسکتا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غیر مقلدوں کے دل دبدبۂ سامراج انگریزی سے ایسے مرعوب تھے کہ وہ ان کی خوشنودی و رضامندی حاصل کرنے کیلئے بڑے سے بڑا جھوٹ بولنے سے بھی عار نہیں محسوس کرتے تھے۔

یہ تھا خادمان قوم و ملت اور اسلام کے اوپر فدا ہونے والوں کا حال غیر مقلدوں میں اگر شرم و حیا ہو تو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جائیں۔ عہد صدیقی اور عہد فاروقی کی یہ زبردست توہین۔ استغفراللہ و معاذاللہ۔

کیا نہ ہوگے جو ملی جائیں صنم پتھر کے

(۲۷) شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حنفی تھے

آج کل غیر مقلدین کا طائفہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی نسبت جوڑے اور اس طرح وہ ہندوستان میں اپنے وجود کی تاریخ کو حضرت شاہ صاحب کے زمانہ تک لے جائے، اور اس سہارے سے لوگوں میں یہ مشہور کرے کہ "اہلحدیثوں" کا احیاء کتاب و سنت میں بڑا حصہ رہا ہے اور انھوں نے بواسطہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ابناء و تلامذہ تجدید دین کا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے آج کل ان غیر مقلدوں کی نئی مطبوعات میں اس جھوٹے پروپیگنڈہ کی کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث تھے۔ اور غیر مقلد تھے، تقلید کے سخت مخالف تھے، پورے زور و شور سے اشاعت ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ محض غیر مقلدوں کا احساس کمتری ہے، ان کے سامنے یہ حقیقت ہے کہ ان کا وجود اس ہندوستان میں بالکل نیا ہے، میاں نذیر حسین صاحب محدث دہلوی کے زمانہ سے اس فرقہ کی شناخت قائم ہوئی ہے اپنے اس احساس پر پردہ ڈالنے کیلئے اور اپنے وجود کی تاریخ کو کچھ آگے بڑھانے کیلئے غیر مقلدین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو غیر مقلد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ کوشش اس زمانہ کے غیر مقلدوں کی ہے جن کو اپنی اسلامی اور علمی خدمات اُجاگر کرنے کا بلاوجہ کا بہت زیادہ شوق ہے، ان کے پہلے کے علماء جن کا زمانہ حضرت شاہ صاحب سے قریب ہے اور وہ آج کے "طائفہ غیر مقلدہ" سے زیادہ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کو جاننے والے تھے انھوں نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حنفیت کا کبھی انکار نہیں کیا ہے، چنانچہ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی اپنی اسی کتاب ترجمان وہابیہ میں فرماتے ہیں:

marfat.com

شاہ ولی اللہ محدث جو بڑے عالم حنفیوں میں بڑے متبع کتاب
وسنت تھے ص۱۱

کہاں ہے آج کا ،، طائفہ غیر مقلدہ ،، جو حقیقت کو مسخ کرنے پر تلا ہوا ہے اور
اسلام کی دینی ومذہبی وعلمی تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے ۔

حنفیوں کے دامن میں پناہ لے کر حنفیوں ہی پر تیر برساتے ہو، کچھ تو شرماؤ
حیا کھاؤ اور احسان فراموش مت بنو ۔

نہ ہو جو غم کا طلبگار وہ جگر کیا ہے
نہ ہو جو حق کی طرفدار وہ زباں کیا ہے

(۳۸) مجاہدین جنگ آزادی کے سلسلہ میں نواب صاحب بھوپالی کا گندہ ریمارک

۱۸۵۷ء کے جہاد آزادی میں جو مسلمان شریک تھے، جن میں عوام بھی تھے اور علماء بھی اولیاء اللہ بھی تھے اور عارفین بھی شب تنہائی میں اللہ اللہ کرنے والے بھی تھے اور مسند درس وتدریس کے فضلاء بھی، ان کے سینوں میں اسلام کی تڑپ تھی، وہ دیکھ رہے تھے کہ انگریزی دور حکومت میں اسلام مٹتا جارہا ہے، اسلامی شعائر کے ساتھ استہزار کیا جارہا ہے، اسلامی تہذیب وثقافت پر انگریزوں کی یلغار ہے، مساجد اجاڑی جارہی ہیں مساجد بند کی جارہی ہیں، مسلمان نوجوانوں کا ذہن ومزاج بدلا جارہا ہے، مسلمانوں کی آزادی ان سے چھین لی گئی ہے، ان کو دین سے بے گانہ کیا جارہا ہے، انکی زبان کو آہستہ آہستہ ختم کیا جارہا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو اپنی کھلی آنکھوں مشاہدہ کر رہے تھے اور جب پانی سر سے اونچا ہوگیا اور بہادر شاہ ظفر کو قتل کرنے کے بعد انگریزوں کا پورے ہندوستان پر کامل قبضہ واقتدار ہوگیا تو

marfat.com

انھوں نے دین و ایمان کی حفاظت کے لئے اسلامی تہذیب و ثقافت کی حفاظت کے لئے اور غلامی کی ذلت سے نجات حاصل کرنے کے لئے انگریزوں سے جہاد کا عزم کیا اور اللہ کا نام لے کر میدان جہاد میں کود پڑے ، اگرچہ اس وقت وہ بظاہر اپنے اس جہاد میں کامیاب نہ ہوسکے مگر انھوں نے تختہ دار پر چڑھ کر اور اپنی قیمتی جانیں قربان کر کے جو آزادی کا چراغ روشن کیا تھا اور مسلمانوں کے اور اہل وطن کے دلوں میں جو ملی و دینی و قومی اور وطنی غیرت و حمیت کا فانوس جلایا تھا وہ دھیرے دھیرے جلتا رہا اور اپنا کام کرتا رہا اور آخر وہ وقت آیا کہ انگریزوں کو یہ ملک چھوڑنا پڑا اور ان کو ذلت و ناکامی کے ساتھ جس سات سمندر پار سے آئے تھے پھر اسی سات سمندر پار واپس جانا پڑا ۔

ان مجاہدین آزادی کے بارے میں نواب صاحب بھوپالی ، اہلحدیث ، کا یہ گندہ ریمارک ملاحظہ فرمائیے ، خاں صاحب مرحوم فرماتے ہیں ، فرماتے کیا ہیں مسلمانوں کا کلیجہ جلاتے ہیں :

> ۔ غدر میں جو چند لوگ نادان عوام الناس فتنہ و فساد پر آمادہ ہو کر جہاد کا جھوٹ موٹ نام لینے لگے اور عورتوں اور بچوں کو ظلم و تعدی سے مارنے لگے اور لوٹ مار پر ہاتھ دراز کیا اور اموال رعایا و برایا پر غصبا قابض و متصرف ہوئے انھوں نے خطائے فاحش کی اور قصور ظاہر ، . . . . ہم نہیں جانتے کہ ان میں سے کس جماعت اور لشکر میں خلوص نیت اور ریا کی طینت اور انصاف واجبی اور تبعیت مذہب اسلام ہو ، ص۱۳

میں خاں صاحب کے اس ریمارک پر کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتا ، ناظرین کرام خود فیصلہ فرمائیں سرکار انگریزی میں غلامی کی زندگی نے ، اہلحدیثوں ، کو ۔

marfat.com

کس مقام پر لا کھڑا کر دیا تھا کہ انکی زبان اور ان کا قلم اور ان کا ضمیر گورنمنٹ برطانیہ کے ہاتھ سب بک چکا تھا، اور یہ اس لئے بک چکا تھا کہ ان کو اسی دنیا میں سب کچھ چاہیئے تھا، امن، عافیت، چین و راحت، عزت، مال و دولت سب کچھ،

نظر کس قدر ان کی محدود ہے
جنہیں آج سب کچھ یہیں چاہیئے

(۳۹) جنت میں داخل ہونے کو فقط اسلام اور ایمان کافی ہے نواب صاحب کا فرمان

مسلمانوں میں انگریزوں کے خلاف جہاد کی اسپرٹ اور روح ختم کرنے کے لئے غیر مقلدین علماء، و زعماء دین و شریعت کی عجیب عجیب تشریح کیا کرتے تھے گزشتہ صفحات میں آپ نے دیکھا مولانا محمد حسین بٹالوی غیر مقلد نے جہاد کے بیان و تفسیر کے سلسلہ میں کیسے کیسے گل بوٹے کھلائے ہیں اور وہ جہاد کے معنی کی شرعی تحقیق کرتے کرتے بالآخر اس حتمی نتیجہ پر پہونچے کہ انگریز گورنمنٹ کا عہد وفاداری کا نبھانا ضروری ہے اور انگریزوں سے جہاد حرام اور بڑی معصیت ہے۔

نواب صاحب بھوپالی مرحوم کا بھی کچھ اسی قسم کا انداز ہے، دین و شریعت کی من مانی تفسیر و تشریح میں نہ ان کے بڑوں کو شرم اور نہ چھوٹوں کو حیا، ذرا نواب صاحب کا یہ بیان ملاحظہ فرمائیے:

"جنت میں داخل ہونے کو فقط اسلام اور ایمان کافی ہے اگرچہ اپنے وطن میں ساری عمر بیٹھا رہے اور جہاد نہ کرے۔ ص۱۵

یہ ہے غیر مقلدوں کا مذہب اور عقیدہ، اور مسلمانوں سے اسلامی اسپرٹ اور

marfat.com

جہاد کی روح ختم کرنے کی ناپاک کوشش اور غلامانہ زندگی پر ان کو قانع بنانے کی سرکار برطانیہ کے ساتھ ملی بھگت اور غیر مقلدوں کی خطرناک سازش۔

ان غیر مقلدوں کے بڑوں نے ان کو یہی سکھایا ہے کہ اسلام وایمان کا نام لیتے رہو جنت میں چلے جاؤ گے، چاہے تمہارا کردار کچھ بھی ہو۔ اور چاہے تم نے اپنی زندگی سے جہاد کا فریضہ نکال دیا ہو، اسلام رسوا ہو دین بدنام ہو، مسلمان تباہ ہوتے ہوں، اسلامی شعائر کو ختم کرنے کی ناپاک سازش ہو، تم کو شعائر دین سے بیگانہ اور ناآشنا بنانے کی خطرناک خفیہ اسکیمیں ہوں، تم کو تمہاری تہذیب و ثقافت اخلاق واقدار سے ننگا کر دیا جائے، کچھ پرواہ مت کرو، اپنے حق کے لئے لڑائی مت لڑو، اپنے دین کی حفاظت کے لئے جہاد مت کرو تم مسلمان ہو تم ایمان والے ہو، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بلا کچھ کئے دھرے تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔

میری سمجھ میں آگیا، ہر ایک رازِ زندگی
جو دل پہ چوٹ پڑ گئی، تو دور تک نظر گئی

(۴۰) ۱۸۵۷ء کا جہادِ آزادی ہڑبونگ تھا، بیوقوفوں کا جہاد تھا

۱۸۵۷ء کے جہادِ آزادی کے بارے میں نواب صاحب بھوپالی غیر مقلد عالم کا یہ بیان بھی نگاہ میں رہے:

"یہ ہڑبونگ جاہلوں کا اور بہتیرے مفسدوں کا اور جمگھٹا بیوقوفوں کا جہاد ہے، معلوم نہیں ہوتا کہ انھوں نے یہ فتویٰ کس قرآن سے نکالا اور کون سی حدیث سے ثابت کیا۔" ص ۱۶

شہدائے مجاہدین اسلام کے بارے میں غیر مقلدوں کا یہ تمسخریہ انداز اور ان کو بے وقوف اور جاہل کہنے کی یہ گستاخی ان کے ذہن و مزاج کی صحیح ترجمانی ہے۔

marfat.com

غیر مقلدوں کا اکابر امت، حتیٰ کہ صحابہ کرام تک کے بارے میں یہی انداز گفتگو ہوتا ہے۔

روز قیامت یہ شہداء اور مجاہدین ہوں گے اور غیر مقلدوں کا دامن ہوگا اور جب وہ شہداء اور مجاہدین ان غیر مقلدوں کو کھینچ کر اپنے اوپر ان کے ظلم کے انصاف کی داد چاہنے کے لئے حضور خداوندی میں لے جائیں گے تب ان خون شہداء کا مذاق اڑانے والوں کو اپنا انجام معلوم ہوگا، اور حاضرین محشر دیکھیں گے کہ ان کو سرکار برطانیہ کا کون سا گورنر اور کون سا لفٹنٹ اور کونسا صاحب بہادر مدد کرنے کو آتا ہے۔

جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستیں کا

شاید یہ غیر مقلدین۔ اہلحدیث۔ علماء کتاب و سنت اس حقیقت سے واقف نہیں۔

دوسروں کو ذلیل کرنے سے
آدمی خود ذلیل ہوتا ہے

(۴۱) رعایا پروری میں حکام فرنگ کا مثل و نظیر نہیں

غیر مقلدین حضرات کے اکابر سرکار برطانیہ اور سفید چمڑی والوں کے ہمیشہ نمک حلال رہے اور نمک حلالی کا حق ادا کرتے رہے، ان کی خوبیوں کے گن گاتے رہے اور برٹش نظام اور برطانوی سامراج کی خیر و خوبی کی ڈھولک بجاتے رہے، برٹش نظام نے ان سے اپنے حق میں بڑا کام لیا اور ان کو اس کا بڑا انعام دیا، کسی کو نواب بنا دیا کسی کو جاگیر دی کسی کو عہدے اور خطابات دیئے، اور رہی امن و امان کی عام زندگی تو سرکار برطانیہ میں ان کے ہر عام و خاص کو حاصل رہی، یہی وجہ ہے کہ نواب صاحب کو برٹش سرکار میں ہر طرف امن و امان ہی نظر آرہا تھا۔ ہے رعایا پروری میں حکام فرنگ کا مثل و نظیر صرف

marfat.com

اُسی زمانہ میں نہیں بلکہ اکثر پچھلے زمانوں میں بھی جب ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومتوں کا پرچم لہرا رہا تھا ان غیر مقلدوں کو نظر نہیں آتا تھا، نواب صاحب بھوپالی کا یہ بیان پڑھئے، اور کسی کے نمک حلال بننے کا اس سے سبق سیکھیے فرماتے ہیں:

"درستی ملک اور صفائی راہ اور رفاہ عوام اور امن خلائق اور امان مخلوق اور راحت رسانی رعیت اور آرام دہی بریت میں حکام فرنگ کا مثل اور نظیر اس وقت میں بلکہ اکثر اوقات میں ہرگز نہیں۔" ص۱۸

مسلمان حکومتوں کے زمانہ میں ہندوستان کیا اور کیسا تھا اس کے لئے ناظرین کرام ہندوستانی تاریخ کا مطالعہ کریں اور پھر اس بے غیرتی دینی بے حمیتی اور قومی و ملی شعور کے افلاس پر ماتم کریں جس میں یہ فرقہ غیر مقلدین گرفتار تھا، اور مسلمانوں کی روشن تاریخ پر چھینٹے اڑا رہا تھا، مسلمان جماعتوں سے کٹ کر ہائے اس فرقہ کا کیا حال ہو گیا تھا اور وہ کس پستی میں جا پڑا تھا، ناظرین کو اس کا اندازہ لگ رہا ہوگا۔

چھوڑ کر اس آستاں کو یہ ملی مجھ کو سزا\
دربدر کرنی پڑی خم اپنی پیشانی مجھے

ممکن ہے کہ غیر مقلدین حضرات اپنے حق میں میرے قلم کے تیزی کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہوں لیکن میں اپنے ان دوستوں کو کیا بتلاؤں اور انکو کیسے اپنا زخم جگر دکھلاؤں کہ جب وہ اکابر امت مجاہدین اسلام اور اسلام کے نام پر مرمٹنے والوں کے خلاف زبان وقلم چلاتے ہیں اور اسلام کی تاریخ اور اسلام کی صورت کو مسخ کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں اور قرآن وحدیث کا نام لے کر قرآن وحدیث کی تعلیمات کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، قرآن وحدیث جن کے ذریعہ سے ہم تک پہونچا ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں حتی کہ صحابہ کرام کی شان میں بکواس

marfat.com

کرنے تک سے باز نہیں آتے تو پھر میرے دل کا حال کیا ہوتا ہے۔ میرے جگر پر کیسی چوٹ پڑتی ہے، میں اپنے ان دوستوں کو اپنے جگر کا یہ گھاؤ اور یہ چوٹ کیسے دکھلاؤں، دکھلانا بھی چاہوں تو نہیں دکھلا سکتا۔

یہ چوٹ پڑی ہے دل پر تو، آہ لبوں تک آئی ہے
یوں ہی چھن سے بول اٹھنا تو شیشے کا دستور نہیں

(۴۲) اہلحدیث تیرہ سو سال سے چلے آرہے ہیں ان میں کوئی بھی کبھی حاکم یا بادشاہ نہیں ہوا

خاں صاحب بھوپالی مرحوم کا یہ تاریخی بیان بھی ناظرین ملاحظہ فرمائیں فرماتے ہیں:

۔ اہلحدیث تیرہ سو برس سے چلے آتے ہیں ان میں سے کسی نے کسی ملک میں جھنڈا اس جہاد اصطلاحی حال کا کھڑا نہیں کیا اور نہ کوئی ان میں حاکم یا بادشاہ کسی ملک کا بنا بلکہ سب کے سب زاہد تارک دنیا تھے۔ ص۲۱

اس بیان سے کئی باتیں ناظرین کو معلوم ہوئیں

(۱) اہلحدیث کا طائفہ تیرہ سو برس سے چلا آرہا ہے

(۲) اہلحدیثوں نے کبھی جہاد نہیں کیا

(۳) اہلحدیثوں میں کبھی کوئی حاکم بادشاہ نہیں ہوا

(۴) اہلحدیث تیرہ سو برس سے خاں صاحب کے زمانہ تک سب کے سب تارک دنیا و زاہد تھے۔

"یہ کس عالم کا ہے مذکور کس دنیا کی باتیں ہیں"

اہلحدیث اپنی اس تاریخ پر جتنا چاہیں فخر کرلیں مگر کم از کم یہ مسلمانوں کی تاریخ نہیں ہے، یہ صحابہ کرام اور تابعین ائمہ دین محدثین و مفسرین اور مجاہدین اسلام

marfat.com

اور اللہ کی راہ میں سر کٹانے والوں کی تاریخ نہیں ہے، یہ تاریخ کسی مصنوعی مذہب وملت کی تاریخ ہے، اسلام کا اس تاریخ سے کوئی واسطہ نہیں ہسلمانوں کا اس مذہب وملت سے کوئی علاقہ نہیں ہے۔ مبارک ہو اہلحدیثوں کو ان کی تاریخ

وقت بس گزار لینا ہی دوستو! کوئی زندگانی ہے؟

اور اس معتبر شہادت اور تاریخی بیان سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خلفائے راشدین میں سے کوئی بھی اہل حدیث نہیں تھا، اسلئے کہ خلفائے راشدین سب کے سب مجاہدین تھے اپنے اپنے وقت میں مسلمانوں کے حاکم تھے ان میں کا کوئی صرف زاہد وتارک دنیا نہیں تھا، دین ودنیا دونوں کی یہ قیادت کرنے والے تھے۔ یہ امور سلطنت کے نگراں بھی تھے اور اللہ کے حضور میں سر جھکانے والے بھی تھے۔

اسلام کی تھی تاریخ بہت روشن روشن تاباں تاباں

اس طرح کوئی صحابی کوئی تابعی بھی اہلحدیث نہیں تھا، اس وجہ سے کہ کسی صحابی یا تابعی کی زندگی وہ نہیں تھی جو زندگی اہلحدیثوں کی خاں صاحب بیان فرما رہے ہیں۔ مسلمان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے تو شروع ہی سے بزم رزم کے سپاہی رہے، کبھی وہ خالص زاہد وراہب نہ تھے اور نہ دنیا سے کٹ کر رہنے والے تھے، وہ زندگی سے فراری نہیں بلکہ گیسوئے زندگی سنوارنے والے تھے۔

غیر مقلدوں کو اپنے جس زہد پر فخر ہے یہ زہد نہیں انسانوں کی زندگی کے لئے سم قاتل ہے، اور اس کی جزا بقول ماہر القادری

وہ زہد جو کہ رضا مند ہو غلامی پر

ہے ایسے زہد پہ آب وہوائے خلد حرام

خاں صاحب کو حق ہے جہاں سے چاہیں اہلحدیثوں کا وجود ثابت کریں ان کی زبان وقلم پر کوئی پہرہ نہیں لگا سکتا، مگر خدا کے لئے مسلمان بن کر

marfat.com

یہ سب کچھ نہ کریں، اسلام پر اور مسلمانوں پر ان کا یہ بڑا کرم ہوگا، اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اس سے بڑھ کر کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی کہ ان کی روشن تاریخ کو بدنام کیا جائے۔ خاں صاحب مرحوم اگر زندہ ہوتے تو میں ان سے بصد ادب عرض کرتا

وقت ہی کو جو بدلدے وہ ہے انسان عظیم
وقت کے ساتھ بدلنا کوئی کردار نہیں

(۴۳) سرکار برطانیہ کی مخالفت کسی غیر مقلد نے نہیں کی

خاں صاحب مرحوم جن کو اپنی اور اپنی جماعت غیر مقلدین کی سرکار برطانیہ سے وفاداری اور اطاعت شعاری و خیر خواہی کا یقین دلانا حکام انگریزی کو ہر فرض سے بڑا فرض تھا تاکہ غیر مقلدوں کو جو امن و عافیت کی زندگی زمانہ گورنمنٹ برٹش میں میسر تھی اس میں فرق نہ پڑنے پائے۔ اس کے لئے بہر نوع ان کی کوشش تھی کہ غیر مقلدوں کی پوزیشن گورنمنٹ برطانیہ کے سامنے واضح کرتے رہیں چنانچہ ایک جگہ وہ اپنی اسی کتاب میں لکھتے ہیں:

"ایسا آج تک نہیں پایا گیا کہ جس نے دعوی اتباع قرآن و حدیث کر کے سرکار سے مخالفت کسی قسم کی کسی شہر میں کی ہو یا خود جہاد کا ارادہ یا دوسروں کو اس پر آمادہ کیا ہو۔" ص ۲۱

"تیری آواز مکے اور مدینے"

ایک غیر مقلد صاحب جو بنارس کے ایک مرکزی جامعہ کے غالباً ٹیچر ہیں بڑے طنطنہ سے اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں:

"انگریزوں کے خلاف جماعت اہلحدیث کا کارنامہ تو ایسا ٹھوس اور قابل فخر ہے کہ بہت سے لوگ آج تک ان کا نام لے کر کھا پی رہے ہیں۔"

(ماہنامہ محدث شمارہ جون ۱۹۹۶ء)

marfat.com

ہمیں ان ٹیچر صاحب کے کلام پر کوئی اعتراض نہیں مگر ان ٹیچر صاحب کو یہ بتلانا ہوگا کہ تم جھوٹے ہو یا تمہاری جماعت کا یہ قابل فخر فرزند جماعت غیر مقلدین کا مجدد اور وہ جس کا شمار علمائے اسلام میں تھا، وہ جھوٹا تھا۔ تم کہتے ہو اہلحدیثوں نے انگریزوں کے خلاف بڑا ٹھوس کارنامہ انجام دیا، اور تمہارا مجدد کہتا ہے کہ اہلحدیث جماعت ہمیشہ سے سرکار برطانیہ کی بہی خواہ رہی ہے تم دونوں میں سے کس کی بات صحیح ہے، اس کا فیصلہ تم خود ہی کرو۔

ان ٹیچر صاحب کی پیدائش کا زمانہ تو آج کا ہے، جبکہ نواب صاحب بھوپالی سامراجی عہد میں جی رہے تھے اور امن و عافیت کی زندگی بسر کر رہے تھے ان ٹیچر صاحب کے مقابلہ میں ناظرین کا فیصلہ یہی ہوگا کہ نواب صاحب بھوپالی ہی کا بیان زیادہ معتبر ہوگا۔

اس بات پر معتوب ہوں محفل میں کہ میں نے
محفل کے ہر اک شخص کو پہچان لیا ہے (۱)

---

(۱) جب بات ان ٹیچر صاحب کی آگئی ہے تو تھوڑی سی ان کے بارے میں بھی گفتگو ہو جائے، آجکل یہ صاحب مرکزی دارالعلوم (سابق کا) جامعہ سلفیہ (حال کا) سے نکلنے والے محدث پرچے میں ایک مضمون "گنبد کی صدا" کے عنوان سے لکھ رہے ہیں، مضمون پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صاحب نرے ٹیچر کے ٹیچر ہی ہیں، عقل و فہم سے بالکل عاری قلم چلانے کی ابھی گویا مشق کر رہے ہیں۔ انکے علم و عقل کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جس فاضل صاحب کے مضمون کا یہ رد لکھ رہے ہیں ان فاضل صاحب نے یہ بتلانے کیلئے کہ غیر مقلدوں کا وجود صرف صدی ڈیڑھ صدی پہلے کا ہے اور ثبوت میں جامعہ سلفیہ کی مایہ ناز مطبوعہ کتاب الانطلاق الفکری مولانا اسماعیل سلفی کا حوالہ دیا اس پر یہ ٹیچر صاحب فرماتے ہیں:

"یاد رہے جس کتاب سے آپ ہم کو الزام دے رہے ہیں اگر اسی سے ہم اپنا مدعا

marfat.com

(۴۴) انگریزوں کی مخالفت نقد دین کا کھونا ہے

نواب صاحب بھوپالی کا ارشاد ہے

خاں صاحب نواب بھوپالی یہ فرماتے ہوئے کہ سرکار انگریزی کی مخالفت حرام ہے اور جہالت و بے دینی کا کام ہے، اہلحدیث اس قسم کی حرکتیں نہیں

ثابت کر دیں تو پھر آپ کو مقلدانہ اسی پیچ کے بغیر اسے مان لینا ضروری ہوگا،
ہے کچھ ٹھکانا اس حماقت کا، ان ٹیچر صاحب کو یہ کون بتلائے کہ فاضل صاحب کو تو حق ضرور ہے کہ وہ آپ پر آپ کی کتابوں سے حجت قائم کریں مگر آپ کو یہ حق نہ ہوگا کہ اپنی کتابوں سے ان فاضل صاحب پر حجت قائم کریں، جس کو یہ معمولی عام بات بھی معلوم نہ ہو اسے شوق ہوا ہے کہ کسی فاضل کے رد میں قلم چلائے اور ان سے بڑھ کر اصحاب عقل و خرد وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے مضمون کو اپنے پرچہ میں قسطوار بڑے شوق سے چھاپ رہے ہیں، اس مضمون کی دو قسط اب تک آچکی ہے[1]، اور اب تک اصل مضمون کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، صرف ضمنی چیزوں کا رد کیا جا رہا ہے، "طول مل" کی حماقت کا یہ پوری دو قسط اعلیٰ شاہ کا ہے، مولانا اسماعیل سلفی اور دوسرے غیر مقلدین کی عبارتوں سے فاضل حنفی کو الزام دیا جا رہا ہے۔

بریں عقل و دانش بباید گریست

اب قادیانیوں، آریہ سماجیوں، عیسائیوں کو کھلی چھوٹ مل گئی کہ وہ اپنی کتابوں سے اہل اسلام پر حجت قائم کریں، غیر مقلدوں کو اپنی اسی عقل اور اسی علم کے بوتے پر یہ شوق ہے کہ ہم تقلید نہیں کریں گے ہم خود مجتہد بنیں گے۔ ایک غیر مقلد کا یہ کلام ٹیچر صاحب نقل کرتے ہیں:

"جامد مقلدوں کا یہ کہنا کہ ہر مجتہد صواب پر ہے مردود اور صحیح دلیل سے دور ہے"

یہ کون کہتا ہے؟ بلکہ مقلد اور غیر مقلد سب صرف ایک بات کہتے ہیں کہ المجتہد یخطی ویصیب یعنی مجتہد کے کلام میں خطا اور صواب دونوں ہوتے ہیں اور پھر یہ کیا بے وقوفی کی بات ہے کہ اگر

marfat.com

(۱) ملاحظہ

کرتے ہیں، انگریزوں کے خلاف سارا فتنہ فساد مقلدوں (یعنی احناف) کا کام ہے وہی سرکار برطانیہ کے خلاف آمادہ پے کار ہیں، اس ضمن میں اپنی یہ رائے عالی ظاہر فرماتے ہیں:

جامد مقلد مذکورہ بات کہے تو مردود اور غیر جامد مقلد اگر وہی بات کہے تو نامردود آخر یہ کون سی منطق اور فلسفہ ہے ــــ ایک جگہ مولانا اسماعیل سلفی کا یہ کلام نقل کرتے ہیں

"فقہاء تقلید کو واجب سمجھتے ہیں اور یہ جو نہ مانے اسے کافر کہتے ہیں"

کس فقیہ نے تقلید کے واجب نہ کہنے والوں کو کافر کہا ہے بلا حوالہ بات کہنا ہوا میں فائر کرنا ہے اور اپنے علم کا مرتبہ پڑھوانا ہے ــــ ایک جگہ لکھتے ہیں:

"اہلحدیث کی نسبت تو حدیث رسول کی طرف ہے جب سے حدیث رسول موجود ہے اہلحدیث موجود ہیں"

ان عقل والوں سے کون الجھے، یہی بات تو اہل قرآن بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل قرآن کی نسبت تو قرآن کی طرف ہے جب سے قرآن موجود ہے اہل قرآن موجود ہیں، غیر مقلدوں کے پاس اس کا کیا جواب ہے، اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کا یہ غیر علمی اور مقلدانہ انداز اختیار کرنے پر بھی یہ لیکچر صاحب اسی خوش فہمی میں ہیں کہ ہم گنبد کی صدا لکھ کر بڑا فاضلانہ اور علمی کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ مجتہد صاحبوں کے کیا کہنے۔

دیوبندیوں کے بارے میں یہ صاحب ایک غیر مقلد کا یہ کلام بڑے فخر سے نقل کر کے دیوبندیوں پر اپنی دانست میں زبردست حجت قائم کرتے ہیں۔

"ہاں مگر دیوبندی ۱۸۵۷ء سے پہلے یقیناً موجود نہ تھے .... یہ فرقہ واقعۃً جدید ہے جس کی نسبت نہ خدا کی طرف نہ رسول کی طرف نہ قرآن کی طرف نہ حدیث کی طرف بلکہ ہندوستان کے ایک گاؤں کی طرف ہے"، دیکھا آپ نے کتنا فاضلانہ کلام ہے، قلم چوم لینے کو جی چاہتا ہے۔

marfat.com

"یہ بھی ظاہر ہے کہ اس قسم کی حرکات انھیں جاہلوں سے سرزد ہوتے ہیں جو اپنے دین کے علموں سے غافل اور اسلام کی خوبیوں سے جاہل ہیں اور اپنی شریعت سے کنارہ کر کے مقلد ایک مذہب کے ہو رہے ہیں یہ لوگ تقلید کے نشہ میں مست و مدہوش ہو کر نقد دین اپنا مفت کھوتے ہیں" صـ۲۴

اپنا چہرہ اگر تم کبھی دیکھتے

پھر کسی میں نہ کوئی کمی دیکھتے

اس بیان سے خوب واضح ہے کہ اہلحدیثوں اور غیر مقلدوں کے نزدیک

غیر مقلدوں کے مجدد نواب صاحب بھوپالی تھے، یہ بھوپال کون سا قرآن و حدیث ہے یا آخر کون سا خدا اور رسول ہے، عرب کی پاک سرزمین کا یہ کون سا مقدس شہر ہے؟ شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی تھے، حافظ عبد اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ غازی پوری تھے، مولانا عبد الرحمٰن مبارکپوری تھے، جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث الموی تھے، یہ دہلی، یہ غازی پور، یہ مبارکپور یہ الموخدا اور رسول اور قرآن و حدیث کی کون سی قسم ہے یا نجد و حجاز کے یہ کون سے شہر ہیں، اچھا یہ بتلائیے یہ امام بخاری جو بخاری کہلاتے ہیں تو یہ بخاریٰ کون سا خدا اور رسول ہے، کہاں کا قرآن و حدیث ہے، بخاریٰ حجاز کا کون سا شہر ہے۔؟

گنبد کی صدا کے عنوان سے ابتک جو دو قسط آئی ہے اسی قسم کی بکواس سے بھرپور ہے اور حنفی فاضل مضمون نگار پر غیر مقلدوں کی کتابوں سے حجت قائم کرنے کی بے وقوفی کا تجزیہ کیا گیا ہے، جو بالکل نیا جدید مناظرانہ اصول ہے، ماہر القادری یاد آ گئے فرماتے ہیں:

باطل جو صداقت سے الجھتا ہے تو الجھے

ذروں سے یہ خورشید چھپا ہے نہ چھپے گا

آئندہ قسطوں میں یہ صاحب اور کیا گل کھلانے والے ہیں خدا ہی بہتر جانے مگر دیگ کے چاول کے ان ہی چند دانوں سے پوری دیگ کا اندازہ لگ رہا ہے اور جب ان بکواسوں کا کوئی

marfat.com

سرکار برطانیہ کی مخالفت قطعاً حرام تھی اور برٹش گورنمنٹ اور سامراجی نظام و حکومت کے خلاف آواز بلند کرنا اپنا نقد دین کھونا تھا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک طرف اہلحدیث جماعت انگریزوں سے عہد وفاداری استوار کئے ہوئے تھی اور برٹش گورنمنٹ کی کاسہ لیسی اپنا ملی و وطنی و مذہبی شعار بنائے ہوئے تھی تو دوسری طرف مقلدین یعنی احناف انگریزوں کے خلاف تحریک جہاد برپا کئے ہوئے تھے جس سے انکی نیند حرام تھی۔

(۴۵) انگریزوں کے خلاف تحریک جہاد احناف نے برپا کیا تھا

نواب صاحب بھوپالی کا اعتراف

غیر مقلدین ہمیشہ سے خیر خواہان سرکار برطانیہ تھے، گورنمنٹ برطانیہ کے خلاف تحریک آزادی اور استخلاص وطن کی جنگ لڑنے والے صرف مقلدین یعنی احناف تھے، اس بات کو درج ذیل عبارت میں خاں صاحب بڑی وضاحت سے فرماتے ہیں:

"کسی نے نہ سنا ہوگا کہ آج تک کوئی موحد متبع سنت حدیث و قرآن پر چلنے والا بیوفائی اور اقرار توڑنے کا مرتکب ہوا جتنے لوگوں نے غدر میں شر و فساد کیا اور حکام انگلشیہ سے برسر عناد ہوئے وہ سب کے سب مقلدان مذہب حنفی تھے" صہ ۲۵

چٹکیاں لیتی ہے فطرت چیخ اٹھتا ہے ضمیر
کوئی کتنا ہی حقیقت سے گریزاں کیوں نہ ہو

جواب نہ دے تو یہ غیر مقلدین بغلیں بجا کر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے شاہکار مضمون کا جواب نہیں ہو سکا ہر بوالہوس کو یہی شوق ہوتا ہے کہ اہل علم اسکی بکواسی غیر علمی تحریر کا ضرور جواب دیں۔

marfat.com

یہ ہے غیر مقلدوں کے امام و مجدد کی وہ تاریخی شہادت جس پر پردہ ڈالنے کے لئے غیر مقلدین نے نواب صاحب کی اس کتاب ہی کو غائب کر دیا تھا ہندو پاک کے کتب خانوں میں تلاش کرنے سے بھی یہ کتاب نہیں ملتی۔ غیر مقلدین کے قدیم مدارس میں ممکن ہے کہ اس کا پرانا نسخہ ہو مگر وہ کسی کو دکھاتے نہیں اور وہ ایسا کرنے پر مجبور ہیں اس لئے کہ اس کتاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار برطانیہ کے زیر سایہ اور برٹش گورنمنٹ کی حمایت میں ان غیر مقلدین کی جماعت کی کیا ریشہ دوانیاں تھیں، ان کے کیا کارنامے تھے، ان کے سیاہ کرتوت کی شکل کتنی گھناؤنی تھی۔ وہ مجاہدین جنگ حریت کو کس نام سے یاد کرتے تھے ان کے نزدیک انگریزوں سے جنگ کرنیوالے نہ موحد تھے نہ صاحب ایمان تھے نہ دین و شریعت کے متبع تھے، نہ اسلام کی تعلیمات سے واقف کار تھے۔ بلکہ سب کے سب ایک مذہب خاص کی پیروی کرنے والے مقلدان مذہب حنفی تھے۔

اس لئے غیر مقلدین نے باہم مشورہ کرکے اس کتاب کو عوام کے ہاتھوں سے اس آزاد ہندوستان میں دور کر دیا تاکہ ان کی عزت و آبرو کا بر سر عام نیلام نہ ہو۔ اور یہ دوسروں کو فریب اور دھوکا دینے کیلئے۔ جنگ آزادی میں اہلحدیث علماء کا حصہ۔ نامی جیسی کتابیں لکھا کریں اور اپنی اس جماعت کو جو ہمیشہ سے انگریزوں کی کاسہ لیسی کرتی رہی جنگ آزادی کا عظیم سپوت ثابت کریں۔

ان بیچاروں کو کیا معلوم مکر و فریب کی زندگی بڑی خطرناک ہوتی ہے اور یہ زندگی صرف چند روز ہوتی ہے، تاریخ اپنے کو منوالیتی ہے، حقائق پر زیادہ دنوں تک پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔

حقیقت خود کو منوالیتی ہے مانی نہیں جاتی

ان مجاہدین آزادی کو غیر مقلدین کے اکابر جو جا ہیں کہہ لیں اپنے اپنے معیار نظر کی بات ہے، احناف اور مقلدین کو جتنی چاہیں گالیاں دے لیں یہ بھی اپنے اپنے

marfat.com

ظرف اور حوصلہ کی بات ہے، مگر ان گالیوں طعنہ زنیوں کے بیچ سے بہر حال یہ حقیقت چمک چمک کر ابھر رہی ہے کہ غیر مقلدین کو آزادی کی زندگی سے غلامی کی زندگی زیادہ پسند تھی۔ اسی وجہ سے وہ مجاہدین وطن کے خلاف انگریزوں کا پر اعتماد ذریعہ بنے ہوئے تھے، یہ بھی اپنے اپنے ضمیر کی بات ہے۔

ہم نے ہر شخص کا معیار نظر دیکھ لیا

علامہ اقبال بڑے حکیم و دانا تھے کیا خوب فرما گئے:

میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو

نہیں ہے بندہ حر کیلئے جہاں میں فراغ

(۴۶) مذہبِ حنفیہ ایک بڑی بلا ہے

خاں صاحب فرماتے ہیں سرکار انگریزی کے غدار احناف تھے اور یہ حنفی مذہب بڑی بلا ہے، خاں صاحب کے الفاظ حنفی مذہب کے بارے میں یہ ہیں:

۔ مذہب حنفیہ یا مذہب بین بین ایک بڑی بلا ہے۔ ص ۲۹

حنفی مذہب کے خلاف خاں صاحب مرحوم زندگی بھر برٹش گورنمنٹ کو اسی طرح کی باتیں لکھ کر بھڑکاتے رہے اور اپنی وفاداری کا انگریزوں کو یقین دلاتے رہے، حنفی مذہب عام طور پر بلا ہو کہ نہ ہو مگر غیر مقلدین کیلئے واقعۃً ایک بلا تو ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اس بلا کو ختم کر دیں مگر

یہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

دنیا کا دو تہائی مسلمان اس بلا میں گرفتار ہے۔ اور بیشتر ممالک مسلمہ میں مذہب حنفی رائج ہے آخر غیر مقلدین اس بلا سے چھٹکارا حاصل کر بھی کیسے پائیں گے۔

بس اسی پر ہے یہ ہم زمانہ عزیز اسکی تصویر اسکو دکھا دی گئی

marfat.com

(۴۷) غیر مقلدین سب مذہبوں سے آزاد ہیں

خاں صاحب بھوپالی غیر مقلدین کے مجدد فرماتے ہیں:

"ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم سب مذہبوں سے آزاد ہیں" ص۳۰

جی ہاں ہم مقلدین بھی غیر مقلدین کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں مگر

ضمیر بیچ کے مل جائے دولت کونین
تو اس زوال کو للہ ارتقا نہ کہو

(۴۸) غیر مقلدوں کی آزادگی مذہب وہی ہے جو انگریزی سرکار کی مرضی تھی

نواب صاحب بھوپالی مرحوم کی یہ تاریخی شہادت بھی ناظرین نوٹ کرلیں۔ فرماتے ہیں:

یہ لوگ (یعنی اہلحدیث) اپنے دین میں وہی آزادگی برتتے ہیں جس کا اشتہار بار بار انگریزی سرکار سے جاری ہوا خصوصاً دربار دہلی میں جو سب درباروں کا سردار ہے۔ ص۳۲

ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ ان نام کے اہلحدیثوں کا وجود جو آج اپنا رشتہ زبردستی اور نہایت بے حیائی سے کتاب وسنت سے جوڑ رہے ہیں اور اپنے وجود کی تاریخ تیرہ سو برس سے بتلا رہے ہیں، ہندوستان میں کس طرح ہوا۔

میں نے اپنے ایک مضمون کے حاشیہ میں ایک جگہ لکھدیا اور اسی کتاب ترجمان وہابیہ کے حوالہ سے لکھا:

حقیقت میں انگریزوں نے ہندوستان کے عام مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے اور پھوٹ ڈالنے اور انگریزوں کے خلاف انکی

جد وجہد اور طاقت کمزور کرنے کیلئے اس فرقہ کو کھڑا کیا۔
(الماثر شمارہ نمبر ۳ ۱۹۹۶ء)

تو غیر مقلدین کی جماعت آپے سے باہر ہو گئی، یہی بات اگر ان کے مجدد نواب صاحب بھوپالی لکھیں تو یہ اس کو پی جائیں اور گوارا کر لیں اور اگر یہی بات نواب صاحب نور اللہ مرقدہ کے حوالہ سے کوئی دوسرا کہہ دے تو غیر مقلدوں کی جماعت آسمان سر پر اٹھالے، آخر یہ دورخا پن کیوں؟

بہتر ہے کہ غیر مقلدین اپنے وجود کی تاریخ کی جو حقیقت ہے اسکو تسلیم کرلیں تاکہ مزید رسوائی نہ ہو۔

وہ جن کے جسم پہ چہرے بدلتے رہتے ہیں
انھیں بھی ضد ہے کہ انکا بھی احترام کروں

(۴۹) غیر مقلدین سرکار برطانیہ کی موافقت والے رسائل وفتاویٰ حاصل کر کے شائع کرتے تھے

انگریزی دور میں غیر مقلدوں سے ایک بڑا کارنامہ جو انگریزی گورنمنٹ کے نزدیک ان کی خیر خواہی گورنمنٹ کا شاہد عدل ہوا کرتا تھا اور جس کو وہ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتی تھی اور غیر مقلدین کا طبقہ بھی اس کا حوالہ دے دے کر گورنمنٹ سے بڑے بڑے فائدے اٹھاتا تھا یہ تھا کہ گورنمنٹ کے اشارے پہ بعض زر خرید لوگ گورنمنٹ کی حمایت میں فتویٰ دیا کرتے تھے اور رسالے لکھا کرتے تھے اس میں زیادہ تر یہی اہلحدیث لوگ تھے ان فتاویٰ ورسائل کو یہ غیر مقلدین کی جماعت اور ان کے اکابر عوام میں پھیلایا کرتے تھے اور اس طرح وہ عوام کو مجاہدین حریت سے کاٹنے کی ناپاک کوشش کرتے تھے

نقد ایمان کا خوب سودا کیا ∴ دین بیچا کئے تاجروں کی طرح

marfat.com

کلکتہ کے ایک مجسٹریٹ صاحب تھے انھوں نے سرکار انگریزی کی موافقت میں کچھ فتاویٰ جمع کئے تھے، ان فتاویٰ میں یہ بات بطور خاص تھی:

"کل مسلمانوں کو سرکار کی مخالفت ناجائز ہے اور کسی شخص کو حیثیت موجودہ پر ہندوستان کے دارالاسلام ہونے میں شک نہ رہے"

یہ فتاویٰ ایک رسالہ کی صورت میں انھوں نے سرکار برطانیہ کے اشارے پر طبع کراکر شایع کیا تھا، نواب صاحب بھوپالی نے بھی اس رسالہ کو بطور خاص منگواکر ملک میں بڑی تعداد میں شائع کرکے پھیلایا۔ نواب صاحب کے اس کارنامے کی نمک خواران برطانیہ نے بڑی سراہنا کی تھی، چنانچہ اسی کتاب ترجمان وہابیہ میں اپنی اور اپنی جماعت غیر مقلدین کی اطاعت گزاری سرکار برطانیہ سے وفاداری اور نظام سرکار انگریزی کی بقا میں خیر خواہانہ جد وجہد کے ثبوت کے طور پر ان فتاویٰ والے رسالہ کی اشاعت پر جو جماعت غیر مقلدین اور نواب بھوپالی کی سراہنا ہوئی تھی۔ خانصاحب نے اس سراہنا کو بطور خاص نقل کیا ہے۔ وہ سراہنا یہ ہے:

"ہمارے بھوپال میں جناب مستطاب معلی القاب فاضل اجل عالم اکمل محدث باکمال مفسر بے مثال حضرت نواب والاجاہ امیر الملک سید محمد صدیق حسن خاں بہادر دام اقبالہٗ نے اس رسالہ کو پسند فرماکر حکم دیا کہ اسکو اچھی طرح شائع کریں اور حضور موصوف نے خود بھی اس مسئلہ کو نہایت تحقیق و احتیاط اپنی کئی کتابوں میں بصراحت تمام تحریر فرمایا ہے جس میں حیثیت موجودہ پر سرکار انگریزی کی مخالفت کو قطعاً ناجائز لکھا ہے، اور جن علمائے متقدم نے مثل شاہ عبدالعزیز صاحب وغیرہ کے بتاویلات دیگر اس کے خلاف اپنا مسلک اختیار کیا ہے ان تاویلات کو نہایت عمدگی سے علٰحدہ کیا ہے" ص۴

marfat.com

یہ عبارت چیخ چیخ کر بول رہی ہے کہ سرکار برطانیہ میں غیر مقلدین کا کیا کردار رہا ہے۔

اپنی زباں تو بند ہے تم خود ہی سوچ لو
پڑتا نہیں ہے یوں ہی ستمگر کسی کا نام

جس سرکار برطانیہ کے خلاف مجاہدین نعرۂ حق بلند کر رہے تھے علماء ربانیین کا گروہ کا گروہ سر پر کفن باندھے اس سے پنجہ آزمائی کر رہا تھا گولیاں کھا رہا تھا، تختہ دار پر لٹک رہا تھا، کالا پانی بھیجا جا رہا تھا اور دین وملت کی آبرو کیلئے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہا تھا اور سرفروشان راہِ حق زبان حال سے یہ کہہ کر

آپ کیا پوچھتے ہیں قیمت خودداریٔ دل
ساری دنیا کی بھی دولت مجھے منظور نہیں

سامراجی استبداد کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر رہے تھے، غیر مقلدین ان راہِ حق کے پروانوں کے خلاف فتوے شائع کر رہے تھے، اور ان کے بڑے ان مجاہدین کے جہاد کو ناجائز اور حرام بتلا رہے تھے، اور اپنے ضمیر کا محض دنیا کی چند روزہ عافیت کی زندگی کی خاطر سودا کر رہے تھے

ذروں کے جگر چیرے تاروں کے نقاب الٹے
خود اپنی ہی حقیقت کو نادان نہ پہچانے

اور آج کا ۔ طائفہ غیر مقلدہ ۔ بڑی ڈھٹائی اور شرم وحیا کو بالائے طاق رکھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وطن عزیز کو برطانوی سامراج کے پنجگل سے چھڑانے کیلئے اس کی جماعت کا بڑا ہاتھ رہا ہے، جن کے اکابر کی انگریزوں کے تلوے چاٹتے عمر بیت گئی آج انھیں اکابر کو جنگ آزادی کا سب سے بڑا سپاہی بنا کر اور انگریزوں کا سب سے بڑا دشمن بتا کر آزاد ہند کے آج کے سماج میں

marfat.com

غیر مقلدین کا یہ طائفہ اپنا بھی ایک مقام بنانا چاہتا ہے۔

رہنمائی کا تمہیں شوق مبارک لیکن
تم چلے بھی ہو کسی راہ میں دو گام کہیں؟

(۵۰) غیر مقلدین خالص اہلسنت والجماعت ہیں

نواب صاحب بھوپالی فرماتے ہیں:

سارے جہاں کے مسلمان دو طرح پر ہیں ایک خالص اہلسنت وجماعت جن کو اہل حدیث کہتے ہیں، دوسرے مقلد، وہ چار گروہ ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ ص۵۲

واہ کیا کہنے ہیں آپ کے خالص اہل سنت وجماعت ہونے کے، آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کا قول وعمل حجت نہیں، اور آپ خالص اہل سنت وجماعت ہیں، آپ اجماع کا انکار کرتے ہیں، اور آپ خالص اہلسنت وجماعت ہیں، آپ بہت سے مسائل میں شیعوں کے معتقدات کے ہم نوا ہیں، اور آپ خالص اہل سنت وجماعت ہیں، آپ آنحضورؐ کی قبر کی زیارت کیلئے سفر کرنے کو حرام کہتے ہیں اور آپ خالص اہلسنت وجماعت ہیں، آپ ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک کہتے ہو اور آپ خالص اہلسنت وجماعت ہیں آپ استعانت بغیر اللہ کرتے ہیں

ابن قیم مدد ے　　　　قاضی شوکاں مدد ے

کا ورد کرتے ہیں اور آپ خالص اہلسنت وجماعت ہیں، آپ سلف امت کی توہین کرتے ہیں اور آپ خالص اہل سنت وجماعت ہیں۔

واہ رے آپ کا خالص اہلسنت وجماعت ہونا۔

قفس کو آشیاں کہہ دیں اگر لوگ
بدل جائے گا مفہوم قفس کیا؟

marfat.com

امت مسلمہ اور جمہور اہل اسلام کی شان میں یہ گستاخی کہ انکو آپ لے خالص اہلسنت وجماعت سے نکالدیا اور پھر بھی آپ خالص اہل سنت وجماعت ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب پر ایک طرف سے ہاتھ صاف اور آپ خالص اہل سنت وجماعت ہیں۔

منہ کے میٹھے، دل کے کھوٹے، جان کے وہ دشمن نکلے
اس دنیا میں جنکو ہم نے سمجھا تھا غمخوار بہت

اگر غیر مقلدین کو یہی ہوس ہے تو چلئے یہی سہی

میں نے ہر غم کو کر لیا ہے قبول
آپ کی ہر خوشی گوارہ ہے

مگر اتنا عرض کروں گا اور یہ مخلصانہ عرض ہے کہ اگر غیر مقلدین کو یہی شوق ہے کہ وہ خالص اہلسنت وجماعت رہیں تو صحابہ کرام کے بارے میں وہ اپنا عقید درست کرلیں، اولیاء اللہ کے بارے میں وہ اپنی زبان ٹھیک کریں، ائمہ دین کے بارے میں وہ بدزبانی نہ کریں مجتہدین امت کو وہ گالی دینا چھوڑ دیں غازیان اسلام پر وہ تہمت تراشی نہ کریں اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اسلاف امت کی تفسیر وبیان کی روشنی میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا شیوہ اپنائیں، جس آیت قرآنی کی جس طرح چاہا تفسیر کرڈالا اور جو چاہا اس کا مطلب بیان کردیا۔ جس آیت وحدیث کو چاہا لے لیا اور جس کو چاہا محض اتباع آباء واجداد اور اتباع ہوی میں چھوڑ دیا، یہ کسی اہلسنت وجماعت کا کام نہیں چہ جائیکہ وہ خالص اہل سنت وجماعت ہونے کی ہوس رکھتا ہو۔

جانچنے اور پرکھنے والے تو آپ کو آپ کی عملی زندگی سے جانچیں گے اور پرکھیں گے کہ آپ خالص اہلسنت وجماعت ہیں کہ خالص اہل بدعت۔ اپنا عمل

marfat.com

درست کر لو، اپنا عقیدہ درست کر لو اور پھر دیکھو کہ ہم تم کو خالص اہل سنت و جماعت تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں۔ ہائے

ہائے ناراض ہو گئے کتنے
ایک ذرا آئینہ دکھانے سے

حاشیہ صفحہ ۹۸

(۱) اب جبکہ میں اپنی اس کتاب کی کتابت شدہ کاپیوں پر نظر ڈال رہا ہوں اس مضمون گنبد کی صدا کی دس قسط آ چکی ہے مگر کمال یہ ہے کہ اصل مضمون کا رد صاحب گنبد کی صدا سے نہیں ہو پا رہا ہے، اور جب سے میری کتاب "مسائل غیر مقلدین" منظر عام پر آئی ہے جس طرح تمام جماعت اہلحدیث میں گھبراہٹ طاری ہو گئی ہے، گنبد کی صدا والے صاحب کا بھی قلم تھرا گیا ہے، اور بعد کی قسطوں سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ "آمد" ختم ہو چکی ہے اور اب صرف "آورد" ہے۔ ہائے غیر مقلدین کی بیچارگی و درماندگی۔

marfat.com

کتاب لکھنا دینی عمل نہیں ہے

ایک بڑے جامعہ کے ایک بڑے قابل صاحب فرماتے ہیں :

" کتاب لکھنا کوئی دینی عمل نہیں ہے جسے حلال و حرام کے پیمانے سے ناپا جائے " (محدث اگست ۹۶ء)

اچھا یہ نئی بات معلوم ہوئی ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری، امام مسلم اور دیگر محدثین و نقہاء نے جو کتابیں لکھی ہیں ، وہ سب بے دینی کا کام تھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم اور شوکانی کی کتابیں سب بے دینی عمل سے وجود میں آئی ہیں ، شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ مولانا میاں صاحب نواب صاحب بھوپالی حافظ عبداللہ صاحب محدث غازی پوری مولانا عبدالرحمن صاحب مبارکپوری شیخ ابن باز وغیرہ نے جو کتابیں لکھی ہیں انھوں نے دینداری کا کام نہیں بے دینی کا کام کیا ہے ، اور غیر مقلدین کے مدارس و معاہد میں جو دارالتالیف والتصنیف قائم ہے ان کا تعلق دینداری سے نہیں ہے نہ دینی و شرعی عمل سے ہے ۔

اور جب کتاب لکھنا دینی عمل نہیں ہوگا اور اس کو حلال و حرام کے پیمانہ سے نہیں ناپا جائے گا تو جو اس وقت دنیا میں فحش لٹریچر کا سیلاب پھیلا ہوا ہے نہ اس کو حرام و حلال کے پیمانہ سے ناپا جائے گا اور نہ اس کو بے دینی کا کام شمار کیا جائیگا ۔ بلا وجہ دنیا میں سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کے خلاف مسلمانوں نے شور مچا رکھا ہے ، ان دونوں نے کتاب لکھ کر نہ دینداری کا کام کیا ہے اور نہ بے دینی کا اور نہ حلال کا ارتکاب کیا ہے اور نہ حرام کا ، جو لوگ ان دونوں کے کاموں کو حلال و حرام کے پیمانہ سے ناپ رہے ہیں وہ بقول ان قابل صاحب کے جھک مار رہے ہیں ۔

این قدر ہ تو ان قابل صاحب کی عقل ہے اور دعوی کریں گے

جتنہ بنے گا۔ امام ابوحنیفہ کی تقلید نہیں کریں گے۔ امام مالک کی تقلید
نہیں کریں گے۔ امام شافعی کی تقلید بھی حرام ہوگی اور امام احمد کی تقلید
سے بھی دور رہیں گے۔ اس علم و عقل کے ساتھ داد دے ہم کو فرزند
اور جتنہ کا پندار اور کتاب و سنت کو خود سمجھنے کا دعویٰ۔

لتے ہیں۔ یہ حقیقت کہ اتنا تو معلوم
کم عقل ہے۔ کم علم ہے کم فہم ہے

marfat.com

۷

اس دور میں جہاد نہیں ہو سکتا

اللہ کے رسول صلے اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہاد قیامت تک کے لئے ہے، جب کبھی بھی باطل طاقتیں اسلام پر حملہ آور ہوں گی مسلمانوں کو ان طاقتوں سے جہاد کرنا ہے، سارے مسلمان کا اس پر اتفاق ہے، تمام اہل سنت وجماعت کا یہی عقیدہ ہے، یہ ایک ایسی واضح اور روشن حقیقت ہے کہ کسی مسلمان کو اس میں تردد و شک نہیں، اور آج تک مسلمانوں نے اپنے اسی عقیدہ پر عمل کیا ہے اور تاریخ عالم میں انھوں نے اپنے مجاہدانہ کارناموں کے تابندہ نقوش چھوڑے ہیں۔

مگر واہ رے غیر مقلدین کی جماعت جو خالص اہل سنت وجماعت ہے اس جماعت نے اپنی دیرینہ عادت کے مطابق اس مسئلہ میں بھی اسلاف امت کے عقیدہ مسلک سے الگ اپنا عقیدہ و مسلک بنایا، اور نہایت بے غیرتی وبے حیائی سے اپنا دین وایمان انگریزوں کے ہاتھ گروی رکھ کر اس کے اکابر نے اس زمانہ میں جہاد کی منسوخی کا اعلان کر دیا اور اس کیلئے بہانہ یہ بنایا کہ اس زمانہ میں کیا بلکہ صدیوں سے جہاد کیلئے جو شرائط ہیں وہ مفقود ہیں خاص طور سے امام وحاکم کا قریشی ہونا اس وجہ سے جہاد کا حکم اس وقت منسوخ ہے، اور جن لوگوں نے انگریزوں سے جہاد کیا تھا انھوں نے حرام کا ارتکاب کیا تھا۔

چنانچہ اس سے پہلے اسی کتاب میں آپ معلوم کر چکے ہیں کہ اہلحدیثوں کے بہت بڑے عالم مولانا محمد حسین بٹالوی نے خاص اسی منسوخی جہاد کے مسئلہ میں بایمائے سرکار برطانیہ ایک مستقل رسالہ ہی "الاقتصاد" کے نام سے تحریر فرمایا تھا اب سنئے نواب صدیق حسن خاں صاحب بھوپالی نور اللہ مرقدہ اس سلسلہ میں کیا فرماتے ہیں، مولانا محمد حسین بٹالوی کے مقابلہ میں نواب صاحب کا فرمان زیادہ اہمیت اور زیادہ قیمت رکھتا ہے اسلئے کہ وہ جماعت غیر مقلدین میں مجددیت

marfat.com

کے عہدہ پر سرفراز تھے، نواب صاحب شرائط جہاد کیا ہیں انکو ذکر کرکے فرماتے ہیں:

سواں صفات کا امام سیکڑوں برس سے دنیا میں مفقود ہے، الا وہ شرائط بالکل معدوم۔ ص۵

اور پھر نواب صاحب اس پر یہ نتیجہ متفرع کرتے ہیں:

غدر میں جو لوگ سرکار انگریزی سے لڑے اور عہد شکنی کی، وہ جہاد نہ تھا فساد تھا۔ ص۵

اور یہ بھی نواب صاحب نوراللہ مرقدہٗ فرماتے ہیں:

یہ بغاوت جو ہندوستان میں بزمانہ غدر ہوئی اس کا نام جہاد رکھنا ان لوگوں کا کام ہے جو اصل دین اسلام سے آگاہ نہیں۔ ص۵

ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں
تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں

اسلام کے اس شعار اعظم "جہاد" کے بارے میں دیکھا آپ نے غیر مقلدوں کے اکابر و اعاظم کا عقیدہ و مسلک کیا رہا ہے، اگر ان اکابر کی یہ بات تسلیم کر لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلفائے راشدین کے بعد کی جتنی جنگیں کفار اقوام سے مسلمانوں نے کیں ان میں کی کوئی ایک جنگ بھی شرعی جہاد نہ تھی بلکہ مسلمانوں نے بلاوجہ غیر مقلدوں کے الفاظ میں "مفسدہ" برپا کر کے اپنی گردنیں ایک غیر شرعی و غیر دینی کام میں کٹواتے رہے، وہ جنگیں جن کو صلیبی جنگ کہا جاتا ہے، اور جن جنگوں میں صلاح الدین ایوبی جیسے سلاطین اسلام نے پرچم جہاد بلند کر کے عیسائیوں کے چھکے چھڑا دیئے اور بیت المقدس کی بازیابی کا کارنامہ انجام دیا، جن جنگوں میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور عز بن عبدالسلام جیسے اسلامی علوم و فنون کے بحر ناپیدا کنارون نے داد شجاعت دی، غیر مقلدین کے عقیدہ و مسلک اور ان کی دینی سمجھ بوجھ کے مطابق ان تمام مجاہدین اسلام اور علمائے اسلام کا کفار سے محاربہ و مقاتلہ شرعی جہاد نہ تھا، اور

marfat.com

اسلام کی خلفائے راشدین کے بعد کی پوری تاریخ میں نہ کوئی مجاہد ہوا اور نہ کسی نے شہادت کا مقام بلند حاصل کیا ہے۔

یہ ہے غیر مقلدوں کا دین، ان کا مذہب، ان کا عقیدہ ان کا ایمان انکی حمیت دینی وغیرتِ اسلامی اور یہ ہے تاریخ اسلام کے بارے میں انکا نظریہ۔

ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کا نہیں نایاب ہیں ہم

میں جب غیر مقلدین حضرات کے بڑے بڑے دعووں کو ان کی کتابوں میں پڑھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ وہ لوگ جن کا حال یہ ہے کہ

نہ معرفت نہ بصیرت نہ عصمتِ کردار

آخر ان میں کتنی جرأت وہمت ہے کہ وہ اتنے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں، کیا انھوں نے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ وہ کیا ہیں، میرا اپنا تجربہ ہے کہ جو لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ہی لمبے چوڑے دعوے زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ غیر مقلدین کو شروع سے یہ احساس ہے کہ ان کا تعلق مسلمان فرقوں سے اور مسلمان فرقوں کا تعلق غیر مقلدین فرقہ سے بیگانگی اور اجنبیت کا رہا ہے مسلمانوں کے جمہور نے کبھی غیر مقلدین کو دل سے قبول نہیں کیا اور یہ فرقہ ہمیشہ سے مسلمان فرقوں سے الگ کٹ کر زندگی بسر کرتا رہا ہے، اسکی وجہ سے ان غیر مقلدوں میں زبردست احساس کمتری پیدا ہو گیا، اب اس احساس کو ختم کرنے کے لئے جب ذرا سعودی عرب کے نجدیوں وشیوخ کے طفیل ان کا معیار معیشت بلند ہوا تو ان کی زبانوں پر بلند دعوے آنے شروع ہوئے، اور اپنے بسیر طاقت ہونے کا احساس ان میں جاگا۔

مگر کیا محض ان دعووں کی بنیاد پر مسلمان ان کو قبول کر لیں گے، مجھے اس کا یقین نہیں، اسلئے کہ اصل مسئلہ عقیدہ ومذہب کا ہے، جب تک کہ یہ غیر مقلدین اپنا عقیدہ اور مسلک درست نہیں کریں گے، صحابہ کرام اور اسلاف امت کے

marfat.com

بارے میں ان کا ذہن صاف نہ ہوگا اور جب تک یہ جمہور اہل اسلام کو گالیاں دیتے رہیں گے مسلمانوں میں ان کو عمومی مقبولیت حاصل نہیں ہو سکتی، سعودیوں کی دولت ان کا معیار معیشت اور معیار زندگی تو بلند کر سکتی ہے مگر ان کو مسلمانوں میں عزت کا مقام نہیں دلا سکتی۔

نیت بد ہے تو کار نیک سے حاصل ہے کیا
جاگتے ہیں دزد بھی مثل نگہباں رات بھر

جہاد کرنے والے بادشاہ محدث نہ تھے

غیر مقلدین کے اکابر گورنمنٹ برطانیہ کی رضا جوئی میں اور ان کو خوش کرنے کی خاطر قعر مذلت کی کس انتہا کو پہونچ چکے تھے اس کا اندازہ نواب صاحب بھوپالی کے اس بیان سے لگائیے فرماتے ہیں:

"جو بادشاہان اسلام اپنے مخالفوں سے مل کر لڑائی کرتے تھے وہ محدث (اس کا ترجمہ غیر مقلدین اور نواب صاحب کے نزدیک اہلحدیث ہے) نہ تھے بلکہ مقید کسی ایک خاص مذہب کے تھے"۔ ص۵۵

گورنمنٹ برطانیہ کو مقلدین کے خلاف بھڑکانے کا مکروہ ترین انداز، سفلی طریقہ، ناظرین کرام اندازہ لگائیں کہ غیر مقلدین کی تاریخ کتنی سیاہ ہے۔

دل صاف ہو تو زہر اگلتی نہیں زباں
روشن چراغ سے کبھی اٹھتا نہیں دھواں

مقلدین تو گورنمنٹ برطانیہ کے عتاب کا شکار ہو ہی رہے تھے، مگر مقلدوں کے خلاف جذبہ انتقام میں مزید شدت پیدا کرنے کے لئے اور جلتی آگ میں تیل ڈالنے کی خاطر گورنمنٹ برطانیہ کو مسلمانوں کی پرانی تاریخ یاد دلانے

marfat.com

کا فریضہ " اہلحدیث " اکابر نہایت خلوص کے ساتھ انجام دے رہے تھے ،

ان غیر مقلدوں اور خالص " اہل سنت و جماعت " لوگوں کو معلوم نہیں کہ مقلدین کا کردار کبھی یہ نہیں رہا ۔

دل کسی کے لئے سر کسی کے لئے

یہ زندگی غیر مقلدوں ہی کو مبارک ، مقلدین نے بلاشبہ اسلام کے خلاف جب بھی باطل کھڑا ہوا ، اس کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنا سینہ آگے کر دیا اور اس کے چھکے چھڑا دیئے ، انگریزی سامراج میں بھی مقلدین کا یہی رول اور یہی کردار رہا اور آج ہندوستان کی تاریخ کا ورق ورق اسکا گواہ ہے اور غیر مقلدین کی مجاہدین مقلدین کے خلاف کوئی سازش بھی ان کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہ کر سکی نہ ان کے عزم جہاد کو ٹھنڈا کیا نہ انھوں نے اپنے وقار جنوں پر کبھی کوئی حرف آنے دیا مقلدین کو حق ہے کہ کہیں اور فخر سے کہیں ؎

درکار ہوگی جب بھی کردار کی بلندی
ڈھونڈیں گے نقش ہستی اہل نظر ہمارا

گورنمنٹ برطانیہ کے سامنے غیر مقلدین کی سپردگی

خاں صاحب بھوپالی مرحوم گورنمنٹ برطانیہ کو بار بار اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ اہلحدیث

" کے دین میں حکومت حاصل کرنے کی فکر کرنا . . . . . سخت گناہ اور حرام ہے ۔ صفحہ ۵

حصول حکومت کی فکر کرنے کو اور زمین میں فساد ڈالنے کو ہم لوگ سخت گناہ جانتے ہیں ۔ صفحہ ۵

کوئی فرقہ زیادہ تر خیر خواہ اور طالب امن و امان و آسائش رعایا کا اور قدر شناس بندوبست گورنمنٹ کا اس گروہ (غیر مقلدین) سے نہیں ہے جو اپنے کو اہل سنت و حدیث کہتا ہے اور کسی مذہب خاص کا مقلد نہیں ہے۔ صث۵

ڈوب جانا تو کوئی بات نہیں ہے لیکن
باعثِ شرم ہے طوفاں سے ہراساں ہونا

اور

ذہنیت کے غلام اے راہی
سب سے بڑھ کر غلام ہوتے ہیں

اور جگر مرادآبادی کا یہ شعر بھی

روشِ دہر کا ہر نقش پکارے گا مجھے
یہ نہ سمجھو کہ مجھی تک میرا افسانہ ہے

اور اب میں نواب صاحب کی ترجمان وہابیہ سے سردست رخصت لیتا ہوں اگر میرے بھائی غیر مقلدین حضرات مناسب سمجھیں شاعر مشرق علامہ اقبال کے اس شعر پر غور کریں

یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی
یا بندۂ خدا بن یا بندۂ زمانہ

آپ کے سامنے ترجمان وہابیہ اور الاقتصاد کے یہ تمام بیانات ہیں ان کو ملاحظہ ایک بار اور کرلیں، اس کے بعد ذرا ایک غیر مقلد صاحب کا یہ بیان بھی پڑھ لیجئے۔

"چونکہ برصغیر میں انگریزوں کے خلاف جہاد کے تعلق سے جماعت اہلحدیث کی تاریخ بے حد روشن اور قابل فخر ہے۔" (محدث بنارس جولائی ۱۹۹۶ء)

marfat.com

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد
جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

یہ قابل فخر اور بے حد روشن تاریخ غیر مقلدوں کو مبارک ہو

دیوبندی مداہن ہیں

مولانا محمد اسماعیل سلفی وزیر آبادی فرماتے ہیں :

"قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ آج کے دیوبندیوں کی طرح مداہن نہیں تھے، آج دیوبند کے بعض بعض بڑے علماء کا میلان بریلویت کی طرف زیادہ ہے۔ انکی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بریلوی جماعت کو خوش رکھیں انکی بریلویوں کو خوش رکھنے کی خواہش اہل توحید اور اصحاب سنت کو خوش رکھنے کی خواہش سے زیادہ ہے۔ (الانطلاق الفکری ص ۱۲۴)

میں کیا عرض کروں کہ مولانا اسماعیل سلفی بیچارے کو شاید دیوبند اور علمائے دیوبند کی تاریخ معلوم نہیں، علمائے دیوبند نے ہمیشہ باطل فرقوں کا اپنی پوری طاقت اور اپنے پورے ذرائع اور وسائل سے مقابلہ کیا ہے، قادیانیت کا ہندوستان میں علمائے دیوبند نے پاؤں جمنے نہیں دیا، بریلویت کے قلعہ پر اتنی زوردار بمباری کی کہ وہ بیچارے علمی میدان کے آدمی باقی نہ رہے، منکرین سنت کو ان کے گھروں میں ڈھکیل دیا، مودودیت کے سیلاب تند و تیز پر بند لگادیا۔

اور چونکہ اس وقت غیر مقلدیت کا فتنہ بھی اپنے پورے شباب پر ہے اور سعودی و نجدی شیوخ کی دولت سے فائدہ اٹھا کر غیر مقلدیت نے ہند و پاک میں پر پرزے نکالنے شروع کردیئے ہیں اس وجہ سے علماء دیوبند کو بھی انکے مقابلہ میں آنا پڑا۔

کسی باطل فرقہ سے مداہنت کی بات نہیں ہے بلکہ حسب ضرورت و حسب

marfat.com

موقع علمائے دیوبند اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں، اور الاہم فالاہم کا اصول ان کے پیش نظر ہوتا ہے۔

اس وقت ہند و پاک میں سب سے بڑا فتنہ اسی غیر مقلدیت کا ہے، اسلئے علمائے دیوبند کی اس وقت توجہ غیر مقلدیت کی طرف زیادہ ہے۔

یہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ بریلویت کے فتنہ کو علمائے دیوبند نے کس پامردی سے موت کی نیند سلا دیا۔

غیر مقلدین کی قدامت

مولانا اسماعیل سلفی ہی نہیں بلکہ تمام قدیم و جدید علمائے غیر مقلدین اس ہوس میں مشترک نظر آتے ہیں کہ وہ تاریخ و سیر کی کتابوں میں جہاں بھی اہلحدیث اور اصحاب حدیث کا نام دیکھ لیں گے فوراً اس کو اپنی جماعت پر فٹ کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو اہلحدیث فرقہ (یعنی غیر مقلدین) کی تاریخ اتنی قدیم ہے۔

چنانچہ اسی ضمن میں مولانا اسماعیل سلفی لکھتے ہیں:

"اہلحدیث کا مذہب ائمہ اربعہ سے کچھ کم قدیم نہیں ہے، بلکہ حق بات تو یہ ہے کہ ان ائمہ اربعہ نے ائمہ حدیث سے استفادہ کیا ہے۔" (الانطلاق صفحہ ۱۲)

جی ہاں ائمہ اربعہ نے یقیناً اپنے زمانہ کے ائمہ حدیث و فقہ سے استفادہ کیا ہے تو کیا ان ائمہ حدیث کو آج کے زمانہ کے طائفہ غیر مقلدہ سے کوئی نسبت تھی۔ ان سے اپنی نسبت جوڑتے ہوئے اور خوامخواہ ان کو اپنی جماعت کا فرد منوانے کی کوشش کرتے ہوئے آپ غیر مقلدین کو ذرا بھی شرم نہیں آتی۔

مولانا ثناء اللہ امرتسری فرماتے ہیں کہ اہلحدیث کی پہلی کڑی امام مالک ہیں اور آخری کڑی سید میاں نذیر حسین دہلوی ہیں۔

marfat.com

ذرا دیکھئے تو آپ کی بات اور ان کی بات میں آپ کو کچھ فرق نظر آتا ہے حافظ عبداللہ محدث غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل حدیث کا وجود اسی دن سے ہے جس دن سے اسلام وجود میں آیا۔

یہ بھی تو اہلحدیث ہیں اور اپنے اہلحدیث ہونے کی تاریخ بیان کرتے ہیں آخر اس بھانت بھانت کی بولی میں کون سی بولی سچی ہے اور کس کو صحیح مانا جائے۔

اگر یہی دلیل آپ کے قدیم ہونے کی ہے تو پھر۔ اہل قرآن، غلام احمد پرویز کا طبقہ بعینہٖ اسی دلیل سے اپنی قدامت ثابت کر دے گا اور تاریخ میں جہاں جہاں اہل قرآن کا ذکر اسے نظر آئے گا اسے وہ اپنے اوپر فٹ کر کے کہہ دے گا کہ۔ دیکھو ہم لوگ بڑے قدیمی ہیں۔

کیا اس دلیل کو آپ تسلیم کر لیں گے؟

خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے
کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے

وہابیوں نے اہلحدیث کا مذہب ہندوستان سے لیا

مولانا اسماعیل سلفی لکھتے ہیں،

. وہابیوں نے بھی۔ اہلحدیث کا مذہب ہندوستان ہی سے لیا۔

(الاعتصام ص۱۱)

ضرور لیا ہوگا، ذرا ان وہابیوں کی فہرست بھی پیش کر دیں جنھوں نے مذہب اہلحدیث کو ہندوستان سے لیا، اور ان اساتذہ اہلحدیث کا بھی نام پیش کر دیں جن سے وہابیوں نے مذہب اہل حدیث لیا۔

بہر حال کم سے کم اتنا تو معلوم ہوا کہ۔ اہلحدیث۔ کا مرکز نہ کہ مکہ مرکز تھا

اور نہ مدینہ منورہ ، نہ کوفہ ، نہ بصرہ ، نہ شام نہ عراق نہ یمن نہ مصر نہ بخارا نہ سمرقند نہ خراسان نہ نیشاپور اگر مذہب اہل حدیث کا کوئی مرکز رہا تو ہندوستان تمہارے چلئے ہم اتنے پر راضی ہیں ، تم بھی خوش ہم بھی خوش

جو مسلمان ہندوستان میں پہلے پہلے آئے وہ اہلحدیث کے مذہب پر تھے

ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کا زمانہ ۹۲ ھ ہے ، یہ زمانہ ولید بن عبدالملک اموی کا تھا ، محمد بن قاسم کی قیادت میں مسلمان مجاہدین کا دستہ سندھ کے راستے ہندوستان میں آیا تھا ، یہ وہ زمانہ ہے کہ مسلمانوں میں ابھی فرقے اور جماعتیں پیدا نہیں ہوئی تھیں اور جماعت غیر مقلدین جس نے اپنا نام اہلحدیث زبردستی رکھ رکھا ہے ، اس کا تو کہیں دور دور بھی نام و نشان نہیں تھا ، مگر اپنے قدیمی ہونے کی ہوس جو ان کے احساس کمتری کی پیداوار ہے ، ان سے عجیب عجیب باتیں کہلواتی ہے کہ سن کر ہنسی آجاتی ہے کہ یہ غیر مقلدین دنیا کو بالکل بے وقوف ہی سمجھتے ہیں ۔

مولانا اسمٰعیل سلفی کا یہ بیان ملاحظہ فرمائیے :

"مسلمانوں کا یہ شکر کتاب و سنت پر عمل کرنے والا تھا اور آج کے مذہب اہلحدیث پر تھا ۔ (ص ۱۱۲ الانطلاق)

داد دیجئے اس تحقیق انیق کی ، اور ماتم کیجئے ان غیر مقلدین کے علم و عقل پر اور فاتحہ پڑھیے ان کی تحقیقات علمیہ و تاریخیہ پر یہ غیر مقلدین بری طرح احساس کہتری و کمتری میں مبتلا ہیں اور اس احساس سے نکلنے کیلئے وہ علم و دیانت اور عقل و فہم کا ہر خون کرنے کیلئے تیار ہیں ۔

بھلا بتلایئے یہ فرقہ غیر مقلدین جس کے وجود پر ابھی دو صدی بھی مکمل

marfat.com

نہیں گزری ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ ۹۲ھ میں جو مسلمانوں کا لشکر سندھ کے راستے ہندوستان میں آیا تھا وہ انھیں غیر مقلدین کے مذہب پر تھا۔

رہ حیات میں جو خود بھٹک رہے ہیں ہنوز
بزعم خویش وہ اٹھے ہیں رہبری کیلئے

صحابہ کرام میں بھی "تصوف" تھا

مولانا اسماعیل سلفی بیچارے کو اپنے "اہلحدیث" جماعت کی تاریخ قدیم زمانہ سے بنانے کا بہت شوق ہے، اور اس شوق میں وہ ایسی ایسی بات بھی کہہ جاتے ہیں جو دوسروں کے لئے تو ہوتی ہے دلچسپ مگر غیر مقلدین جماعت کے لئے وہ ایٹم بم بھی ثابت ہو سکتی ہے۔

دیکھئے مولانا سلفی کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں:

"اہلحدیث کا طریقہ ان تمام ادوار میں صحابہ کرام کے طریقہ سے مختلف نہیں رہا، بلکہ اہلحدیث صحابہ کرام ہی کی فروع اور عقائد اور تصوف میں اتباع کرتے تھے"،[1] (الانطلاق الفکری ص۹۷)

اس کلام میں کچھ دلچسپ باتیں ہیں وہ آپ بھی سن لیں۔

ایک دلچسپ بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہلحدیث دو الگ الگ جماعت کا نام ہے، ہاں اہلحدیث صحابہ کرام کے طریقہ کی اتباع کرتے تھے۔ دوسری بہت دلچسپ بات یہ معلوم ہوئی جو آج کے اہلحدیثوں کے لئے ایٹم بم سے کم نہیں کہ صحابہ کرام میں بھی تصوف کا رواج تھا، اور یہ اہلحدیث جس طریقہ سے عقائد اور فروع میں صحابہ کرام کے متبع تھے تصوف میں بھی ان کی پیروی کرنیوالے تھے۔

اب تصوف کے منکرین اور اسکو بدعت کہنے والے غیر مقلدین تصوف کے سلسلہ میں اپنی تحقیقات پر نظر ثانی کریں، اور تصوف اور اہل تصوف کے

---

(۱) جب غیر مقلدین کے مذہب میں صحابہ کرام کا قول و فعل حجت ہی نہیں تو معلوم نہیں غیر مقلدین صحابہ کرام کی اتباع کس چیز میں کرتے تھے۔

marfat.com

بارے میں اپنی بدزبانی سے باز آجائیں۔ اسی میں ایمان اور دین کی سلامتی ہے۔

اے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو سہی
یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو

حدیث پر عمل کرنے کے سلسلہ میں غیر مقلدین کی ہیرا پھیری

ان غیر مقلدین کی باتیں بڑی الجھی اور بڑی متعارض ہوتی ہیں، بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ان کا مسلک و مذہب کیا ہے۔ ان کا کوئی بھی قاعدہ متعینہ نہیں ہے جس پر ان کا جماؤ ہو، ذرا مولانا اسماعیل سلفی کی بات سنئے، فرماتے ہیں:

> "کوئی شک نہیں کہ امام شوکانی اور سید صدیق حسن خاں رحمہما اللہ کا میلان امام مالک کے مذہب کی طرف ہے، یہ دونوں نجاست اور طہارت کے سلسلہ میں پانی کے کمیت اور مقدار کا اعتبار نہیں کرتے ہیں پس اگر پانی میں نجاست پڑنے سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدلے گا تو وہ پانی ان دونوں کے نزدیک نجس ہوگا ورنہ نجس نہیں ہوگا پانی کم ہو یا زیادہ اور انکی دلیل یہ حدیث ہے الماء طهور لا ینجسه شئ الا ما غلب علی طعمه او ریحه او لونه اور اس حدیث میں جو الا کے بعد کی زیادتی ہے وہ باتفاق محدثین ضعیف ہے، لیکن اسکی تائید اجماع سے ہوتی ہے۔

امام شوکانی اور سید نواب صدیق حسن خاں صاحب کے یہاں اجماع کا کوئی اعتبار نہیں، نہ اجماع کوئی شرعی دلیل ہے، انھوں نے اجماع کے خلاف عرف الجادی میں بڑا سخت کلام کیا ہے، مگر یہ سلفی صاحب فرما رہے ہیں کہ نواب صاحب نے اجماع پر اس مسئلہ میں عمل کیا ہے، جب اجماع ان کے نزدیک حجت

marfat.com

ہی نہیں تو وہ اجماع پر عمل کیسے کریں گے۔ کیا یہ توجیہ بما لا یرضی بہ القائل نہیں ہے۔

بہرحال مولانا سلفی کے بیان سے معلوم ہوا کہ حدیث کا صرف شروع کا ٹکڑا صحیح ہے، یعنی صرف اتنا الماء طھور لا ینجسہ شئی اور اس کے بعد کا ٹکڑا جو ہے وہ ضعیف ہے۔

اب غیر مقلدین جن کا اصول یہ ہے کہ اجماع حجت نہیں، اور صرف صحیح حدیث پر ہی عمل کیا جائیگا ضعیف حدیث پر عمل کرنا درست نہیں ہے، کے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صاف صاف اور بلا کسی ہیرا پھیری کے اس حدیث میں جتنا حصہ صحیح ہے اس پر عمل کریں، اور وہ صحیح حصہ صرف یہ ہے الماءُ طھور لا ینجسہ شئی جس کا حاصل یہ ہے کہ خواہ نجاست کی مقدار کتنی زیادہ بھی ہو اور خواہ پانی کی مقدار کتنی بھی کم ہو مگر نجاست پڑنے سے وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔

اور ضعیف حصہ کی ظرف نظر اٹھا کر کے بھی نہ دیکھیں تاکہ ہم کو بھی معلوم ہو کہ تمہارے اندر صحیح حدیث پر عمل کرنے کا کتنا دم خم ہے، صرف زبانی جمع خرچ ہے یا واقعی صحیح حدیث پر عمل کرنے کا سچا جذبہ بھی موجود ہے۔

راہ وفا میں کام نہ آیا جاں بازی کا دعویٰ تنہا
بے مصرف، لاحاصل نکلا لفظوں کا سرمایہ تنہا

یہاں بلا وجہ غیر مقلدین کو اجماع یاد آ رہا ہے تراویح اور طلاق کے مسئلہ میں ان کو یہ اجماع یاد نہیں آتا ہے۔

کاش غیر مقلدین اصولی ہوتے، اصول پر جمنے والے ہوتے تو ان کو یہ رسوائی نہ دیکھنی پڑتی۔

تنقید صرف غیروں پہ کرنا بجا نہیں یہ آئینہ بھی آپ ذرا دیکھتے چلیں

marfat.com

مولانا نذیر حسین میاں مؤلف حیاۃ بعد المماۃ کی نظر میں

غیر مقلدین اپنے بزرگوں کی مدح وثنا غلو اور مبالغہ کے انداز میں کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اگر کسی کے بارے میں کہا جائے کہ وہ سرتاج اولیاء تھا وہ علم وتحقیق کا بحر ناپید اکنار تھا، وہ بڑا محقق بڑا مجتہد اور علوم وفنون میں یکتائے روزگار تھا وہ سلوک ومعرفت میں جنید شبلی اور شیخ عبد القادر جیلانی تھا، تو ہر چند کہ یہ مبالغہ ہو اور جس ممدوح کے بارے میں یہ کہا جارہا ہے وہ ایسا نہ ہو مگر اس پر انگلی اسلئے نہیں اٹھائی جاسکتی کہ یہ اپنے اپنے خیال اور زعم کی بات ہے، ہوسکتا ہے کہ ایک شخص آپ کی نگاہ میں کچھ نہ ہو مگر دوسرے اسے راس المتقین سمجھیں، ایک شخص کو آپ علم وفقہ میں صفر کا درجہ دیتے ہوں مگر دوسرا اس کو علامہ زماں سمجھے، ایک شخص بالکل بہرہ یہ ہو مگر کوئی اس کو تصوف ومعرفت کے بہت اونچے مقام پر سمجھتا ہو، تو یہ اپنے زعم اور خیال کی بات ہے، اس پر بہت زیادہ گرفت نہیں کیجاسکتی مگر بعض تعریفیں ایسی ہوتی ہیں کہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس میں ممدوح کی شان میں معتقدین اور مادحین صرف غلو کر رہے ہیں اور کذب بیانی سے کام لے رہے ہیں، ایسی تعریف کو عقل سلیم تسلیم نہ کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔

مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غیر مقلدین مادحین کی تعریفیں اور مدح سرائیاں کچھ اسی نوع کی ہوتی ہیں۔ موصوف کے بارے میں مؤلف حیاۃ بعد المماۃ مولانا فضل حسین بہاری کا یہ بیان ملاحظہ فرمائیں:

"مولانا سید محمد نذیر حسین علیہ الرحمہ کے تلامذہ اقطاع عالم، حجاز مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، یمن، نجد، شام، حبش، افریقہ، تونس

الجزائر، کابل، غزنی، قندھار، پیشاور، سمرقند، بلخ، بخارا داغستان، ایشیار کوچک، ایران، خراسان، مشہد، ہرات کوچین اور ہندوستان کے تقریباً ہر شہر اور ہر ضلع اور بیشتر قصبے قریے اور دیہاتوں میں شرقاً و غرباً جنوباً و شمالاً پھیلے ہوئے ہیں۔" (صہ الحیاۃ بعد المماۃ)

ان مولانا صاحب کو اتنے ہی نام یاد تھے، اگر اس سے زیادہ شہروں اور ملکوں کے نام یاد ہوتے تو وہ اس کو بھی لکھنے سے دریغ نہیں کرتے۔

ذرا ان شہروں اور ملکوں کی اس طویل فہرست پر ناظرین ایک نگاہ ڈال لیں اور اس پر بھی غور کریں کہ صرف بات ان ملکوں اور شہروں کی نہیں ہے بلکہ مولانا نذیر حسین دہلوی کے تلامذہ ان ملکوں اور شہروں کے ہر ہر دیہات میں پھیلے ہوئے تھے۔

کیا اس بیان کو کسی صاحب عقل کی عقل اگر وہ پاگل نہیں ہے تو قبول کرے گی۔

مگر یہ اللہ والے، کتاب و سنت کے متوالے اپنے بزرگوں کی مدح و ثنا میں اسی قسم کا جھوٹ بول بول کر ان کا مقام بلند بناتے ہیں۔ ذرا فضل حسین صاحب کا یہ دلچسپ کلام بھی ملاحظہ ہو فرماتے ہیں:

"جو علم حدیث کے نہایت زبردست امام تھے اور انکی زندگی میں پبلک انکو محدث عالم، یا کم سے کم نہایت ہی جلیل القدر محدث مانتی تھی۔" صہ

خط کشیدہ عبارت پر دھیان دیکھئے اور فضل حسین صاحب کی قابلیت یا خبط الحواسی کی داد دیجئے، فرماتے ہیں کہ:

پبلک اگر انکو محدث عالم نہیں مانتی تھی تو کم از کم انکو نہایت جلیل القدر

marfat.com

محدث مانتی تھی۔

یہی تو حاصل ہے ان کے کلام ذی شان کا، جب اوپر " انقطاع " کی فہرست پیش کرنے میں جھوٹ کا طومار باندھا تو اس کے معاً ہی بعد اللہ نے انکی قابلیت کا بھانڈا پھوڑ دیا۔

اسی سے اندازہ لگتا ہے کہ اس کتاب میں کیا کچھ ہوگا
جو اعتماد کو ایک بار ٹھیس پہونچا دے
اس آدمی کا دوبارہ اعتماد کرو

سید نذیر حسین میاں صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا نمونہ تھے

مولانا فضل حسین صاحب بہاری میاں صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں:

" باوجود بے انتہا مخالفوں مزاحمتوں کشمکشوں اور مشکلات کے علمار مجتہدین، تبع تابعین تابعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا نمونہ بنا کر اہل عالم کو دکھا دیا " ص

ہندوستان کے مشہور مؤرخ مولانا سید عبدالحی صاحب رائے بریلوی والد ماجد حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اپنی کتاب " دہلی اور اس کے اطراف " میں لکھتے ہیں:

" مولوی صاحب نے اثنار سبق میں بیضاوی کی نسبت بھی الفاظ نا ملائم کہے کہ وہ فلسفی تھا کچھ نہیں سمجھتا آیات بینات کو اپنی قابلیت جتانے کے واسطے مشکل کر دیا ہے " ص ۲۵

بیضاوی شریف تفسیر کی مشہور کتاب ہے، اور ہر زمانہ میں علمار اسکو پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں اور یہ تفسیر کی کتاب آج بھی مدارس دینیہ کے نصاب میں شامل ہے

اس تفسیر بیضاوی اور اس کے مصنف کے بارے میں میاں صاحب کا آپ نے یہ تبصرہ ملاحظہ فرمایا۔

یہ تھے وہ میاں صاحب جو صحابہ و تابعین و تبع تابعین کے اخلاق کا نمونہ تھے۔

جو کسی کے قلب کو زخمی کرے
ہنسنے والو وہ ہنسی اچھی نہیں

میاں صاحب کی قابلیت کا نمونہ

اس سے پہلے والے بیان میں فضل حسین بہاری کا بیان میاں صاحب کی قابلیت کے ذکر میں تھا، مگر اہل تجربہ میاں صاحب کی قابلیت علمیہ کے بارے میں اپنا تاثر یہ بیان کرتے ہیں، یہی مولانا سید عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"وہاں پہونچا (یعنی میاں صاحب کے درس میں) تو معلوم ہوا کہ بخاری شریف کا سبق شروع ہو گیا ہے اس میں شریک ہو گیا اس کے بعد مقدمہ صحیح مسلم ہوا بالکل سادہ سادہ درس ہے مالہ وما علیہ سے بحث نہیں ہوتی۔

اس کے بعد بیضاوی کا سبق شروع ہوا ...... اس کا سبق بالکل خراب ہوتا ہے، پڑھنے والے قطعاً نہیں سمجھتے[1] ......
شواہد میں اعشیٰ کا ایک شعر آگیا اس میں دیر تک قاری و سامع متوجہ رہے مگر پھر بھی ناکامیاب رہے ...... میرے دل میں بار بار آتا تھا کہ میں کچھ بولوں مگر مولوی صاحب کی خفگی کی وجہ سے نہیں بولا وہ بہت جلد خفا ہو جاتے ہیں اور طالب علموں کو الفاظ سخت و درشت کہتے ہیں۔۔" (دہلی اور اسکے اطراف)

میں ان باتوں کو لکھ کر خدا نخواستہ میاں صاحب مرحوم کے علمی مقام کو گھٹانا نہیں

---

(١) چونکہ بیضاوی شریف میاں صاحب کی لیاقت علمی سے باہر تھی اس وجہ سے میاں صاحب صاحب بیضاوی پر اپنا غصہ اتارا کرتے تھے اور ان کی شان میں ناملائم الفاظ بکا کرتے تھے۔

marfat.com

چاہتا، بلکہ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب انسان کسی کی مدح میں غلو اور افراط سے کام لیتا ہے تو اپنی بھی آبرو کھوتا ہے اور اپنے ممدوح کے حق میں بھی کانٹے بوتا ہے، میاں صاحب کے لئے یہ اعزاز کچھ کم نہیں کہ ان کی ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی، اور دنیا میں ان کو عزت یہ ملی کہ گورنمنٹ برطانیہ نے ان کو "شمس العلماء" کا خطاب دیا۔

ان اعزازات کے بعد اب خوامخواہ ان کے بارے میں زمین وآسمان کے قلابے ملانا اور صحابہ وتابعین کی صف کا آدمی بتانا یہ کوئی عاقلانہ بات نہیں ہے۔

میاں صاحب نے ۱۲۳۷ھ میں ایک کتاب نو روپے میں بیچی

میاں صاحب کے بارے میں مولانا فضل حسین صاحب بہاری کا یہ بیان بھی قابل ملاحظہ ہے، فرماتے ہیں:

"بنارس میں ایک کتاب نو روپے میں بیچ کر ایک چھوٹا ٹٹو خرید کیا اور وہاں سے الہ آباد روانہ ہوئے۔" ص ۲۵

اندازہ لگائیے کہ زمانہ ہے ۱۲۳۷ھ کا اور میاں صاحب ابھی پڑھنے کیلئے دلی کے ارادہ سے نکلے ہیں، ایک طالب علم کے پاس وہ کونسی کتاب ہوگی جس کو میاں صاحب نے نو روپے میں اس وقت بیچی ہوگی جب ایک روپیہ میں کئی سیر خالص اصلی دیسی گھی ملا کرتا تھا اور ایک روپیہ کا غلہ خرید کر مہینہ بھر ایک خاندان کھا لیتا تھا میں تو اس کو سراپا گپ ہی سمجھتا ہوں۔ ناظرین کرام کا جو بھی خیال ہو بخاری شریف کا ہدیہ ہمارے طالب علمی کے زمانہ میں تین چار روپیہ تھا یہ ۱۳۷۹ھ کے بعد کی بات ہے، پھر ۱۲۳۷ھ میں کسی درسی کتاب کی قیمت نو روپیہ ہو عقل باور نہیں کرتی۔

marfat.com

میاں صاحب کی طالب علمی کے بارے میں مؤلف حیاۃ بعد المماۃ کی تضاد بیانی

مؤلف حیاۃ بعد المماۃ لکھتا ہے کہ میاں صاحب اپنے وطن سے بھاگ کر پٹنہ پہونچے اور وہاں انھوں نے علمائے عظیم آباد وصادق پور سے ترجمہ کلام پاک اور مشکوٰۃ پڑھا۔ ص ۲۵

ہر پڑھا لکھا مولوی جانتا ہے کہ مشکوٰۃ شریف حدیث کی کتاب ہے اور اس کو منتہی طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے، ابھی میاں صاحب کی عربی سے شدبد ہے تو وہ اس ابتدائی مرحلہ میں مشکوٰۃ شریف کیا پڑھیں گے۔

پھر مؤلف لکھتا ہے کہ میاں صاحب عظیم آباد پٹنہ سے غازی پور بنارس (جہاں انھوں نے نو روپے میں ایک درسی کتاب بیچ کر ایک ٹٹو خریدا تھا) ہوتے ہوئے الٰہ آباد پہونچے، کچھ ادھر ادھر رہ کر دائرہ شاہ اجمل پہونچے اور یہیں فروکش ہوکر

ابتدائی کتابیں صرف نحو کی مراح الارواح، شرح ماۃ، ہدایۃ النحو وغیرہ پڑھیں۔ ص ۲۵

یہ ابتدائی کتابیں درجہ اول ودوم کے طلبہ پڑھتے ہیں، میاں صاحب بھی اسی جماعت کے طالب علم رہے ہوں گے، بھلا بتلائیے اوپر مشکوٰۃ پڑھنے کو بتلایا اور یہاں ہدایۃ النحو اور شرح ماۃ پڑھنے کو بتلا رہے ہیں، کچھ ٹھکانا ہے اس تضاد بیانی کا۔

تعجب ہے کہ اس کتاب یعنی حیاۃ بعد المماۃ کا مسودہ حافظ عبد اللہ صاحب غازی پوری جیسے محقق عالم نور اللہ مرقدہ نے بیٹھ کر قیام فرما کر روزانہ نماز صبح کے بعد سے نماز عشاء ۹ بجے رات تک بہ نظر غائر وعمیق مرۃ بعد اخریٰ من اولہا الی آخرہ

marfat.com

پڑھا کرتے تھے (صٓ) اور ان کو اتنی موٹی موٹی واضح فروگذاشتیں پکڑ میں نہ آئیں۔

اسی سے اندازہ لگتا ہے کہ غیر مقلدین کے محقق علماء کی نظریں کتنی غائر اور عمیق ہوتی ہیں، مگر اس پر بھی شوق یہی ہوگا کہ ہم قرآن وحدیث کو خود ہی سمجھیں گے کسی اگلے پچھلے کی تقلید نہیں کریں گے۔

یہ بھی زمانہ دیکھ لیا
چور بنے ہیں چوکیدار

میاں صاحب حضرت شاہ اسحٰق صاحب کے باقاعدہ شاگرد نہیں تھے

غیر مقلدین حضرات میاں صاحب مرحوم کی علمی جلالت قدر کو بہت اونچا دکھلانے کے لئے اس پر بہت زور صرف کرتے ہیں کہ میاں صاحب مرحوم حضرت شاہ اسحٰق کے شاگرد بلکہ شاگرد رشید تھے، اور حدیث وتفسیر ہر علم انھوں نے حضرت شاہ اسحٰق محدث دہلوی سے حاصل کیا تھا۔ چنانچہ میاں صاحب کو حضرت شاہ اسحٰق صاحب کا شاگرد ثابت کرنے پر مؤلف حیاۃ بعد المماۃ فضل حسین بہاری نے بھی بہت زور صرف کیا ہے، مگر اس بات کو ثابت کرنے کے لئے مولانا شیخ محمد فاروقی تھانوی شاگرد حضرت شاہ اسحٰق علیہ الرحمہ کا جو خط نقل کیا ہے، خود اسی خط میں اس کی کافی تردید ہے کہ میاں صاحب حضرت شاہ اسحٰق کے شاگرد تھے، اسی خط کی یہ عبارت دیکھئے:

مگر بچشم خود نہ دیدم کہ بدرس قرأۃ وسماعۃً دراں زماں بوقوع درآمدہ باشند۔ صٓ۲۴

فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھ سے سبق میں موجود قرأۃ وسماعۃً نہ پڑھنے کے لئے نہ سبق سننے کے لیے میاں صاحب کو کبھی نہیں دیکھا۔

marfat.com

نیز مولانا شیخ محمد تھانوی لکھتے ہیں:

اکثر اکتساب فن حدیث شریف در پیش خدمت مولوی عبدالخالق خسر خود کرد صـ۲۴

یعنی حدیث شریف کا زیادہ تر علم اپنے خسر مولانا عبدالخالق سے حاصل کیا۔ اس صاف اور واضح عبارت کے بعد بھی اسی خط سے یہ ثابت کرنا کہ میاں صاحب مرحوم حضرت شاہ اسحٰق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، نری دھاندلی زبردستی اور سینہ زوری ہے۔

کیا اتنے سے کہ کوئی کسی عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر اگرچہ یہ حاضر باشی روزانہ ہی کی ہو جو بات اس کو نہ سمجھ آئے اس کی تحقیق کرے وہ اس عالم کا شاگرد کہلائے گا، کتنے اہل علم و غیر اہل علم ہیں جو اپنے بڑوں کی خدمت میں روزانہ حاضر باش ہو کر ان سے استفادہ کرتے ہیں کیا اس خارجی استفادہ سے کوئی شخص کسی کا باقاعدہ شاگرد کہلایا ہے۔

میاں صاحب نذیر حسین دہلوی بھی شاہ اسحٰق علیہ الرحمہ کی مجلس میں روزانہ جا کر بیٹھا کرتے تھے اور جو بات اپنے خسر کے درس میں سمجھ میں نہیں آتی تھی یا اور جو دوسرے علمی اشکالات ہوتے تھے اس کو وہ ان سے حل کرتے تھے۔

ظاہر بات ہے کہ اس سے کوئی بھی کسی کا باقاعدہ شاگرد نہیں کہلاتا۔

حضرت قاری عبدالرحمٰن پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے تلمیذ اجل اور مخصوص شاگرد تھے اپنی کتاب کشف الحجاب صـ۱۳ میں لکھتے ہیں:

سید نذیر حسین صاحب نے کس روز میاں صاحب سے پڑھا ہے

بہر حال غیر مقلدوں کی یہ نری زبردستی ہے کہ میاں صاحب کو حضرت شاہ اسحٰق صاحب نواسہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمہ کا شاگرد بتلاتے ہیں اور اپنی علمی نسبت کو میاں صاحب کے واسطہ سے اس جھوٹ کے ذریعہ بلند کرنا چاہتے ہیں۔

marfat.com

میاں صاحب نے بخاری کئی سو مرتبہ پڑھائی

میاں صاحب کے ایک شاگرد مولوی عزیز احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خود کئی بار حضرت سے پوچھا کہ صحاح اور خصوصاً صحیح بخاری حضور نے کے مرتبہ درس دی ہوگی ارشاد فرمایا کہ کیا شمار بتاؤں اللہ کو علم ہے میری یاد صحیح ہے تو کئی سو مرتبہ پڑھائی ہوگی۔ (الحیاۃ ص۵۴)

میاں صاحب نے ۱۲۵۸ھ کے بعد سے پڑھنے پڑھانے کا باقاعدہ سلسلہ شروع کیا اور ۱۳۲۰ھ میں آپ کا انتقال ہوا، اس طرح کل آپ کے پڑھانے کی مدت اگر زندگی کے بالکل آخری ایام تک بھی شمار کرلی جائے تو ساٹھ باسٹھ سال سے زیادہ نہیں ہوتی ہے اس مدت میں اگر یہی باور کرلیا جائے کہ آپ نے روز اول ہی سے بخاری پڑھانی شروع کردیا تھا تب بھی عقل بالکل باور کرنے پر تیار نہیں ہے کہ وہ بخاری شریف جس کو آپ مالہٗ وما علیہ کے ساتھ اور نہایت محققانہ اور محدثانہ انداز میں پڑھاتے تھے اور ایک ایک مسئلہ پر کئی کئی دن صرف کردیا کرتے تھے اس کو اپنی کل ساٹھ باسٹھ سال کے زمانۂ تدریس میں کئی سو مرتبہ پڑھائی ہوگی۔

اہل دین اور اہل تقویٰ اللہ ورسول سے ڈرنے والے پاک باز وپاک نفوس اپنے بارے میں بہت محتاط ہوتے ہیں، اپنی زبان کو کذب سے محفوظ رکھتے ہیں اور اپنی تعریف میں خود اپنی زبان سے مبالغہ کرنے کو تو بالکل حرام سمجھتے ہیں (۱)

---

(۱) میاں صاحب فرماتے تھے کہ میں نے سات برس اوائل میں صرف نحو وصرف کا درس دیا ہے (ص۱۸۲) اس ساٹھ باسٹھ سال میں سے سات برس اور گھٹا دیجئے۔

marfat.com

ہندوستان میں کوئی شخص مجتہد وامام فن نہیں گزرا

مولانا فضل حسین بہاری لکھتے ہیں :

آج تک ہندوستان میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا کہ جو باستحقاق مجتہد اور امام فن کہا جا سکے (ص ۵۹ حاشیہ)

اس پر بھی یہ شوق ہے کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے۔ خود مجتہد بنیں گے جب تم غیر مقلدوں کو اس کا اعتراف ہے کہ ہندوستان باستحقاق مجتہد سے آج تک خالی ہے اور کوئی شخص بھی کسی فن میں امام نہیں گزرا تو آج تم کس بل بوتے پر ائمہ فقہ و حدیث کی تقلید سے منکر ہو رہے ہو کچے علم کے ساتھ اور درجہ اجتہاد پر بلا پہونچے ہوئے آخر تمہیں مجتہد بننے کا کیا شوق ہو گیا ہے۔

خیر اتنا تو معلوم ہوا کہ سید میاں نذیر حسین دہلوی کے علم کے بارے میں تمہاری مبالغہ آرائی محض مبالغہ آرائی ہے۔ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور میاں صاحب بھی باستحقاق نہ مجتہد تھے اور نہ کسی فن کے امام تھے۔

عیب آخر عیب ہے کتنی بلندی پر بھی ہو
داغ آخر داغ ہے داغ مہ کامل سہی

میاں صاحب بخاری شریف کی پہلی حدیث ستائیس روز میں پڑھاتے تھے

مؤلف الحیاۃ بعد المماۃ میاں صاحب کے درس کا طریقہ بتلاتے ہوئے میاں صاحب موصوف کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں :

- میاں صاحب خود فرمایا کرتے تھے کہ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کو جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے ستائیس روز میں پڑھاتا تھا۔ ص ۶۵

marfat.com

اندازہ لگائیے کہ جو آدمی صرف ایک حدیث پر ۲۶، ۲۷ روز لگاتا تھا اس کے بارے میں یہ کیسے یقین کیا جائے کہ اس نے اپنی ساٹھ باسٹھ سالہ تدریسی زندگی میں بخاری شریف کئی سو مرتبہ پڑھائی ہوگی۔

تعجب ہے مولانا حافظ عبداللہ صاحب محدث غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ پر کہ وہ اس کتاب حیاۃ بعد المماۃ کا بغائر نظر کئی روز تک صبح سے ۹ بجے رات تک مسودہ کا ایک ایک حرف دیکھا کرتے تھے اور انھوں نے اس طرح کی بکواسوں پر کوئی توجہ نہیں دی، اور یہ عقل سے ماورار باتیں اس کتاب میں موجود ہیں۔

پوری جلالین شریف میاں صاحب صرف ایک مہینہ میں پڑھا دیا کرتے تھے

حیاۃ بعد المماۃ کے مصنف فضل حسین مظفر پوری بہاری فرماتے ہیں:

ایک ماہ رمضان میں جلالین آپ پڑھاتے تھے۔ ص۶۹

جلالین شریف تفسیر کی مشہور کتاب ہے، درس نظامیہ کے نصاب میں شامل ہے علمار جانتے ہیں کہ اس کتاب کو جو شخص صرف ایک ماہ میں ختم کرا دے وہ اس کتاب کا کیا حق ادا کرتا ہوگا، یہ تفسیر کتنی بھی مختصر سہی مگر بہرحال پورے قرآن کی تفسیر ہے اور ضخیم ہے۔ جب کہ میاں صاحب کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ:

آپ نہایت تحقیق کے ساتھ درس دیتے اور حق بات یہ ہے کہ فقہ تفسیر حدیث اور فلسفہ کے آپ عالم متبحر تھے پڑھانے میں جب تقریر کرتے تو ایک بحر مواج معلوم ہوتے تھے۔ ص

نہایت تحقیق کے ساتھ جو میاں صاحب کا درس جلالین ہوتا تھا وہ ماشاراللہ ایسا تھا کہ پوری جلالین شریف صرف ایک ماہ میں پڑھا دیا کرتے تھے، کچھ ٹھکانا ہے ان الول جلول باتوں کا۔

marfat.com

میاں صاحب نے "اُلّو" کے حلال ہونے پر اٹھائیس سندیں نکالیں

اپنی اسی کتاب میں فضل حسین صاحب بہاری لکھتے ہیں :

نواب قطب الدین خاں مرحوم نے اپنے کسی رسالہ میں لکھا کہ "اُلّو حلال" ہے میاں صاحب خود فرماتے تھے کہ میں نے الو کے حلال ہونے پر اٹھائیس کتابوں کی سند نکالی (مختصراً صـ۴۲)

اب معلوم نہیں کہ میاں صاحب مرحوم نے صرف کتابوں سے الو کے حلال ہونے کی اٹھائیس سندیں نکالنے ہی پر اکتفا کیا یا اپنے لوگوں کو اس کے کھانے کا فتویٰ بھی دیا ۔

میاں صاحب گورنمنٹ برطانیہ کے وفادار تھے

مولانا افضل حسین بہاری لکھتے ہیں :

"مگر اسی کے ساتھ یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ میاں صاحب بھی گورنمنٹ انگلشیہ کے کیسے وفادار تھے ، زمانہ غدر ۱۸۵۷ء میں جب کہ دہلی کے بعض مقتدر اور بیشتر معمولی مولویوں نے انگریزوں پر جہاد کا فتویٰ دیا تو میاں صاحب نے اس پر نہ دستخط کیا نہ مہر . صـ۷۶"

جی ہاں ۔ ایں خانہ ہمہ آفتاب است .

مگر یہ کڑوی گولی آج کے غیر مقلدوں کے حلق سے نیچے نہیں اترتی کہ ان کے اکابر اور ان کے مجدد و شیخ الکل فی الکل لوگ گورنمنٹ انگلشیہ کے وفادار تھے .

افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو
دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات

marfat.com

انگریز کمشنر کی میاں صاحب کیلئے چٹھی

میاں صاحب نے جب حج کا ارادہ کیا تو ان کو خوف ہوا کہ مخالفین انھیں پریشان کریں گے (۱)، تو انھوں نے اپنے حفاظت کی خاطر (کسی مصلحت سے اللہ پر توکل نہ کرکے) کمشنر دہلی جو انگریز تھا اس سے ایک چٹھی لی، چٹھی انگریزی میں ہے اس کا ترجمہ یہ ہے۔

"مولوی نذیر حسین دہلی کے ایک بڑے مقتدر عالم ہیں جنھوں نے نازک وقتوں میں اپنی وفاداری گورنمنٹ برطانیہ کے ساتھ ثابت کی ہے، اب وہ اپنے فرض زیارت کعبہ کے ادا کرنے کو مکہ جاتے ہیں۔

میں امید کرتا ہوں کہ جس کسی برٹش گورنمنٹ افسر کی مدد چاہیں گے وہ انکی مدد کریگا کیونکہ وہ کامل طور سے اس مدد کے مستحق ہیں۔" ۱۸۸۳ء

اس طرح میاں صاحب شیخ الکل فی الکل محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے گورنمنٹ برطانیہ کے زیر سایہ اپنا فریضہ حج ادا کیا۔

کند ہم جنس با ہم جنس پرواز
کبوتر با کبوتر باز با باز

میاں صاحب کے صاحبزادے نصف گھنٹہ میں نماز فرض ادا کرتے تھے

مولانا فضل حسین صاحب لکھتے ہیں:

مولانا شریف حسین صاحب مرحوم کی امامت میں کوئی نماز نصف گھنٹہ سے کم میں تو ختم ہی نہ ہوتی جو بجائے خود ایک ریاضت شاقہ تھی، دلی کی

---

(۱) میاں صاحب کو یہ کیوں خوف تھا؟ غیر مقلدین حضرات اس راز سے پردہ نہیں اٹھاتے۔

marfat.com

گزری ہے جو لوگ واقف ہیں وہ اس مجاہدہ کا اندازہ کر سکتے ہیں (ص۱)

میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی نماز خلاف سنت ہے، امام کو تخفیف صلوٰۃ کا حکم ہے، پھر یہ کہ کوئی نماز نصف گھنٹہ سے کم میں ختم نہ ہو، یہ بھی بالکل خلاف شرع بات ہے، فجر اور مغرب میں، فجر اور عشار میں یکساں وقت لگانا غلط ہے۔

معلوم نہیں میاں صاحب کیسے اہلحدیث تھے کہ شریعت کے اس اہم مسئلہ بں حدیث پر ان کا عمل نہیں تھا۔

کہنے کی زباں اور ہے کرنے کی زباں اور

صحیح حدیث میں ہے، اذا ام احدکم فلیخفف، یعنی جب کوئی امام بنے تو ہلکی نماز پڑھائے۔

میاں صاحب رمضان میں دو ختم قرآن سنتے
ایک تراویح میں اور ایک تہجد میں

مولانا فضل حسین بہاری شاگرد رشید میاں صاحب مرحوم اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں:

لیالی رمضان المبارک میں دو ختم قرآن مجید کا بحالت قیام ہر سال سنتے ایک تو نماز عشار کے بعد تراویح میں جس کے امام تھے حافظ احمد عالم فقیہ محدث جو آپ کے شاگرد رشید تھے، تین سپارے روزانہ سناتے ترتیل و تجوید کے ساتھ دوسرا ختم سنتے نماز تہجد میں جس کے امام ہوتے حافظ عبد السلام سلمہ آپ کے بڑے پوتے، ص۱۳۰

میں نے تراویح کے سلسلہ کا یہ کلام ان غیر مقلدوں کو آئینہ دکھلانے کیلئے نقل کیا ہے جو آج بڑے زور و شور سے یہ چلاتے پھرتے ہیں کہ تراویح اور رمضان میں

marfat.com

نماز تہجد دو الگ الگ نمازیں نہیں ہیں بلکہ رمضان میں جو تراویح ہے وہی تہجد ہے اور جو تہجد ہے وہی تراویح ہے ۔ اپنے شیخ الکل محدث اور علامہ اور امام وقت کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، کیا انکو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ اور یہ بھی بتادوں کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیس رکعت پڑھا کرتے تھے، اگر غیر مقلدین کو انکار ہے تو میں اسکا ثبوت دوں۔

میاں صاحب صوفی بھی تھے، پیری مریدی کرتے تھے

مولانا بہاری لکھتے ہیں:

"باوجودیکہ اپنے زمانہ کے طبقہ صوفیہ کرام میں بھی آپ کو وہی درجہ حاصل تھا جو معشر علمائے عظام میں تھا۔ ص ۱۴۱

"آپ مناسب حال بیعت مریدوں سے لیتے۔ ص ۱۴۶

"مسلمانان بنگالہ جن کی گنتی ممکن نہیں سب نے آپ سے شرف بیعت حاصل کیا" ص ۱۴۶

"سفر پنجاب میں بھی لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی ص ۱۴۶

"آپ کسی سے بیعت لیتے تو تقریباً جملہ حاضرین شریک بیعت ہو جاتے ص ۱۴۷

ان شہادتوں سے معلوم ہوا کہ آج سے قبل تک غیر مقلدین کا طائفہ اور اسکے اکابر پیری مریدی کے قائل تھے، تصوف اور اشغال صوفیہ سے خاص شغف رکھتے تھے، مولانا نواب صدیق حسن خاں انکے صاحبزادے مولانا نور الحسن خاں اور اسی طرح غزنوی خاندان کے علماء اور صلحاء تمام کا تعلق بیعت و ارشاد، تصوف اور اہل تصوف سے تھا، آج سے پہلے غیر مقلد علماء تصوف اور صوفیاء کے بارے میں بد عقیدگی کا اظہار نہیں کیا کرتے تھے۔

لیکن آج غیر مقلدین کا پورا ٹولہ نجدیوں کی سلفیت سے متأثر ہو کر تصوف دشمن بنا ہوا ہے، اور اولیاء اللہ سے مخاصمت و مخالفت رکھتا ہے اور ان کو

marfat.com

اپنی زبان کی وہ . ملاحیاں . سنا تاہے کہ توبہ بھلی ۔
رُخ ہوا کا دیکھ کر اکثر بدل جاتے ہیں لوگ

میاں صاحب پیشین گوئی بھی فرماتے تھے

جناب فضل حسین صاحب بہاری نے اپنی کتاب الحیاۃ بعد المماۃ میں ایک عنوان " پیشین گوئی " قائم کیا ہے ۔

اور پھر میاں صاحب کے پیشین گوئی کے چند واقعات نقل کرکے فرماتے ہیں:

" ناظرین ہی انصاف کریں کہ ایسی یقینی پیشین گوئی کیا کوئی معمولی بات ہے " صـ۱۸۷

پیشین گوئی کا تعلق علم غیب سے ہے اور غیب کا علم اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کے مطابق صرف اللہ کو ہے ، دوسروں کے لئے جو یہ علم ثابت کرے اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے ۔

اور پھر یقینی پیشین گوئی کا دعویٰ تو بہت بڑا دعویٰ ہے ۔ مسلمانوں کو اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس عقیدہ سے توبہ کرنی چاہیے ۔

ظاہرًا توڑ لیا ہم نے بتوں سے رشتہ
پھر بھی سینے میں صنم خانہ بسا ہے یارو

میاں صاحب کا سلسلہ نسب

میاں صاحب مرحوم کے بارے میں انکی سوانح حیات والے انکو ماں باپ دونوں طرف سے نجیب الطرفین سید ثابت کرتے ہیں اور خود میاں صاحب کو بنی فاطمہ میں سے ہونے کا دعویٰ تھا ۔ چنانچہ الحیاۃ بعد المماۃ میں بھی ان کا نسب نامہ ماں اور باپ دونوں طرف سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا

marfat.com

تک پہونچا گیا ہے۔

حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے نیچے آتے آتے گیارہویں پشت میں امام حسن عسکری ہیں اور بارہویں پشت میں انکے بیٹے سید ابوالفرح کا تذکرہ ہے۔

امام حسن عسکری کے بیان میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

قد ذکر محمد بن جریر الطبری وعبد الباقی بن نافع وغیرهما من اهل العلم بالانساب والتواریخ ان الحسن بن علی العسکری لم یکن له نسب ولاعقب۔

(منہاج السنۃ ج۲ ص۱۳۱)

یعنی محمد بن جریر طبری اور عبد الباقی بن نافع وغیرہ علماء انساب والتواریخ نے یہ کہا ہے کہ حسن بن علی عسکری کا لڑکا لڑکی کوئی بھی نہیں تھا نہ انکا نسب چلا۔

اس بیان سے معلوم ہوا کہ حسن بن عسکری کے بعد سلسلہ نسب منقطع ہو چکا تھا، پس سید میاں نذیر حسین دہلوی کا ماں باپ دونوں طرف سے سادات میں سے ہونے کا کیا معنی کسی ایک طرف سے بھی ان کا سید ہونا مشتبہ ہے، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی بات تسلیم کرلی جائے اور نہ تسلیم کرنے کی کوئی وجہ نہیں تو میاں صاحب مرحوم کا سید نہ ہونا یقینی ہے۔

لازم خودی کا ہوش بھی ہے بے خودی کے ساتھ
کس کی اُسے خبر جسے اپنی خبر نہ ہو

marfat.com

تقلید صرف غیر مجتہد کو جائز ہے

نواب صدیق حسن خاں بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

والتقلید لایجوز الا لغیر المجتہد (ص۴۵۲ التاج المکلل)

یعنی تقلید صرف انکو جائز ہے جن میں ملکہ اجتہاد نہیں ہے۔

مقلدین بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ اہل اجتہاد نہیں ہیں ان کو تقلید کرنی چاہیے مجتہدین کے لئے تقلید ضروری نہیں ہے۔

نواب صاحب بھی مجتہدین کے علاوہ کے لئے تقلید کا اثبات کرتے ہیں بہرحال نفس تقلید کی دعوت غیر مقلدین کے بڑوں کے یہاں بھی ہے۔

اب جو لوگ مطلق تقلید کو شرک کہتے ہیں اپنے ان نواب صاحب کے بارے میں فتویٰ صادر فرمائیں۔

مسلمانان ہند کے بارے میں نواب صاحب کی رائے

نواب صاحب کو اس کی شکایت تھی کہ لوگ انکی نوابی شخصیت اور انکے علم کے قدرداں نہیں ہیں، اس وجہ سے مسلمانان ہند سے ان کا دل عموماً تنگ رہا کرتا تھا، چنانچہ وہ کبھی کبھی اپنے اس رنج وغم کا اظہار بھی کر جایا کرتے تھے اور مسلمانان ہند پران کا تبصرہ اس وقت بڑا نازیبا ہوتا تھا چنانچہ اسی طرح کی جب ایک کیفیت ان پر طاری ہوئی تو فرماتے ہیں:

ہندیان ظلمت سرشت وسکنہ ایں اقلیم بدعت پرست، اگر سرنیاز فرد نیارند مرا شکوہ از ایشاں نیست کہ قدرشناسی ایشاں در واقع درخور از در راست نہ افتخار۔ (التاج المکلل ص۴۵۷)

یعنی وہ ہندستانی جن کا باطن تاریک ہے اور اس دیار کے وہ رہنے والے

جو بدعت پرست ہیں اگر میرے سامنے سر نیاز نہیں خم کرتے ہیں تو مجھکو ان سے شکوہ نہیں ہے ، اس لئے کہ اگر یہ قدرشناس بھی ہوتے تو ان کی قدرشناسی میرے لئے قابل حقارت تھی نہ کہ باعث افتخار۔

نواب صاحب بھوپالی کو عام ہندوستانیوں پر اتنا سخت تبصرہ نہیں کرنا چاہئے تھا ، یہ سنجیدگی اور متانت اور علمی وقار کے خلاف ہے ۔ آپ کو شکایت ہے کہ ہندوستانی مسلمان آپ کے سامنے سر نہیں جھکاتے ، خاں صاحب یہ بھول گئے کہ مسلمانوں کو اپنا سر صرف اللہ کے سامنے جھکانا چاہئے کسی اور کے سامنے نہیں خواہ وہ کہیں کا نواب ہی کیوں نہ ہو ۔

استوار علی العرش کی کیفیت معلوم نہیں

فتاویٰ نذیریہ میں ہے :

" استوار علی العرش کی کیفیت معلوم نہیں " ج ۱ ص ۲

مگر آج کل کے غیر مقلدوں کی نئی نسل کو یہ کیفیت خوب معلوم ہے یعنی اللہ اپنی ذات سے عرش پر ایسا ہی مستوی ہے جیسا کہ استوار کا لغۃً معنی عام وخاص کے سمجھ میں آتا ہے ، یعنی ایسا مستوی ہے کہ اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا جا سکتا ہے کہ " دیکھو وہ خدا ہے جو کہ عرش پر بیٹھا ہے ،

آنحضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں

فتاویٰ نذیریہ میں ہے :

حضرت ابوہریرہ سے مرفوعاً یہ لفظ آئے ہیں ۔ من صلّی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیاً ابلغتہ ۔

(رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

marfat.com

اس سے آنحضور کا قبر میں زندہ ہونا معلوم ہوا۔ صہ ج ۱

اور فتاویٰ نذیریہ صہ ۵۲ ج ۱ میں ہے:

اور حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں خصوصاً آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کہ فرماتے ہیں۔ جو عند القبر درود بھیجتا ہے میں سنتا ہوں اور دور سے پہونچایا جاتا ہوں، چنانچہ مشکوٰۃ وغیرہ کتب حدیث سے معلوم ہوتا ہے لیکن کیفیت حیات کی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اوروں کو اس کی کیفیت بخوبی معلوم نہیں

اگر احناف اور مقلدین حیات انبیاء کے قائل ہوں تو وہ قابل گردن زدنی ہیں اور اگر غیر مقلدین کے شیوخ واکابر اس کے قائل ہوں تو وہ محقق اور اہلحدیث کہلائیں۔

قیاس صحیح

فتاویٰ نذیریہ میں ہے:

اور جس قیاس کا مقیس علیہ امر واقع ہے وہ قیاس صحیح اور قابل عمل ہے، صہ ۱۶۲ ج ۱

چلئے پہلا قیاس غیر مقلدین کے نزدیک مطلقاً حرام تھا اب اس کی کوئی قسم جائز تو ہوئی۔

. تیری آواز مکے اور مدینے .

تقلید شخصی مطلقاً حرام ہے

حضرت میاں نذیر حسین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

.اس عاجز نے اگرچہ ایک صورت تقلید شخصی کی معیار الحق میں بسبیل تنزل مباح میں درج کی تھی لیکن عند التحقیق مباح میں بھی داخل نہیں ہوسکتی

(صہ ۱۶۲ ج ۱۔ فتاویٰ نذیریہ)

اس کا حاصل یہی تو نکلا کہ تقلید شخصی مطلقاً حرام ہے اور اسی حرام پر ایک فرقہ شاذہ مردودہ کے علاوہ ساری دنیا کے مسلمان عمل کر رہے ہیں ۔

غیر مقلدین شاید بھول گئے کہ آنحضور کا ارشاد ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ، جو امت کے سواد اعظم کو گمراہ کہے جن میں ائمہ محدثین و فقہائے اسلام صوفیائے عظام اور مفسرین سبھی شامل ہیں ، وہ خود سب سے بڑا گمراہ فرقہ ہے ۔ خالفنا یہ بھی فرمائیں کہ یہ تقلید مجتہدین کیلئے غیر مباح ہے یا سب عام و خاص کیلئے ابھی نواب صاحب کا فرمان اوپر گذر چکا ہے کہ تقلید مجتہد نہ کرے ۔

تقلید بلا دلیل حرام ہے

ابھی آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب نے اپنے فتاوی میں مطلقاً تقلید شخصی کو حرام بتلایا ہے ، نہ اس میں دلیل کی قید ہے نہ بلا دلیل کی قید ہے ، مگر غیر مقلدوں کو یہ سودا بڑا مہنگا پڑ رہا تھا ، اس وجہ سے اب تقلید حرام کی تعریف میں حذف و اضافہ شروع ہوا ۔

فتاوی نذیریہ کی ان عبارتوں میں آپ غور کریں ۔ تقلید پر کلام کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے :

تو تقلید بلا دلیل بھی باطل ہوئی ص ۱۹۱ / ج ۱

پس قول بلا دلیل پر تقلید کرنا کسی عالم کی اگرچہ وہ بڑا نامی گرامی ہو باطل ہے ، ص ۱۹۲ / ج ۱

تقلید بلا دلیل ایسی پوچ پکر محض بے اصل ہے ص ۱۹۴ / ج ۱

اے مسلمانو تم قرآن وغیرہ سے تقلید بلا دلیل کی مذمت اور برائی تو سن چکے ، پس آیت کریمہ اور نیز کتب اصول چہار مذہب سے صاف واضح ہوا کہ تقلید بلا دلیل حکم الہی سے خارج اور مذموم قبیح ہے ۔ ص ۱۲۲ / ج ۱

اب تقلید کی دو قسم ہوئی تقلید ۔ بادلیل ۔ یہ جائز ہے ، اور " تقلید بلا دلیل " یہ

marfat.com

حرام ہے۔

اب غیر مقلدین یہ بتلائیں کہ جب شخصی تقلید کی ایک قسم جائز ہے تو وہ مطلقاً تقلید کو حرام کیوں کہتے ہیں، حلال کو حرام کہنا کیا یہ دین میں تحریف نہیں ہے، کیا تحریم ما احل اللہ خدا کی شریعت میں جائز ہے۔

اب رہا کہ "با دلیل تقلید" کیا شے ہے، اور اسے فی الواقع تقلید کہا بھی جائے گا یا نہیں، اس مسئلہ کو یہیں چھوڑ دیجئے کہ غیر مقلدین خود اپنی جال میں اس قدر پھنس چکے ہیں کہ اب مزید ان پر کوئی بار ڈالنا ہم مناسب نہیں سمجھتے ورنہ ابھی تو ایک سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ تقلید با دلیل شخصی کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اور غیر مجتہد تقلید کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟

علماء و مفتی و قاضی کی تقلید تقلیدِ اصطلاحی نہیں ہے

فتاویٰ نذیریہ میں ہے:

> رجوع کرنا طرف قاضی یا فتویٰ مفتی یا حکم کرنا قاضی کا اوپر شہادت شاہدان عدول کے یا اتباع اولو الامر کا بدلیل شرعی ہے اس کو تقلید اصطلاحی متقلدین نہیں کہتے۔ ص ۱۹۶/۱

دیکھئے غیر مقلدین بیچارے تقلید کا مطلقاً انکار کر کے کتنی مصیبت میں گرفتار ہیں، اور ان کو اس مسئلہ میں کیسی کیسی تاویلات کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ پہلے تو تقلید شخصی و غیر شخصی کی تقسیم کی، پھر تقلید شخصی کی دو قسم کی ایک تقلید شخصی با دلیل اور دوسرے تقلید شخصی بلا دلیل، اور پھر چونکہ ان کو خود بھی تقلید شخصی سے ہزار دعویٰ غیر مقلدیت کے باوجود چھٹکارا نہیں ہے اس وجہ سے یہ جو اپنے علماء کی مفتیان کرام کی اور قاضیوں اور مجتہدین کی تقلید شخصی کرتے ہیں اس کو کہا کہ یہ تقلید بدلیل شرعی ہے، اسلئے یہ جائز ہے۔

marfat.com

ان اللہ کے بندوں سے کوئی پوچھے کہ اگر تمہارے علماء "اولی الامر" میں سے ہو سکتے ہیں اور ان کی تقلید شخصی بدلیل ہو گی تو پھر امام ابو حنیفہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا شمار اولی الامر میں سے کیوں نہیں ہو گا، اور ان کی تقلید شخصی بدلیل کیوں نہ ہو گی، آخر ان ائمہ اربعہ ہی سے تمہاری دشمنی کیوں ہے۔؟

اچھا تم یہ کہتے ہو کہ جو تقلید شخصی بادلیل ہو گی وہ جائز ہے، تو پھر یہی ثابت کردو کہ مقلدین ائمہ اربعہ اپنے اماموں کی تقلید شخصی بادلیل نہیں کرتے ہیں، خوب سوچ لو عوام جو علماء سے فتویٰ پوچھ کر عمل کرتے ہیں وہ تمہارے نزدیک تقلید اصطلاحی نہیں ہے، اس لئے اب بات صرف خواص مقلدین کی ہے، تم ثابت کرو کہ مقلدین خواص "تقلید بلا دلیل کرتے ہیں۔

سواد امت سے آدمی کٹ کر خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اور پھر اس کی عقل فہم علم دین ایمان اس سے سب رخصت ہو جاتے ہیں سہ

ٹھکانہ ڈھونڈ لے مرغ چمن خوش رنگ پھولوں میں
اگر تنکوں کو اپنا آشیاں سمجھا تو کیا سمجھا

بخاری مسلم کی تمام مرفوع روایتیں صحیح ہیں

فتاویٰ نذیریہ میں ہے:

بخاری و مسلم کی تمام احادیث مرفوعہ مسندہ صحیح ہیں ص ۳۰۲/۱۲

اور اس کے باوجود قرأت خلف الامام کے سلسلہ میں امام مسلم نے "واذا قرأ فانصتوا" یعنی جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو کی جو حدیث روایت کی ہے اسکو غیر مقلدوں نے بالاتفاق رد کر دیا ہے۔

marfat.com

مسلم کی یہ بھی روایت ہے آنحضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نماز میں جب بیٹھتے تو

کان یفرش رجلہ الیسری وینصب رجلہ الیمنی آپ اپنا بایاں پاؤں پھیلا لیتے اور داہنا پاؤں کھڑا رکھتے مگر غیر مقلدین امام مسلم کی روایت کردہ اس حدیث کو چھوڑ کر قعدہ اخیرہ میں عورتوں کی طرح " تورک " کرتے ہیں یعنی سرین کے بل بیٹھتے ہیں۔

مسلم کی یہ بھی روایت ہے آنحضور صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایم احق بنفسھا من ولیھا۔ یعنی جس کا شوہر نہ ہو وہ عورت اپنے نکاح کی ولی سے زیادہ حقدار ہے۔

اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر ولی کی اجازت کے بغیر کوئی عورت نکاح کر لے تو اس کا نکاح جائز ہو گا مگر غیر مقلدین کا مذہب یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر عورت اپنا نکاح کر ہی نہیں سکتی۔

یہ تین مثالیں محض یہ دکھانے کے لئے ہیں کہ جس صحیح مسلم کے بارے میں غیر مقلدین کے اکابر یہ کہتے ہیں کہ اس میں سب صحیح حدیثیں ہیں، اس حدیث کی صحیح کتاب کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے، تفصیل کے لئے میری کتاب " مسائل غیر مقلدین کتاب و سنت اور مذہب جمہور کے آئینہ میں " ملاحظہ فرمائیے۔

غیر مقلدین کے یہاں کھلے ستر نماز درست ہے

ایک مسئلہ کے ضمن میں فتاویٰ نذیریہ میں لکھا ہے۔

اس سے یہ بھی استدلال کیا جا سکتا ہے کہ نماز میں ستر عورت شرط نہیں ص ۲۲۵ ج ۱

نماز میں شرمگاہ کا چھپانا تمام ائمہ کا مسلک ہے، البتہ غیر مقلدین کے یہاں شرمگاہ کھول کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور نمازی کی نماز میں اس سے

marfat.com

کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

مجتہد صاحبوں کے کیا کہنے۔

صحابی کا فتویٰ حجت نہیں ہے

فتاویٰ نذیریہ میں ہے:

اگر تسلیم کردہ شود کہ سند ایں فتویٰ صحیح ست تاہم ازو احتجاج صحیح نیست زیرا کہ قول صحابی حجت نیست (صہ ۲۱ ج ۱)

یعنی اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اس فتویٰ کی سند صحیح ہے تب بھی اس سے دلیل لانا درست نہیں ہے اس وجہ سے کہ صحابی کا قول حجت نہیں ہے۔

جی ہاں شیعوں اور غیر مقلدوں کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہی عقیدہ ہے۔ مگر مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ تمام امت مسلمہ شیعوں اور غیر مقلدوں کو نکال کر صحابی کے قول و فعل اور ان کے فتاویٰ کو قابلِ عمل و قابل احتجاج و استدلال تسلیم کرتی ہے، تفصیل میری کتاب وقفۃ مع اللامذہبیۃ میں دیکھو۔

عصر کا وقت مثلین تک ہے

فتاویٰ نذیریہ میں ہے:

اس حدیث میں ظہر اور عصر کے اول وقت کا بیان نہیں ہے بلکہ آخر وقت کا بیان ہے، اور مضمون اس حدیث کا یہ ہے کہ ظہر کا وقت زوال آفتاب سے ایک مثل تک ہے، اور عصر کا وقت ایک مثل سے مثلین تک (صہ ۲۱۶ ج ۱)

اس تحقیق انیق کو دیکھ کر بلا اختیار یہ مصرع زبان پر آرہا ہے:

marfat.com

اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی

جس حدیث سے یہ تحقیق انیق پیش کی جارہی ہے وہ یہ ہے۔

صل الظہر اذا کان ظلک مثلک والعصر اذا کان ظلک مثلیک ، رواہ فی الموطا

اہل علم حضرات اس حدیث کو دیکھ کر خود فیصلہ فرمائیں کہ کیا اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ عصر کا آخری وقت صرف دو مثل تک ہے۔

اگر یہ صحیح ہے تو پھر دو مثل سے غروب آفتاب تک جو نماز عصر پڑھی جائیگی وہ خارج وقت میں ہوگی اور وہ ادا نہیں قضا ہوگی۔

اب میں غیر مقلدوں سے پوچھتا ہوں، ذرا وہ ان ائمہ کا نام لیں جن کا یہ مذہب ہو کہ مثلین سے لے کر غروب آفتاب تک جو عصر کی نماز پڑھی جائے گی وہ ادا نہیں قضا ہوگی۔

غیر مقلدین کی دینی فہم کا اسی سے اندازہ لگائیں جو بات کہیں نہیں ملتی وہ ان کے یہاں ملتی ہے، اور وہ اس بارے میں آثار و احادیث سے قطعاً لاپرواہ ہو جاتے ہیں گویا ان کو جو کچھ کسی حدیث سے سمجھ میں آگیا وہ بقیہ احادیث کے خواہ کتنا بھی خلاف ہو اور خواہ وہ امت کے اجماعی مذہب کے خلاف ہو مگر وہ اسی شاذ قول کو اپنائیں گے تاکہ ان کا مقلدین سے امتیاز اور اچھوتا پن باقی رہے۔

زاغ و کرگس پر کوئی بندش نہیں
اور شاہین ہیں کہ زیر دام ہیں

مس ذکر سے وضو ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کی روایتیں

فتاویٰ نذیریہ میں ہے:

سائل کا جواب مختصر یوں ہے کہ ستر کو ہاتھ لگ جانے کے بارے میں

marfat.com

دونوں طرف روایتیں موجود ہیں یعنی بعض حدیثوں میں آیا ہے
کہ اس سے وضو ساقط ہوجاتا ہے اور بعض میں آتا ہے کہ وضو ساقط
نہیں ہوتا اور دونوں قسم کی روایتیں اچھی ہیں (ص ۲۲۴/۱۲)

اس بارے میں غیر مقلدین اپنا مذہب واضح کریں ان کے یہاں مس ذکر سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، اگر نہیں ٹوٹتا ہے تو مس ذکر سے وضو ٹوٹنے والی روایتوں کا کیا جواب ہے اور اگر اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو مس ذکر سے وضو نہ ٹوٹنے والی روایتوں کا ان کے پاس کیا جواب ہے۔

انصاف کا اور اہلحدیث ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب اس بارے میں دونوں طرح کی روایتیں اچھی ہیں، تو دونوں طرح کی روایتوں پر عمل کیا جائے یعنی غیر مقلدین اپنا مسلک یہ بنائیں کہ مس ذکر سے بعض نمازیں یا کچھ روز کی نمازیں تو وضو باقی نہ رہنے کی وجہ سے باطل ہوں اور بعض نمازیں یا کچھ روز کی نمازیں وضو باقی رہنے کی وجہ سے باطل نہ ہوں تاکہ دونوں طرح کی احادیث پر عمل ہو جائے اور اہلحدیث کا اہلحدیث ہونا قولا کے ساتھ ساتھ عملاً بھی ثابت ہو جائے۔

البتہ میری گزارش یہ ہے کہ غیر مقلدین کے اکابر و شیوخ کلام رسول صلے اللہ علیہ وسلم میں تضاد ثابت کر کے انکار حدیث کا دروازہ کھول رہے ہیں، جو بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ حدیث رسول کے ساتھ دوستی نہیں دشمنی ہے۔

آ رہی ہے چاہ یوسف سے صدا
دوست یاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت

marfat.com

امام بخاری کی مخالفت لوہے کے چنے چبانا ہے

فتاویٰ نذیریہ میں ہے :

اکیلے امام بخاری علیہ الرحمہ کو اللہ پاک نے اس فن میں وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ انکی مخالفت لوہے کے چنے چبانے ہیں۔ (صفحہ ۴۲۲ ج۱)

اور غیر مقلدین درج ذیل مسائل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہی نہیں بلکہ ہمارے دنیا کے آقا و سردار نبی خدا صلے اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرکے لوہے کے چنے چبانے کی کوشش میں اپنے دانت توڑ رہے ہیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آنحضور کا یہ ارشاد ذکر کرتے ہیں اذا استیقظ احدکم من نومہ فلیغسل یدہ قبل ان یدخلھا فی وضوئہ، فان احدکم لا یدری این باتت یدہ۔

یعنی آپ صلے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی آدمی جب نیند سے بیدار ہو تو وضو کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنا ہاتھ دھولے اسلئے کہ اسے معلوم نہیں کہ نیند میں اس کا ہاتھ بدن کے کس کس حصہ پر پڑا ہے۔

اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ معمولی نجاست سے بھی پانی اگر تھوڑا ہے تو نجس ہو جائے گا خواہ اس کا رنگ و مزہ اور بو میں تغیر آئے یا نہ آئے۔

جبکہ غیر مقلدین کا مذہب یہ ہے کہ اگر پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف بدلتا نہیں ہے تو نجاست خواہ کتنی بھی پانی میں پڑنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔

بخاری آنحضور کا یہ ارشاد بھی نقل کرتے ہیں۔

اذا اتی احدکم الغائط فلا یستقبل القبلۃ ولا یولھا ظھرہ

marfat.com

یعنی جب آدمی پاخانہ پیشاب کے لئے بیٹھے تو اپنا رخ قبلہ کی طرف نہ کرے ، مگر غیر مقلدین بخاری کی اس روایت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور ان کے نزدیک پیشاب پاخانہ کے وقت قبلہ رو ہونا جائز ہے ۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلے اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لك الحمد

یعنی جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم لوگ ربنا لک الحمد کہو

اس سے معلوم ہوا کہ امام صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہے گا ۔

مگر غیر مقلدین کا مذہب ہے کہ امام یہ دونوں کلمے کہے گا ۔ بخاری میں آنحضور کا یہ بھی ارشاد ہے :

سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یلبس المحرم من الثیاب فقال لا یلبس القمیص ولا العمائم ولا السراویلات ۔

یعنی آنحضور صلے اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محرم کیا پہنے ؟ تو آپ نے فرمایا کہ احرام والا نہ قمیص پہنے گا اور نہ عمامہ اور نہ پائجامہ ۔

مگر غیر مقلدین کے نزدیک محرم سلا ہوا کپڑا پہن سکتا ہے ۔ اس وقت میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ میں آپ کو تفصیل سے یہ بتلاؤں کہ غیر مقلدین احادیثِ رسول صلے اللہ علیہ وسلم کے رد و انکار میں اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں کتنے جری ہیں ، یہ چند حدیثیں تو محض نمونہ کے طور پر ہیں ۔

تفصیل کے لئے میری کتاب مسائل غیر مقلدین دیکھئے ۔

marfat.com

جب مختلف احادیث میں جمع کرنا ممکن ہو تو بعض کا رد کرنا جائز نہیں

فتاویٰ نذیریہ میں ہے۔

وان امکن الجمع بین الاحادیث لم یجز رد بعضھا ص۵۴۶ ج۱

یعنی جب (مختلف) احادیث کے درمیان تطبیق دینا اور جمع کرنا ممکن ہو تو بعض کا رد کرنا جائز نہیں۔

مگر اس اصول پر غیر مقلدوں کا عمل نہیں، یہ صرف اصول ذکر کرتے ہیں اور زبانی قوالی گاتے ہیں۔ کچھ اور نہیں صرف قرأۃ خلف الامام کے سلسلہ میں دیکھئے یہ اپنے اس اصول کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیتے ہیں۔ تفصیل میری کتاب مسائل غیر مقلدین میں دیکھئے۔

اعمال ایمان کا جُز نہیں ہیں

فتاویٰ نذیریہ میں ہے:

۔ اعمال نزد اہل سنت و جماعت داخل جزء ایمان نیست بلکہ از مکملات است بخلاف معتزلہ و خوارج کہ نزد ایشاں اعمال جزء اصل ایمان است۔ (ص۵۴۹ ج۱)

یعنی اعمال اہلسنت و جماعت کے نزدیک ایمان کا جز نہیں ہیں بلکہ اعمال مکملات ایمان ہیں بخلاف معتزلہ و خوارج کے، ان کے نزدیک اعمال ایمان کا جز ہیں۔

یہی بات اگر امام ابو حنیفہ فرما دیں تو وہ "مرجی" کہلائیں اور اگر اس کو غیر مقلدین کہیں تو یہ خالص "اہلحدیث" اور اہلسنت و جماعت کہلائیں واہ رے

marfat.com

یہ دورنگی اور انصاف کا خون۔

یہ علم یہ حکمت، یہ تدبر یہ حکومت
پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات

خیر اس بے انصافی کا بدلہ تو غیر مقلدین کو روز حشر ملے گا۔ یہاں ہمیں ان غیر مقلدین سے پوچھنا ہے کہ اپنے سینہ پر ہاتھ رکھ کر صحیح صحیح بتلاؤ کہ اعمال کے جزء ایمان ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مسلک ہے؟ اور یہ بھی بتلاؤ کہ امام بخاری اہلسنت وجماعت میں سے تمہارے نزدیک ہیں یا نہیں؟ اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ امام بخاری کی مخالفت لوہے کے چنے چبانے ہیں، آخر اس مسئلہ میں تم نے ان کی مخالفت کرکے لوہے کے چنے چبانے کی حماقت کیوں کی، کیا تمہارے دانت اتنے مضبوط ہیں کہ تم یہ لوہے کے چنے چبا لوگے؟

ناظرین کرام میں سے جو اہل علم ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ امام بخاری کے نزدیک بھی اعمال ایمان کا جز ہیں، اور ابھی آپ فتاویٰ نذیریہ کا یہ فتویٰ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ یہ اہلسنت وجماعت کا مسلک نہیں ہے امام بخاری علیہ الرحمہ کو غیر مقلدوں کے جیسا دوست نما دشمن کہاں ملا ہوگا۔ ساری زندگی بخاری بخاری کرتے کرتے آخر میں ان کو اہلسنت وجماعت ہی سے خارج کردیا۔

دشمنوں سے پشیمان ہونا پڑا
دوستوں کا خلوص آزمانے کے بعد

marfat.com

ضعیف حدیث سے جواز و استحباب ثابت ہوتا ہے

فتاوی نذیریہ میں ہے:

"اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بعد فرض نماز کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا درست ہے، اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی عبد العزیز ابن عبد الرحمن متکلم فیہ ہے جیسا کہ میزان الاعتدال وغیرہ میں مذکور ہے لیکن اس کا متکلم فیہ ہونا ثبوت جواز و استحباب کے منافی نہیں کیونکہ حدیث ضعیف سے جو موضوع نہ ہو استحباب و جواز ثابت ہوتا ہے۔" ج ۱ ص ۵۶۴

جی ہاں، احادیث کی ساری کھیتی کے تو تنہا آپ ہی مالک ہیں، جس حدیث کو چاہا قبول کر لیا، جس کو چاہا رد کر دیا، جب من چاہا ضعیف حدیث کو قابل استدلال ولائق جواز و استحباب ٹھہرا لیا اور جب چاہا صحیح حدیث تک کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، فن حدیث اور علم حدیث کی خدائی آپ غیر مقلدوں کے ہاتھ میں ہے، اس خدائی میں تنہا آپ متصرف ہیں کسی کو کیا مجال کہ آپ کے تصرف جائز و ناجائز پر انگلی اٹھا سکے۔

بیس رکعت تراویح والی حدیث صرف ضعیف ہے موضوع نہیں، اور ضعیف بھی ایسی کہ تعامل جمہور سے اس کا ضعف بھی جا تا رہا ہے، مگر اس حدیث سے آپ کو نہ بیس رکعت تراویح کا جواز معلوم ہوتا ہے نہ استحباب اس لئے کہ آبا و اجداد کا مسلک یہ ہے کہ تراویح آٹھ رکعت ہے، اور آٹھ رکعت تراویح کو ثابت کرنے کے لئے ایک طرف غیر مقلدین نے اجماع امت اور تعامل جمہور کا مذاق اڑا کے رکھ دیا ہے تو دوسری طرف تہجد اور تراویح کو ایک ثابت کرنے کے لئے علم و فہم کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی ہیں، تیسری طرف حضرت عمرؓ جیسے جلیل القدر صحابی رسول اور خلیفہ راشد اور فاروق بین الحق و الباطل

marfat.com

کی شان میں گستاخیوں کا پشتارہ کھول دیا ہے۔

فغاں میں، آہ میں، فریاد میں، شیون میں، نالے میں
سناؤں حال دل طاقت اگر ہو سننے والے میں

مشرکوں کے فعل سے استدلال

غیر مقلدین حضرات کے یہاں سجدہ تلاوت کرنا بے وضو بھی جائز ہے اگرچہ یہ مذہب جمہور کے مذہب کے خلاف ہے، اس بارے میں فتاویٰ نذیریہ کا یہ فتویٰ پڑھیں اور غیر مقلدین کے بے اصولے پن ہی پر نہیں انکی فہم دین پر بھی جتنا چاہے ماتم کرلیں یا جتنا چاہیں ہنس لیں۔

فتاویٰ نذیریہ میں ہے:

سجدہ تلاوت جمہور کے نزدیک بے وضو درست نہیں، اور عبد اللہ بن عمر بے وضو سجدہ تلاوت کرتے تھے، اور مشرکین نے بھی بے وضو سجدہ پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیا ہے۔ ص۵۷۱

ملاحظہ فرمائیے ان کا "بے اصولا پن"۔ ایک طرف تو آپ نے بڑے زور و شور سے یہ اصول بنایا ہے کہ صحابی کا قول حجت نہیں، اور صحابی کے فعل سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، اور دوسری طرف اس مسئلہ میں آپ حضرت عبد اللہ بن عمر کے فعل سے بلا وضو سجدہ تلاوت کے جواز پر استدلال کر رہے ہیں۔

ہے کچھ ٹھکانا اس بے اصولے پن کا، جب کہ آپ خود یہ تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ بلا وضو سجدہ تلاوت کرنا جمہور کا مذہب نہیں ہے۔

اور کمال دینداری تو یہ ہے کہ آپ اس "جواز" پر مشرکین کے فعل سے بھی استدلال کر رہے ہیں۔

اس سے دین میں یہ انوکھا "قاعدہ" بھی نکلا کہ کسی شرعی فعل کے جواز یا

marfat.com

عدم جواز پر مشرکین کے قول و فعل سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے (۱)
میں غیر مقلدوں سے یہاں یہ بھی سوال کروں گا کہ ان کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ سجدہ کرنے والے مشرکین صرف بلا وضو تھے، غیر مقلدوں کو ان کا بلا غسل نہ ہونا کس یقینی دلیل سے معلوم ہوا۔
نہ معلوم ان مشرکین میں کتنے بلا غسل رہے ہوں گے، تو کیا غیر مقلدین سجدۂ تلاوت جنبی اور محتلم کے لئے بھی جائز قرار دیں گے؟ نہ جائز قرار دینے کی کیا وجہ ہے؟ اور اگر تمہارے مذہب میں یہ جائز ہی ہے تو اس کا بھی آج فتویٰ دے ہی دو۔

عامل حدیث کے یہ بنے ہیں برائے نام
اوروں پہ اہل رائے کا کرتے ہیں اتہام
یہ مشرکوں کے فعل سے کرتے ہیں احتجاج
توبہ یہی ہے دین تو پھر دین کو سلام
ہے خولکی میں ڈھولکی کے انکا تال و سر
ہے ڈھولکی میں خولکی کے انکی دھوم دھام

جمعہ کا خطبہ سننا فرض ہے

فتاویٰ نذیریہ میں ہے:

جس وقت خطیب خطبہ جمعہ دے رہا ہو اس وقت سلام نہیں کرنا چاہئے کیونکہ سلام کہنا سنت ہے اور خطبہ کا سننا فرض ہے ص۵۵ ج۱

اب کوئی جمعہ کی نماز غیر مقلدین کی مسجد میں پڑھ کر دیکھ لے کہ وہ اس فرض کے کیسے تارک ہیں، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہو گا، اور کوئی صاحب آئیں گے اور دھڑ سے سینہ تک ہاتھ اٹھا کر عین خطیب کے سامنے دو رکعت مزدور پڑھیں گے۔

(۱) اگر کہئے کہ ہم نے اس مسئلہ میں امام بخاری کی تقلید کی ہے تو میں عرض کروں گا کہ جناب ائمہ اربعہ کی تقلید تو آپ حرام تو

ان غیر مقلدوں کو اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ فرض چھوڑ کر سنت میں مشغول ہونا کس اصول سے درست ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول صحیح ہونے کے باوجود قابل رد ہے

فتاویٰ نذیریہ میں ہے:

حضرت علی کا یہ قول لا تشریق ولا جمعۃ الا فی مصر جامع، صحیح ہے، ابن حزم نے اس قول کی تصحیح کی ہے،

مگر یہ خوب یاد رکھنا چاہئے کہ حضرت علی کے اس قول سے صحت جمعہ کیلئے مصر کا شرط ہونا ہرگز ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا، ص۵۱۲ ج۱

خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول سے بھلا کوئی بات کیسے ہرگز ہرگز ثابت ہو سکتی ہے، اور ان کا قول ان اہل توحید وایمان کے نزدیک کیوں کر ہرگز ہرگز درخور اعتنا ہو سکتا ہے اس لئے کہ خواہ وہ خلیفہ راشد ہوں جن کے بارے میں آنحضور کا ارشاد ہے علیکم بسنتی وسنۃ الخلفاء الراشدین یا وہ سابقین اولین میں سے ہوں جن کے بارے میں قرآن کا ارشاد السابقون الاولون من المھاجرین والانصار والذین اتبعوھم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔

بہرحال ہیں تو وہ صحابی اور صحابی کا قول غیر مقلدین کے نزدیک حجت نہیں ہوتا۔ ویسے جب خواہش نفسانی زوروں پر ہوتی ہے تو صحابی کا قول وفعل ہی نہیں مشرکین کا فعل بھی حجت بن جاتا ہے، جیسے بلا وضو سجدہ تلاوت کے جواز کے بارے میں ابھی چند صفحے پہلے آپ نے پڑھا، لاحول ولاقوۃ الا باللہ العظیم۔

علم وعمل کی یہ کوتاہی، قلب ونظر کی یہ گمراہی
آج کا انسان توبہ توبہ! کتنا ہے انجام سے غافل

marfat.com

غیر مقلدین کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فہم پر عدم اعتماد

فتاویٰ نذیریہ میں ہے:

رابعاً یہ کہ ولو فرضنا تو یہ حضرت عائشہ اپنے فہم سے فرماتی ہیں اور فہم صحابہ حجت شرعیہ نہیں ہے۔ ج ۱ ص ۶۳۲

جی ہاں دین و شریعت کے بارے میں فہم عائشہ رضی اللہ عنہا اور فہم صحابہ رضی اللہ عنہم کیوں قابل حجت ہوگا، البتہ غیر مقلدین کے جعادریوں اور جعادریوں کے سردار محدث شوکانی کا فہم ضرور قابل قبول ہوگا۔

پوری تحفۃ الاحوذی کی چاروں جلدیں شوکانی کے کلام سے بھری پڑی ہیں اور نواب صاحب بھوپالی نے علامہ شوکانی کو اپنی عقل بنا رکھا ہے۔

بھلا بتلائیے حضرت عائشہ اور صحابہ کرام کے بارے میں ان غیر مقلدوں کا کتنا گندہ عقیدہ ہے۔

میں نے اپنی کتاب وتحفۃ مع اللامذھبیۃ میں بڑی تفصیل سے یہ ثابت کیا ہے کہ غیر مقلدیت شیعیت کی چھوٹی بہن ہے، اس بحث کو اہل علم حضرات میری اس کتاب میں ضرور دیکھ لیں غیر مقلدوں کے سلسلہ میں بڑی بصیرت حاصل ہو جائے گی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں غیر مقلدین کی جرأت بیجا اور گستاخی

مسئلہ زیر بحث یہ ہے کہ عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کیلئے جانا مناسب ہے یا نہیں؟ آنحضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اگرچہ آنحضور کا عورتوں کے لیے یہی ارشاد تھا کہ ان کو گھر میں نماز پڑھنا مسجد سے بہتر ہے مگر بہر حال

marfat.com

ان کو اس کی اجازت تھی کہ وہ مسجد میں بھی آکر نماز پڑھیں اور عورتیں مسجد میں نماز پڑھا بھی کرتی تھیں، عیدین کی نماز کے لئے عیدگاہ بھی جاتی تھیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت علی اور حضرت معاویہ کے زمانہ تک باحیات رہی ہیں، انھوں نے اپنے زمانہ میں کچھ تغیرات کو ملاحظہ فرمایا، آنحضور کے زمانہ سے جتنا بعد ہوتا گیا آنحضور کے زمانہ کی خیر و برکت بھی اسی اعتبار سے کم ہوتی رہی اور لوگوں کے اخلاق میں بھی نمایاں تغیر ہوتا گیا۔

حضرت عائشہ کا شمار فقہائے صحابہ میں ہوتا ہے، وہ ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو صحابہ کرام میں علمی اعتبار سے بڑا امتیازی حاصل تھا بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے علم و فقہ حاصل کرتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آنحضور کا بھی دور دیکھا تھا اور آنحضور کے بعد کا زمانہ بھی کافی مدت تک انھوں نے پایا تھا، انھوں نے اپنے زمانہ کے حالات کے لحاظ سے یہ محسوس کیا کہ اب عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے آنا مناسب نہیں، آپ فرماتی تھیں کہ آنحضور بھی اگر زمانہ کے اس تغیر کو دیکھتے اور اس وقت لوگوں کے جو حالات ہیں اس کا مشاہدہ کرتے تو آپ خود بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے۔

حضرت عائشہ دین کی فہم شریعت کے مزاج سے علم و واقفیت میں ایک امتیازی حیثیت کی مالک تھیں، وہ حالات کے لحاظ سے عورتوں کو نماز پڑھنے کے لئے گھر سے نکل کر مسجد میں جانے کو بہتر خیال نہیں فرماتی تھیں، یہ ان کی اس زمانہ میں رائے تھی اور یہ رائے نہایت صائب درست اور عاقلانہ و عالمانہ تھی۔

مگر ہائے رے غیر مقلدوں کی اہلحدیثیت کہ اس صائب رائے پر وہ عمل کیا کرتے حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی کرنے لگے، اس مسئلہ میں ابھی آپ نے دیکھا کہ انھوں نے حضرت عائشہ کے فہم دین پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور

marfat.com

کہا کہ حضرت عائشہؓ اس بارے میں جو فرمارہی ہیں وہ اپنی فہم سے فرمارہی ہیں اور صحابہ کا فہم دین میں حجت نہیں۔

اور اب سنئے! اسی مسئلہ میں مزید کیا ارشاد ہوتا ہے۔ فتاویٰ نذیریہ میں اسی مسئلہ کے ضمن میں لکھا ہے۔

پس حکم رسول صلے اللہ علیہ وسلم کا درباب حضوری عورتوں کے عیدگاہ میں اسی اہتمام کے ساتھ بحال خود رہا اور جانا ان کا عیدگاہ میں ثابت ہوا۔ پھر اب جو شخص بعد ثبوت قول رسول وفعال صحابہ مخالفت کرے وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدیٰ ویتبع غیر سبیل المومنین نوله ما تولیٰ ونصله جهنم وساءت مصیرا۔ جو حکم صراحۃً شرع شریف میں ثابت ہوجائے اس میں ہرگز ہرگز رائے و قیاس کو دخل نہ دینا چاہئے کہ شیطان اس قیاس سے کہ انا خیر منه حکم صریح الٰہی سے انکار کرکے ملعون بن گیا ہے اور یہ بالکل شریعت کو بدل ڈالنا ہے۔" (فتاویٰ نذیریہ ج ۱ ص ۶۲۲)

اب ذرا اس فتویٰ کے مندرجات اور اس سے پیدا ہونیوالے نتائج پر غور کریں۔

(۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آنحضور کے فرمان کی مخالفت کی۔

(۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسئلہ میں مخالفت کرکے آیت مذکورہ بالا کا مصداق ہوئیں ـــــ آیت کا ترجمہ یہ ہے:

(ترجمہ) یعنی جو رسول سے اختلاف کریگا جبکہ کھل چکی ہے اس پر سیدھی راہ اور مؤمنین کے علاوہ راہ چلیگا تو ہم اسکو وہی حوالہ کردیں گے جو اس نے اختیار کیا ہے اور اسکو جہنم میں پہونچادیں گے

(۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس مسئلہ میں اپنے قیاس اور رائے کو دخل دیا جو صراحۃً شرع شریف سے ثابت ہے۔

marfat.com

(۴) حضرت عائشہ نے معاذ اللہ شرع شریف میں رائے و قیاس کو دخل دیکر وہی کام کیا جو شیطان نے حضرت آدم کے مقابلہ میں انا خیر منہ کہہ کر کیا تھا اور جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کیلئے ملعون ہوا۔

(۵) حضرت عائشہ نے معاذ اللہ یہ فتویٰ دیکر کہ اب عورتوں کا عیدگاہ اور مسجد میں جانا مناسب نہیں ہے شریعت کو بدل ڈالا تھا۔

ناظرین کرام ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جناب میں یہ گستاخیاں کیا ایک بڑے سے بڑا گناہ گار بھی اگر اس میں ایمان کا ذرا بھی حصہ ہے کر سکتا ہے۔

مگر یہ "فرقہ غیر مقلدہ" اپنی فہم اور اپنے اجتہاد کے زعم میں جس کے بارے میں جو چاہتا ہے بک مارتا ہے، اور وہ منہ پھاڑے یہی شور مچائیگا کہ سچے اہلسنت و جماعت تو ہم ہی ہیں، اور جب ان کی ان گمراہیوں پر ان کو کوئی آگاہ کرتا ہے تو وہ "لاحیاں" سناتے ہیں، گویا انکو تو پورا حق ہے کہ حضرت عائشہ تک پر گندگی اچھالیں، مگر دوسروں کو کوئی حق نہیں۔

نظم گلشن کیلئے باد صبا پر پہرا
صحن گلشن میں مگر برگ خزاں آوارہ

قرآن کا اجرت دیکر سننا

فتاویٰ نذیریہ میں ہے:

سننا قرآن کا اور پڑھنا اجرت کے ساتھ نماز تراویح میں جائز ہے اور ثواب ہوگا، ص ۶۴۲ / ج ۱

یہ فتویٰ رائے اور قیاس سے ہے، یا اس پر کتاب و سنت سے کوئی سند ہے؟ اگر محض رائے اور اپنی فہم سے ہے تو جب حضرت عائشہ اور صحابہ کی

marfat.com

رائے دین میں آپ کے نزدیک معتبر نہیں تو پھر آپ کی رائے اور آپ کی فہم کیوں کر معتبر ہوگی؟

اور اگر اس فتوی کی سند میں کتاب اللہ کی کوئی آیت یا رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے تو اس کو پیش کرتے ہوئے شرم کیوں آرہی ہے۔

سنتِ صحابہ سے استدلال

ایک مسئلہ کے ضمن میں فتاوی نذیریہ کی یہ عبارت ہے:

یہ کیونکہ یہ مسئلہ سنت صحابہ کرام کا ہوا موافق فرمودہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علیکم بسنتی وسنۃ الخلفاء الراشدین المھدیین تمسکو بھا اسی لقب سے اہل سنت والجماعت کے لقب سے ملقب ہوئے۔ صفحہ ۱۶

دیکھا آپ نے غیر مقلدوں کی بیترا بازی، ابھی ابھی آپ نے ان کا اصول یہ معلوم کیا کہ صحابہ کرام کا قول وفعل حجت نہیں ہے، نہ غیر مقلدین کو صحابہ کرام کی فہم پر اعتماد ہے، چند صفحے پہلے آپ نے دیکھا کہ انھوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد کا قول لا تشریق ولا جمعۃ الا فی مصر جامع کو بڑی بے حیائی سے رد کر دیا اس لئے کہ اس سے ان کے مزعومہ خیال نماز جمعہ دیہات میں بھی جائز ہے کا رد ہو رہا تھا۔

اور یہاں سنت صحابہ سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ اور علیکم بسنتی وسنۃ الخلفاء الراشدین والی حدیث یاد آرہی ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ غیر مقلدوں کا نہ کوئی اصول ہے اور نہ قاعدہ یہ اپنی خواہش نفس کے بندے ہیں، جب چاہتے ہیں ایک اصول گڑھ لیتے ہیں۔

marfat.com

ایک نیا روز بدلتی ہے لباس
پیرہن رکھتی ہے دنیا کتنے

جب کسی ضعیف راوی کے ضعف پر سب محدثین کا اتفاق ہو تب وہ روایت مردود ہے۔

آمین بالجہر کے سلسلہ میں ابن ماجہ کی روایت جس میں ہے کہ لوگوں کے آمین کہنے سے مسجد گونج جایا کرتی تھی۔ کو ذکر کر کے غیر مقلدین کے شیخ الکل میاں صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اس حدیث کے بعض راوی ضعیف ہیں لیکن ایسا ایک۔ راوی بھی نہیں جس کے ضعف پر سب محدثین کا اتفاق ہو۔ (فتاوی نذیریہ ص ۴۲۰/۱)

غیر مقلدین میاں صاحب شیخ الکل فی الکل کے اس قاعدہ کو رٹ رٹ کے زبانی یاد کرلیں، اور جب تک کہ کسی ضعیف راوی کے ضعف پر سلفا و خلفا سارے محدثین کا اتفاق نہ ہو وہ اسے قابلِ عمل سمجھیں۔

معلوم نہیں یہ قاعدہ مولانا عبد الرحمٰن صاحب مبارکپوری کو معلوم تھا کہ نہیں غالباً نہیں معلوم تھا ورنہ اپنی مایہ ناز کتاب تحفۃ الاحوذی میں وہ اس پر ضرور عمل کرتے، اور سیکڑوں حدیث پر محض ایک دو محدثین کے ضعیف کہنے سے ضعیف ہونے کا حکم نہ لگاتے۔

راوی کا ضعیف حدیث کو روایت کرنا اسکو قابل اعتبار بنا دیتا ہے

فتاوی نذیریہ میں علامہ شوکانی کا یہ کلام مفید نقل کیا گیا ہے:

روایۃ ضعیف مع الضعف توجب الارتفاع عن درجۃ السقوط الی درجۃ الاعتبار (ص ۵/۲)

marfat.com

یعنی ضعیف روایت کا باوجود اس کے ضعف کے روایت کرنا اس ضعیف روایت کو درجہ سقوط سے اٹھاکر معتبر روایت کے درجہ میں کر دیتا ہے۔

غیر مقلدین اپنے شیخ المشائخ کے اس کلام کو گرہ سے باندھ لیں اور وقت ضرورت اس پر عمل کریں، اور بلاوجہ ہر ضعیف حدیث کو مردود قرار دینے کی روش سے باز آجائیں۔

وتر ایک سے تیرہ رکعت تک

فتاویٰ نذیریہ میں سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ وتر صحیح حدیث سے کے رکعت ثابت ہے، اس کا جواب ملاحظہ ہو:

جواب۔

احادیث صحیحہ سے وتر ایک رکعت، تین رکعت، پانچ رکعت وسات ونو وگیارہ وتیرہ رکعتیں ثابت ہیں،

پھر لکھتے ہیں:

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ وتر کا ادنی درجہ ایک رکعت ہے اور اکمل درجہ گیارہ رکعت ہے۔ ص ۵۴۱/۱۳۰

غیر مقلدوں کی مسجد میں جاکر کوئی دیکھ لے یہ کے رکعت وتر پڑھتے ہیں، انکا عمل ادنی درجہ پر ہے کہ اکمل درجہ پر۔

جہاں تک مجھے علم ہے کوئی غیر مقلد حتیٰ کہ ان کے شیوخ اور علماء بھی گیارہ اور تیرہ رکعت وتر نہیں پڑھتے ہیں۔ میاں صاحب کی یہ بات بھی دیکھئے کہ تیرہ رکعت وتر تسلیم کر کے بھی اکمل درجہ گیارہ ہی کو قرار دے رہے ہیں، گیارہ اکمل کیوں تیرہ اکمل کیوں نہیں۔؟

marfat.com

تارکِ صلوٰۃ نہ مسلم ہے نہ کافر

فتاویٰ نذیریہ میں ہے :

تارکِ صلوٰۃ نزد جمہور علمائے اہلسنت رحمہم اللہ مسلم ست، نہ کافر

یعنی نماز کا تارک جمہور علماء کے نزدیک مسلم ہے نہ کافر

یہ اہل سنت کا مسلک نہیں ہے بلکہ معتزلہ کا مسلک ہے۔ اہل سنت کی طرف اس مذہب کو منسوب کرنا سراسر ان پر افترار ہے، اگر اس عبارت کا کوئی دوسرا مطلب ہے تو غیر مقلدین اس کی تشریح کریں۔

جمعہ کی اذان ثالث

آنحضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ تک جمعہ کی صرف ایک اذان تھی، اور خطبہ کے بعد اقامت کہہ کر نماز شروع ہو جاتی تھی، اس اقامت کو محدثین دوسری اذان کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب مدینہ کی آبادی پھیل گئی تو آپ نے تیسری اذان (جواب پہلی کہلاتی ہے) کو جاری کیا، اور تمام صحابہ کرام نے ان کے اس فعل کو پسند کیا اور آج تک پورے عالم اسلام میں اسی پر عمل ہے، ایک اذان لوگوں کو مسجد میں جمع کرنے کے لئے دی جاتی ہے پھر دوسری اذان خطبہ کے وقت ہوتی ہے اور پھر تیسری اذان نماز شروع کرتے وقت اقامت کی شکل میں ہوتی ہے، سارے مسلمانوں کا حضرت عثمان کے زمانہ سے لیکر آج تک اسی پر عمل ہوتا آیا ہے۔ فتاویٰ نذیریہ کا اب یہ فتویٰ ملاحظہ ہو۔

سوال ۔ جمعہ کے روز اذان ثالث جائز ہے یا نہیں ؟

جواب ۔ جائز ہے ج ۱ ص ۵۰۴

marfat.com

اور اسی فتاویٰ کے ج ۱ ص ۵۰۵ پر یہ عبارت ہے۔

فلما کانت خلافۃ عثمان وکثر الناس امر عثمان یوم الجمعۃ بالاذان الثالث فاذن بہ علی الزوراء فثبت الامر علی ذلک

یعنی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا اور لوگوں کی کثرت ہوئی تو آپ نے اذان ثالث کا حکم دیا، چنانچہ زوراء مقام پر یہ اذان دی گئی اور اسکے بعد سے مسلمانوں کا اسی پر عمل رہا ہے۔

یہ تو ہے علماء غیر مقلدین کا فتویٰ اور اذان ثالث کا اعتراف خط کشیدہ عربی کا جملہ آپ دیکھئے یہ خود بول رہا ہے کہ حضرت عثمان کے زمانہ سے اس پر مسلمانوں کا عمل رہا ہے۔

مگر ان غیر مقلدین کا عمل یہ ہے کہ وہ اجماع امت کے خلاف اس پر عمل نہیں کرتے اور ان کی مساجد میں جمعہ کے روز صرف ایک اذان اور اس کے بعد نماز کے لئے اقامت ہوتی ہے، حضرت عثمان کا یہ عمل سارے صحابہ کو اور دنیا کے سارے مسلمانوں کو پسند آیا نہ پسند آیا تو اس طائفہ نومولود اور فرقہ شاذہ کو، اسی کو میں کہتا ہوں کہ غیر مقلدین کا طائفہ صحابہ کا دشمن ہے، اس کو صحابہ کے عمل سے چڑھ ہے، اس فرقہ میں رافضیت کا کافی عنصر ہے، اس کا شمار اہلسنت وجماعت میں سے محض رواداری کی بنا پر ہوتا ہے، ورنہ دشمنانِ صحابہ کا شمار اہلسنت وجماعت میں سے ہو سمجھ میں نہیں آتا۔

نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ زور سے پڑھنا

فتاویٰ نذیریہ میں ہے۔

جب ثابت ہوا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ اور سورہ کا جہر سے پڑھنا جس حدیث میں مذکور ہے اس کے راوی ٹھیک ہیں اور وہ حدیث

marfat.com

صحیح ہے تو اس پر عمل کرنا جائز ہوا"۔ (ج ۱ ص ۶۶۱)

کیا کہا جائز ہوا؟ کیوں جائز ہی ہوا، واجب کیوں نہیں ہوا؟ قرأت خلف الامام کی صحیح حدیث سے تو قرأت کا امام کے پیچھے نمازوں میں وجوب اور فرض ثابت ہو، اور یہاں صحیح حدیث سے صرف جواز ہی ثابت ہو، یہ دورنگی کیوں؟

اور پھر جب نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ اور کسی سورہ کا ملانا بھی جہراً صحیح حدیث سے ثابت ہے تو غیر مقلدین اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور کیوں نہیں سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ نماز جنازہ میں جہراً پڑھتے ہیں؟ دعویٰ تو بڑے زور دشور کے ساتھ اپنے اہلحدیث ہونے کا کرتے ہیں اور لوگوں کو ما بلبلان نالاں گلزار محمد کی قوالی سناتے ہیں، مگر جب صحیح حدیث پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو کان میں انگلی ڈال لیتے ہیں۔

کہنے کی زباں اور ہے کرنے کی زباں اور۔

کا نقشہ کھنچ جاتا ہے

لبوں پہ حرف محبت دلوں میں بغض و نفاق
یہ دوستی ہے؟ تو پھر دشمنی میں کچھ بھی نہیں

مردہ پر مٹی ڈالتے وقت کچھ پڑھنا معلوم نہیں

فتاویٰ نذیریہ میں ہے:

مردہ پر مٹی دیتے وقت آیت منها خلقنا کم کا پڑھنا معلوم نہیں ص ۶۸۲/۱ج

اور مولانا عبدالرحمٰن مبارکپوری فرماتے ہیں:

اس بارے میں جو حدیث ہے ضعیف ہے (ص ۶۸۴/۱ج ، ص ۶۸۵/۱ج) ہے۔

میں کہتا ہوں کہ حدیث ضعیف ہے تو کیا ہوا، جیسا کہ اس فتاویٰ نذیریہ میں معلوم ہو چکا،

marfat.com

کہ ضعیف حدیث سے اگر وہ موضوع نہ ہو تو جواز و استحباب ثابت ہوتا ہے،
جب جواز و استحباب ضعیف حدیث سے ثابت ہوتا ہے تو مردہ پر مٹی ڈالتے
وقت منھا خلقناکم والی آیت کا پڑھنا جائز و مستحب ہوا، آخر آپ
کو اس سے انکار کیوں ہے۔ غیر مقلدین کا عجب حال ہے صحیح حدیث ہو تو اس
پر بھی عمل نہیں کریں گے جیسا کہ ابھی آپ نے اوپر والے مسئلہ میں دیکھا اور
ضعیف حدیث ہو تو اس پر بھی عمل نہیں کریں گے، اور قرآن ہو تو اس پر بھی عمل
نہیں کریں گے جیسا کہ قرأت خلف الامام والے مسئلہ میں قرآن کی آیت واذا
قری القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا پر عمل نہیں کیا۔

لیکن ماشاء اللہ رہیں گے یہی خالص موحد، خالص اہل سنت وجماعت
اور خالص محمدی و خالص اہل حدیث۔

حنابلہ، مالکیہ اور شافعیہ اہل حدیث نہیں

فتاویٰ نذیریہ میں ہے:

سوال ۔ اگر کسی نے اپنے بیٹے کی بیوی سے جبراً زنا کیا تو وہ بیٹے کے
نکاح سے نکل گئی یا اس کا نکاح بیٹے سے باقی ہے۔؟

جواب ۔ حنابلہ اور حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک وہ عورت اپنے خاوند
کے نکاح سے نکل گئی لیکن شافعیہ اور اہلحدیث کے نزدیک وہ عورت
اپنے خاوند کے نکاح سے باہر نہیں ہوئی (صـ۴۲۶/۲)

اب تک تو صرف احناف ہی "اہلحدیث" کی فہرست سے خارج تھے اس
جواب سے معلوم ہوا کہ حنابلہ، مالکیہ اور شافعیہ بھی اہلحدیث نہیں ہیں۔

علمیت کا غرور اسے رہا ہی
سچ تو یہ ہے بڑی جہالت ہے

marfat.com

مجھے اس وقت اصل مسئلہ میں کچھ غرض نہیں کرنا ہے، ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ حنابلہ مالکیہ اور حنفیہ مذاہب اربعہ میں سے یہ تینوں ایک ہی بات کے قائل ہیں وہ یہ کہ جس باپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے جبراً بھی اگر زنا کیا ہو تو وہ بیٹے کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔

البتہ مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی باک نہیں ہے کہ اس طائفہ محدثہ شاذہ کی یہ جرأت کی انتہا ہے کہ وہ اپنا نام ان ائمہ اربعہ کے ساتھ برابری کے درجہ میں لیتا ہے۔ "اہل حدیث" کا ٹائیٹل لگانے سے کیا اس فرقہ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ مذاہب ائمہ اربعہ کی برابری کے درجہ میں ہو گیا ہے۔

اتنا ہی سر اٹھایئے کہ جس سے یہ تو ہو
لوگوں کے دل میں آپ کی کچھ آبرو رہے

تعویذ لکھ کر گلے میں لٹکانا جائز ہے

فتاویٰ نذیریہ میں ایک سوال یہ ہے کہ گلے میں تعویذ لٹکانی جائز ہے یا ناجائز؟ اس کا جواب ملاحظہ ہو:

"تعویذ نوشتہ در گلو انداختن مضائقہ ندارد .... مگر اشہر و اصح جواز ست" (ص ۲۹۸ ج ۳)

یعنی لکھی ہوئی تعویذ کا گلے میں لٹکانا درست ہے کوئی مضائقہ نہیں زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ جائز ہے۔

مولانا عبدالرحمٰن مبارکپوری نے بھی اس فتویٰ کی تائید کی ہے، ص ۲۹۹ ج ۳

غیر مقلدین کے تمام اکابر دعا و تعویذ کے قائل تھے، اس کی پوری تفصیل میری کتاب "وقفۃ مع اللامذہبیہ" میں دیکھئے۔

مولانا میاں نذیر حسین اور مولانا عبدالرحمٰن مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہما کا

marfat.com

یہاں بھی یہ فتویٰ آپ نے ملاحظہ فرمالیا۔

مگر ادھر چند برسوں سے جب سے غیر مقلدیت میں سلفیت کا پیوند لگ گیا ہے اور "والدنا شیخ ابن باز" کو یہ غیر مقلدین جب سے اپنا مقتدیٰ پیشوا اور اپنے دین ایمان کا مالک سمجھنے لگے ہیں اور جب سے اپنی متاع دین و ایمان "والدنا" کے ہاتھ انھوں نے گروی رکھدی ہے، اس دن سے ان کے نزدیک دعا و تعویذ سب شرکیہ امور بن گئے ہیں، اور تعویذ لٹکانا تو قطعاً حرام اور شرک ہوگیا ہے۔

افسوس یہ غیر مقلدین "والدنا" کے ساتھ جوش عقیدت و محبت میں یہ بھول گئے کہ اگر دعا، تعویذ کرنا شرک ہی ہوا تو پھر شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی۔ اور نواب عالی جاہ صدیق حسن خاں بھوپالی اور مولانا عبدالرحمٰن مبارکپوری کے تجدید ایمان کی ان کے مرنے کے بعد کیا شکل ہوگی، اور آخر ان کو شرک کے پھندے سے نکالنے کی وہ کیا تدبیر کریں گے، شرک کے ساتھ آخر انکی مغفرت کیسے ہوگی؟ آہ رے ان کشتگان سلفیت کی مظلومی اور آہ رے ان کی بے کسی وزاری سلفیت کے ماروں نے کیسے کیسے خون کئے ہیں اور کتنے لہو کے دریا بہائے ہیں، کوئی ہے جو ان ظالموں سے کہے

یہ جو دامن پہ تمہارے ہیں لہو کی چھینٹیں
تم کو ایک عمر گزر جائے گی دھوتے دھوتے

قرآن وحدیث کے علاوہ سے جھاڑ پھونک جائز ہے

مولانا عبدالرحمٰن مبارکپوری ترمذی کی اس روایت کی شرح میں جو مولیٰ آبی اللحم کی ہے، اور جس میں وہ اپنے رقیہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔

عرضت علیہ رقیۃ کنت ارقی بہا المجانین فامرلی بطرح بعضہا

وحبس بعضها ۔ یعنی میں آنحضور کے سامنے اپنے جھاڑ پھونک کے وہ کلمات پیش کئے جن سے میں پاگلوں کی جھاڑ پھونک کرتا تھا۔ تو آپ صلے اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات کی اجازت دی اور اسکو جائز رکھا اور کچھ کلمات کو ساقط کر دیا۔

اس کی شرح میں مولانا مبارکپوری فرماتے ہیں:

وفیه دلیل علی جواز الرقیة من غیر القرآن والسنة

(تحفة الاحوذی ص۳۸ ج۲)

یعنی اس حدیث میں اس کی دلیل ہے کہ جھاڑ پھونک قرآن وحدیث کے الفاظ کے علاوہ سے بھی جائز ہے۔

جی ہاں قرآن وحدیث کے علاوہ سے بھی یاد رکھئے مولانا مبارکپوری صاحب محدث کا یہ فرمان کہ جھاڑ پھونک قرآن وحدیث کے علاوہ سے بھی جائز ہے۔

جماعتِ محدثین کی پہلی کڑی و آخری کڑی

غیر مقلدین جماعت کے شیخ الاسلام مولانا ابوالوفا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

جماعت محدثین کے سلسلہ مذہب کی پہلی کڑی اگر امام مالک ہیں تو ہمارے ملک میں ہمارے علم کے مطابق آخری کڑی حضرت مولانا سید محمد نذیر حسین قدس سرہم ہیں۔ (روئیداد مناظرہ ص۹)

مگر غیر مقلدین جماعت اور خود آپ نے بار بار یہ دعویٰ کیا ہے کہ "اہلحدیث" اسی وقت سے پائے جاتے ہیں جب سے اسلام کا وجود ہوا۔

آپ کے اس بیان کا حاصل یہ ہوا کہ امام مالک سے پہلے کوئی محدث عالم اسلام میں نہیں تھا۔

نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مولانا حافظ عبداللہ غازی پوری اور مولانا عبدالرحمٰن

marfat.com

مبارکپوری بھی محدث نہ تھے، حالانکہ حافظ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو محدث کا لفظ جزو اسم بنا ہوا ہے، اور مولانا عبدالرحمٰن مبارکپوری کو تو اہلحدیث کا طائفہ اپنے دور کا سب سے بڑا محدث سمجھتا ہے۔ اور پھر "اہل حدیث" کا پورا طائفہ ہی اپنے کو "حدیث والا" کہتا ہے، "حدیث والا" ہونا بلا حدیث کے کیسے ہو سکتا ہے۔

استوار علی العرش اور صفاتِ باری کے بارے میں مولانا امرتسری کا عقیدہ

مولانا امرتسری مرحوم فرماتے ہیں:

میں عقیدہ رکھتا ہوں

(۱) استوار علی العرش صحیح ہے۔

(۲) ھو معکم اینما کنتم بھی صحیح ہے

(۳) وھو اللہ فی السمٰوات و فی الارض بھی بلا تاویل تسلیم کرتا ہوں۔

ان تینوں نصوص کو ان کے تراجم کے ماتحت تسلیم کرتا ہوں

نیز فرماتے ہیں:

میں خدا کی صفت قرب و معیت کو اور اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمینوں میں ہونا بلا تاویل یقین کرتا ہوں (ص۱۱ رو بڑی مظالم)

کہاں ہے سلفیت کا نعرہ مارنے والا غیر مقلدین کا موجودہ طائفہ جو کہتا ہے کہ اللہ عرش ہی پر اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے اور اس طرح موجود ہے کہ اسکی طرف اشارہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور جو اسکے خلاف عقیدہ رکھے وہ قرآن کا منکر ہے، وہ کافر ہے وہ اہلسنت و جماعت سے خارج ہے۔

آئیں یہ غیر مقلدین اور اپنے اس شیخ الاسلام کے بارے میں اگر ہمت ہے

marfat.com

اور ان میں دیانت ہے تو شرعی فیصلہ سنائیں۔

نصیحت کی جگہ حسن عمل درکار ہے ناصح
یہ بہتر ہے کہ لفظوں کے بجائے زندگی بولے

میں کسی امتی کا امتی نہیں ہوں

میں تین جنتوں کا قائل ہوں (مولانا امرتسری)

یہی غیر مقلدین کے شیخ الاسلام اور اہلحدیث جماعت کے نامور عالم جنکی پوری زندگی سلفیت اور سنت کی حفاظت اور حمایت میں گزری فرماتے ہیں بلکہ اپنے فرقہ کے علماء کو للکارتے ہیں۔

"میں کسی امتی کا امتی نہیں ہوں .... سنئے آپ کو (یعنی حافظ عبداللہ روپڑی اہلحدیث کو) خوش کرنے کیلئے مزید اطلاع دیتا ہوں کہ میں تین جنتوں کا قائل ہوں، بابا آدم کی جنت موجودہ صلحاء کی جنت، آخرت کی جنت، بس یہ میرا عقیدہ ہے چاہے کوئی متقدمین و متاخرین میں سے اس کا قائل ہو یا نہ ہو۔"

(روپڑی مظالم ص۲۳)

غیر مقلدین حضرات فیصلہ فرمائیں اپنے اس شیخ الاسلام کے بارے میں کہ وہ اہلحدیث باقی رہے یا نہیں؟

اگر اس عقیدہ کے بعد بھی جو کہ سراسر خلاف مذہب سلف و خلف ہے وہ اب بھی شیخ الاسلام اور اہلحدیث ہی ہیں تو پھر گمراہی اور ضلالت آخر کس کا نام ہے۔؟

لوگ ان کے ظلم کا چرچا تو کرتے ہیں بہت
روک دے کوئی یہ ہمت بھی کسی کے پاس ہے

marfat.com

مولانا امرتسری دین میں جدید معنی پیش کرتے تھے۔

مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلدوں کے شیخ الاسلام کا یہ کلام ملاحظہ فرمائیے۔

کس قدر ظلم ہے، اگر میں قواعد عربیہ اور خداداد لیاقت کے ماتحت محض دیانتداری سے کوئی جدید معنی پیش کروں تو مجھ پر آوازے کسے جاتے ہیں۔ (ص۲۶ ایضاً)

واقعۃً وہ لوگ بڑے ظالم ہیں جو اپنے شیخ الاسلام کا احترام نہ کریں اور ان پر ان کی ساری خدمات اسلامیہ کو بھلا کر آوازے کسنے کا برا فعل انجام دیں۔

مگر مولانا آپ نے بھی ساری زندگی مقلدین اور ائمہ فقہ اور خاص طور پر علمائے احناف اور فقہائے احناف پر آوازے کسنے ہی کا فریضہ انجام دیا ہے اپنے عمل کا مکافہ ہر شخص دیر یا سویر پاتا ہی ہے۔ یہی قدرت کا نظام ہے اس پر آپ صبر کریں۔

رہا آپ کا اپنی خداداد لیاقت پر اعتماد کر کے دین میں کسی نئے معنی کو مخترع کرنا تو مولانا صاحب دین میں وہی معنی معتبر ہوگا جس کی سند سلف میں ملتی ہے، اسلئے کہ سلف امت آپ سے زیادہ خداداد لیاقت کے مالک تھے اور قواعد عربیہ وہ آپ سے زیادہ جانتے تھے۔

اپنی خداداد لیاقت سے کام لیتے وقت بس اس کا خیال رکھئے گا تو پھر لوگ آپ پر آوازے نہیں کسیں گے، اور آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔

marfat.com

صرف سود لینا حرام ہے سود دینا نہیں

مولانا امرتسری کا ارشاد گرامی

غیر مقلدین کے شیخ الاسلام اور جمعیۃ اہل حدیث کے بانی مولانا امرتسری مرحوم اللہ ان کے درجات کو ان کی سیئات۔ بلکہ کبائر کو معاف کر کے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کا عقیدہ تھا کہ اسلام میں صرف سود لینا حرام ہے سود دینا نہیں، دیکھئے کیا فرماتے ہیں:

"سنئے، اور کان کھول کر سنئے' آپ نے قرآن مجید سے کوئی آیت اس مضمون کی پیش نہیں کی کہ سود دینا بھی حرام ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ میں خود اس تلاش میں ہوں کہ مجھے کوئی حدیث اس مضمون کی مل جائے جس میں سود دہی کی حرمت بالتصریح موجود ہو۔"

(ص ۳۲ ایضاً)

آپ نے اندازہ لگایا کہ غیر مقلدیت کیا کیا گل کھلاتی ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ تقلید کرو، بڑوں کی پیروی کرو، اسلاف امت پر اعتماد کرو، دین کو اپنی خداداد لیاقت پر بھروسہ کر کے مت سمجھو، فقہائے امت کے دامن میں پناہ لو، حنفی بن جاؤ، مالکی بن جاؤ، شافعی بن جاؤ، حنبلی بن جاؤ، تمہارا دین اور ایمان محفوظ رہے گا، تم سود کے بارے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے نظر نہیں آؤ گے، تمہارے سامنے راہ مستقیم ہوگی اور تم اللہ اور اس کے رسول کی مرضیات معلوم کر لو گے، نہ دین میں تحریف کے مرتکب بنو گے اور نہ تم کو مسائل شرعیہ میں تاویل بیجا کرنی پڑے گی اور نہ تم گمراہ ہو گے اور نہ دوسروں کو گمراہ کرو گے، سن لو غیر مقلدیت ایک زہر ہے ایک بلا ہے اور ایک نشہ ہے ایسا نشہ جو انسان کو بے شعور بے دین اور بے ایمان بنا دیتا ہے، وحرم الربوٰ قرآن کے اس واضح ارشاد کے بعد بھی آپ کو حدیث کی تلاش ہے۔

marfat.com

اور جب تک آپ کو سود دینے کی حرمت میں واضح حدیث نہ مل جائے قرآن نے جس سود کو مطلق حرام کیا ہے آپ قرآن کی اس بیان کردہ سود کی حرمت کو تسلیم نہیں کریں گے ؟

یہی ہے دین تو اس دین مخترع کو سلام

مولانا امرتسری قیاس کرتے تھے

مولانا امرتسری مرحوم اسی رسالہ مظالم روپڑی میں فرماتے ہیں :

"مختصر یہ کہ میں فتویٰ مذکورہ میں حرمت ربوٰ کا منکر نہیں ہوا صرف ایک اضطرار پر دوسرے اضطرار کو قیاس کیا ہے" ص۲۲

مولانا آپ نے یہ کیا فرما دیا ، آپ نے تو یہ بیان کر کے کہ آپ بھی مقلدوں اور اہل رائے کی طرح قیاس کیا کرتے ہیں تمام غیر مقلدیت کی بنیاد ہی کھوکھلی کر دی ، یہی قیاس ورائے تو غیر مقلدوں کا ایک زبردست ہتھیار تھا جس سے یہ جب چاہتے تھے مقلدوں پر دھاوا بولتے تھے ۔

آپ نے یہ ہتھیار بھی ان سے چھین لیا ، اب یہ غیر مقلدین کس منہ سے کہیں گے کہ سب سے پہلا قیاس کرنے والا شیطان تھا جس نے حکم خداوندی کے مقابلہ میں انا خیر منہ کہہ کر بذریعہ قیاس اپنی فضیلت حضرت آدم پر منوانی چاہی تھی اور اس کی وجہ سے وہ مردود و ملعون ہوا ،

بہر حال آپ نے یہ قیاس کر کے غیر مقلدوں کے حق میں ایسا کانٹا بو دیا ہے کہ وہ ان کے تلووں سے اب نکالے نہیں نکلے گا ۔ اور وہ اب تا زندگی

تڑپے ہے مرغ قبلہ نما آشیانہ میں

کا نمونہ بن کر رہ جائیں گے ۔

marfat.com

"اہلحدیث" احباب کے بارے میں مولانا امرتسری کا اظہار خیال

مولانا اپنے اسی رسالہ مظالم روپڑی میں اپنا درد دل یوں بیان کرتے ہیں:

بعض احباب اہلحدیث کی عادت ہو گئی ہے کسی آیت یا حدیث کے جو معنی خود سمجھتے ہیں کسی دوسرے کیلئے اس کے خلاف سمجھنے کا حق تسلیم نہیں کرتے " صـ ۲۵

جی ہاں مولانا یہ عادت صرف بعض احباب کی نہیں بلکہ اس طائفہ کا ہر بڑا چھوٹا اسی مرض کا مریض ہے، اس جماعت کا ہر فرد مدعی اجتہاد ہے۔

مگر مولانا میرا مشورہ ہے کہ آپ ہوں یا آپ کی جماعت کا کوئی فرد ہو قرآن وحدیث کا معنی اور مطلب بطور خود نہ سمجھے تو بہتر ہے، یہیں سے ضلالت کا بیج پڑتا ہے بلکہ ہم سب کو صحابہ کرام اور اسلاف امت اور متقدمین کی فہم وفقہ پر اعتماد کرکے دین کو جیسا انھوں نے سمجھا ہے بس اسی دائرہ میں رہ کر دین کو سمجھنا چاہیئے، دین وایمان کی سلامتی اسی میں ہے، آج کے دور میں فہم کتاب وسنت کے لئے صرف اپنے علم وفہم پر اعتماد کرنا بڑا خطرناک ہے۔

یہ ہے تو بڑا مجاہدہ خصوصاً جن کو علم واجتہاد کا دعوی بھی ہو ان کے لئے تو یہ بہت بڑا مجاہدہ ہوگا، مگر ذرا سا تقلیدی ذہن پیدا کر لینے سے اس مرحلہ کو سر کیا جا سکتا ہے۔

تجھے سرخرو دو جہاں میں کرے ہے
ذرا سی تواضع ذرا انکساری!

marfat.com

قادیانی و شیعہ بھی متقی ہیں

مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری جیسا کہ معلوم ہوتا چلا آرہا ہے کہ اہلحدیث کے زبردست عالم اور ان کے شیخ الاسلام ہیں ان کا یہ بیان ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔

حافظ عبد اللہ اور ان کے نامہ نگار کے نزدیک متقی کا دائرہ اتنا تنگ ہے کہ کوئی دائرہ اتنا تنگ نہ ہوگا، غیر مسلم تو متقی کی تعریف سے بالبداہتہ خارج ہیں، مسلم فرقوں میں سے رافضی خارجی معتزلہ جہمی قادیانی عرشی فرشی وغیرہ سب لوگ غیر متقی ہیں (ص۳ ایضا)

ناظرین کرام خط کشیدہ عبارت میں غور فرمائیں یہ شیخ الاسلام صاحب رافضیوں اور قادیانیوں کو نہ صرف مسلمان اور مومن قرار دے رہے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ان کو اہل تقویٰ میں سے شمار کرتے ہیں اور انکو متقی ہونے کا سارٹیفکٹ عنایت فرما رہے ہیں۔

اللہ اللہ غیر مقلدوں کا دین وایمان اب یہ بھی گوارا کر رہا ہے کہ جو فرقہ اور جو جماعت انبیاء کو گالی دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تہمت تراشے اور نبی ہونے کا دعویٰ کرے صحابہ کرام پر سب وشتم کرے قرآن کا انکار کرے اور اس کے محرف ہونے کا قائل ہو یہ فرقہ اور جماعت نہ صرف مسلمان ہو بلکہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے شامل ہو کر اہل تقویٰ قرار پائے اور اس کا شمار متقیوں میں سے ہو، گویا مولانا بلسان حال عرض فرما ہیں

سکوت چھایا ہے انسانیت کی قدروں پر
یہی ہے موقعِ اظہار آؤ سچ بولیں

marfat.com

مولانا امرتسری کا عقیدہ و مذہب

مولانا ثناء اللہ صاحب مرحوم فرماتے ہیں :

"میں خود کن معنی میں اہل حدیث ہوں، میرا مذہب اور عقیدہ یہ ہے کہ میں خدا اور رسول کے کلام کو سند اور حجت شرعیہ مانتا ہوں، انکے سوا کسی ایک یا کئی اشخاص کا قول یا فعل حجت شرعیہ نہیں جانتا"

(ص ۵۶ ایضاً)

مولانا آپ نے اپنے عقیدہ و مذہب کے بارے میں کوئی نئی بات نہیں کہی ہے تمام غیر مقلدین کا یہی عقیدہ ہے، سب کا یہی عقیدہ ہے کہ اجماع حجت نہیں

این خانہ ہمہ آفتاب است

البتہ ذرا آپ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ جن کو خود رسول اللہ نے حجت قرار دیا ہو اور ان کی سنت وطریقہ کو لازم پکڑنے کی بایں الفاظ تاکید کی ہو۔ علیکم بسنتی وسنۃ الخلفاء الراشدین ان کے قول وفعل کو آپ کیوں حجت نہیں تسلیم کریں گے کیا یہ فرمان رسول کا انکار نہیں ہے نیز آنحضور کا ارشاد ہے کہ میری امت ضلالت پر جمع نہیں ہو سکتی تو پھر آپ اجماع کا کس دلیل سے انکار کریں گے۔ نیز جو قرآن میں فاعتبروا یا اولی الابصار فرمایا گیا ہے۔ اس کا مطلب اگر آپ کے نزدیک قیاس نہیں ہے تو کیا ہے، آخر آپ قیاس کا انکار کر کے قرآن کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے، نیز جن احادیث سے قیاس ثابت ہوتا ہے، کیا آپ ان احادیث کا انکار کر کے قیاس کے حجت شرعیہ کا انکار کریں گے۔ دیکھئے مولانا عبدالرحمٰن مبارکپوری کیا لکھتے ہیں سنئے گا۔ مولانا مبارکپوری محدث علیہ الرحمہ قیاس کو صحیح حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔

marfat.com

صحیح حدیث سے مشروعیتِ قیاس کی دلیل

ترمذی کی روایت ہے :

عن ابن عباس جاءت امرأة الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ان اختی ماتت وعلیھا صوم شھرین متتابعین، قال: ارأیت لوکان علی اختک دین اکنت تقضینہ قالت نعم قال فحق اللہ احق۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلے اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت نے آکر عرض کیا کہ میری بہن کا انتقال ہوچکا ہے اور اس پر دو ماہ کے مسلسل روزے باقی رہ گئے ہیں (میں اس کیلئے کیا کروں؟) تو آپ صلے اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ یہ بتلاؤ کہ اگر تمہاری بہن پر کوئی قرض ہوتا تو تم اس کو ادا کرتیں یا نہیں، اس نے کہا میں اس کو ادا کرتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کا حق زیادہ اس لائق ہے کہ تم اس کو ادا کرو۔

اس حدیث میں آنحضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حق کو بندوں کے حق پر قیاس کرکے اس عورت کو مسئلہ سمجھایا ہے۔

اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ قیاس شرعی ایک اصل ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آنحضور صلے اللہ علیہ وسلم نے بوقت ضرورت خود اس اصل پر عمل کیا ہے، تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ چونکہ قیاس کرنا خود آنحضور کا فعل ہے، اس وجہ سے قیاس کرنا جائز ہے، چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ جو قیاس کا منکر ہے وہ ایک جائز اور مشروع عمل کا منکر ہے جو گمراہی ہے اور پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ جو یہ کہتا ہے کہ قیاس کرنا شیطان کا کام تھا وہ جناب نبوت کا گستاخ ہے اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہئے، چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں شرعی اصول صرف دو ہیں

marfat.com

کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ قیاس اور اجماع کوئی چیز نہیں ہے، ان کا یہ اصول درست نہیں ہے بلکہ ایک اصل شرعی قیاس بھی ہے۔

اس حدیث کی شرح میں مولانا عبدالرحمٰن مبارکپوری محدث لکھتے ہیں۔

فیہ مشروعیۃ القیاس وضرب الامثال لیکون اوضح واوقع فی نفس السامع واقرب الی سرعۃ فہمہ۔ تحفہ ج ۲ ص ۲۲

یعنی اس حدیث سے قیاس کی مشروعیت ثابت ہے اور یہ کہ مثالوں کا بیان کرنا بھی مشروع ہے، اس وجہ سے کہ اسکے ذریعہ بات خوب واضح اور سننے والے کے دل میں خوب جاگزیں ہو جاتی ہے اور اسکو خوب سمجھ میں آجاتی ہے۔

میرے خیال میں گروہ غیر مقلدین میں آہ واہ مچنا شروع ہو گیا ہو گا کہ لو وہ قیاس جس کی تردید میں ہمارے باپ دادوں نے موٹی موٹی کتابیں تالیف کیں ہیں اور جس کو وہ ہمیشہ حرام ناجائز وشیطانی عمل بتلاتے رہے وہی قیاس حدیث اور وہ بھی صحیح (امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن عباس کی یہ حدیث حسن اور صحیح ہے) سے ثابت اور مشروع ہو رہا ہے اور خود مبارکپور کا ہمارا وہ زبردست محدث اس کی مشروعیت پر اسی حدیث ابن عباس سے استدلال کر رہا ہے، جس نے غیر مقلدیت کی آن بان کو بڑی حد تک باقی رکھا تھا، اور ہم مقلدین پر حملہ کرنے کے لئے اسی کی کتابوں سے اسلحہ مہیا کرتے تھے، اور مقلدین کے حملوں سے بچنے کے لئے اسی کی کتابوں میں پناہ لیتے تھے۔

ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے محدث مبارکپوری صاحب آپ نے یہ کیا کر دیا آپ تو علامہ تھے، بڑی بڑی حدیثوں کی آپ نے ٹانگ توڑ دی ہے، انکا بخیہ ادھیڑ دیا ہے، کتنی صحیح حدیثوں کو آپ نے اپنی محدثانہ مہارت اور عالمانہ قابلیت سے ضعیف اور غلط قرار دیا ہے، کیا ہو جاتا اگر اس صحیح حدیث پر بھی آپ اپنی علمیت

marfat.com

اپنی ذہانت اور اپنی محدثیت کا ایک اور نشتر چلا دیتے اور اس حدیث کی صحت کو مبدل بضعف کر دیتے یہ تو آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔

اب ہم کیا کریں، ہائے ہم رسوا ہو رہے ہیں، آپ نے بھی ہماری رسوائی ہی کا سامان مہیا کیا، ہائے، ہائے، ہائے۔

قبلہ دیں مددے　　کعبہ ایماں مددے
ابن قیم مددے　　قاضی شوکاں مددے

بیعت میں سنت کیا ہے

مولانا مبارکپوری کی ہدایت

آپ نے اس سے پہلے اسی کتاب سے معلوم کیا کہ غیر مقلدین کے اکابر پیری مریدی کیا کرتے تھے، بیعت وارشاد ان کا مشغلہ تھا، میاں نذیر حسین دہلوی اور بھوپالی صاحب کا پورا خاندان اسی طرح دیگر اہلحدیث خانوادے پیری مریدی کے قائل تھے۔

اب یہ ہے کہ بیعت کا کیا طریقہ ہو، تو یہ طریقہ مولانا مبارکپوری محدث بتلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

اعلم ان السنة ان تکون بیعة الرجال بالمصافحة۔

(تحفہ ج۲ ص ۳۵۹)

یعنی تم کو معلوم ہونا چاہئے کہ مسنون اور سنت طریقہ یہ ہے کہ مردوں کی بیعت بطریق مصافحہ ہو۔

کہاں ہیں بیعت وسلوک کے منکرین، سنیں مبارکپوری صاحب کیا فرمارہے ہیں؟

یہ چمن تو برق حوادث سے ہو گیا محفوظ　　میری بلا سے اگر میرا آشیاں نہ رہا

marfat.com

اگر کوئی صحیح حدیث قواعد قطعیہ کے مخالف ہے تو وہ ناقابل التفات ہے

اس مسئلہ میں کہ بلا اجازت مسلمانوں کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں دو طرح کی حدیثیں ہیں، بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا اجازت کسی مسلمان کا مال لینا حرام ہے، اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عند الضرورت اگر ارادہ تعدی کا نہ ہو تو جائز ہے۔ اور جواز کی و عدم جواز کی دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔

اسی مسئلہ کے ضمن میں مولانا مبارکپوری حافظ ابن حجر کے اس کلام کو نقل کرتے ہیں اور بزبان خاموشی اس کی تائید بھی کرتے ہیں۔

حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ جواز والی احادیث قواعد قطعیہ کے خلاف ہیں اس وجہ سے ان پر عمل نہیں ہوگا اور نہ ان کی طرف التفات ہوگا۔

وبانہ معارض للقواعد القطعیۃ فی تحریم مال المسلم بغیر اذنہ فلا یلتفت الیہ (ج۲ ص ۲۶۴ تحفہ)

یعنی چونکہ جواز والی حدیث .. مال مسلم کو بلا اس کی اجازت لینا حرام ہے، اس قطعی اصول وقاعدہ کی معارض ہے، اس وجہ سے (اگرچہ وہ صحیح ہے مگر) وہ ناقابل التفات ہے۔

غیر مقلدین کے محدث مولانا عبدالرحمٰن مبارکپوری نے اس قاعدہ کی تائید ہی میں حافظ ابن حجر کا یہ کلام نقل کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ . یہ قطعی قاعدہ . کیا اللہ اور اس کے رسول کا فرمودہ اور وضع کردہ ہے کہ اسکے مقابلہ میں آپ صحیح حدیث کو چھوڑ دیں گے؟ اور جب آپ کا بھی قاعدہ اور اصل یہی ہے کہ قواعد قطعیہ کے مقابلہ میں جزئیات کو بتلانے والی

marfat.com

صحیح حدیثوں کو اسلئے چھوڑا جاسکتا ہے تاکہ قاعدہ کلیہ قطعیہ پر حرف نہ آئے اور ان جزئیات کی وجہ سے اس کی کلیت متاثر نہ ہو۔

تو پھر آپ کے کس منہ سے دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں اگر ان دوسروں کے یہاں بھی یہی اصول اور قاعدہ ہو کہ

۔ قواعد کلیہ کے مقابلہ میں جزئیات کو ترک کر دیا جائے گا۔

اگر کوئی دوسرا یہ اصول وضع کرتا ہے تو وہ مخالف کتاب وسنت ہونے کا طعنہ آپ لوگوں ہی سے سنتا ہے۔

اور اگر آپ خود یہ اصول وضع کرتے ہیں، تو آپ اہل توحید وایمان اور اہل سنت وجماعت اور اہلحدیث قرار پاتے ہیں۔

ظلم ہم پر ذرا سمجھ کے کرد
اے بتو بندۂ خدا ہیں ہم

غیر مقلدین کا تعارف مولانا محمد جوناگڈھی کے قلم سے

مولانا محمد جوناگڈھی جماعت اہلحدیث کے پیشوا اور اس جماعت کی ایک مؤقر شخصیت کا نام ہے، ان کا درج ذیل بیان جو انھوں نے بڑے دکھی دل سے تحریر کیا ہے آپ بھی ملاحظہ فرمالیں اسی سے معلوم ہو جائے گا کہ غیر مقلدین کا تعارف اس زمانہ میں کیا ہے، مولانا جوناگڈھی اپنے رسالہ ”ہدایۃ محمدی ص۳۲“ میں فرماتے ہیں۔

مجھے معاف رکھا جائے اگر میں کھلے الفاظ میں کہہ دوں کہ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کا اسلام اور تھا اور ہمارا اور ہے (۱) اگر وہ کامل مسلمان تھے تو ضرور ہمارے اسلام میں نقصان ہے (۲) اور جانئے

(۱) بے شک (۲) ہم آپ کے اس اعتراف پر آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔

اگر ہم باوجود ان ڈھنگوں کے کامل مسلمان ہیں تو وہ اسی اسلام سے یقیناً بہت دور بلکہ محروم تھے (۱) ہمارے زمانہ میں صرف قرآن وحدیث کا نام رہ گیا ہے (۲)، عمل کیلئے اور چیز ہے اور ترک کیلئے اور چیز (۳) .... و نبذوا کتاب اللہ وراء ظھورھم کے پورے مصداق ہم بن گئے ہیں۔ (۴)

یہ ہم، ہم، جو جوناگڈھی صاحب فرمارہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا اول مصداق تو یہی فرقہ غیر مقلدین ہے پھر بعد میں کوئی دوسرا اس "ہم" سے مراد ہوگا۔

مولانا جوناگڈھی کا یہ تعارف بڑا جامع ہے، اہلحدیثوں کے لئے ایک آئینہ اس میں اہلحدیث صبح شام روزانہ اپنا منہ دیکھ لیا کریں اور خدا توفیق دے تو اصلاح حال کی کوشش کریں۔

اہلحدیث کے حق پر ہونیکی دلیل

مولانا جوناگڈھی فرماتے ہیں:

"میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کو بطور نمونہ آپ کے حنفی مذہب کی معتبر کتابوں کا صحیح فوٹو دکھانے کیلئے ان فقہ کی کتابوں میں سے صرف ایک

---

(۱) نہیں وہ نہیں آپ اور صرف آپ اسلام کی دولت سے محروم ہیں ورنہ توسل بالاموات آپ کے یہاں کیوں جائز ہوتا، اور یا علی، یا شیخ اور یا مدار کا نعرہ کیوں مباح ہوتا (۲) مرثیہ پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں آپ غیر مقلدین آج سے قرآن وحدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں، مرثیہ پڑھنا اور نوحہ کرنا شیعوں کا کام ہے (۳) پھر بھی آپ اہلحدیث ہی ہیں (۴) یہ سب عدم تقلید کا کرشمہ ہے، نہ "یہ" کرتے نہ "وہ" ہوتے۔

marfat.com

کتاب کے چند مسائل سناؤں .... میرا خیال ہے کہ مضمون مندرجہ ذیل کو دیکھ کر آپ کو قطعاً یقین ہو جائے گا کہ اہلحدیث حق پر ہیں .. (ہدایت محمدی صہ؟)

مولانا کے اس کلام پر درج ذیل سوالات واقع ہوتے ہیں۔

(۱) اہل حدیث کے حق پر ہونے کی یہ دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی کس آیت و حدیث میں وارد ہوئی ہے۔

(۲) یہ دلیل آپ کی قیاسی ہے یا قطعی، اگر قطعی ہے تو اسکی قطعیت کتاب وسنت سے ثابت کیجیے اور اگر قیاسی ہے تو قیاس کرنا آپ کے یہاں حرام ہے کیا اسی حرام دلیل سے آپ اپنی جماعت کی حقانیت ثابت کریں گے۔

(۳) یہ اگر دلیل قطعی نہیں ہے اور یقینا قطعی نہیں بلکہ ظنی ہے تو کیا ظنیات سے بھی آپ کے مذہب میں یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔

(۴) کیا اسی دلیل سے آپ کے مذہب کے بطلان کو کوئی ثابت کر دے تو آپ اسے تسلیم کریں گے اور دوسرے کے مذہب کے حق ہونے کا اقرار کریں گے۔

جماعت اہلحدیث کی بہت معتبر کتاب " نزل الابرار من فقہ النبی المختار " کے درج ذیل مسائل پر غور کر کے بتلائیے کہ ان کا ثبوت قرآن کی کس آیت یا آنحضور کی کس حدیث سے ہے۔

(۱) خلفائے راشدین کو گالیاں دینے سے آدمی کافر نہیں ہوتا جہ۲ صہ ۲۱۸

(۲) ولید، معاویہ، عمرو مغیرہ، سمرہ فاسق ہیں، جہ۳ صہ ۹۴

(یہ سب صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم)

(۳) خدائے تعالیٰ جس شکل میں چاہے تجلی فرما سکتا ہے جہ۱ صہ ۳

(۴) زندہ اور مردہ بزرگوں کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے جہ۱ صہ ۵

(۵) صحیح یہ ہے کہ شراب ناپاک نہیں ہے جہ۱ صہ ۱۹

marfat.com

(۶) مرد عورت ننگے ہو کر شرم گاہ ملائیں تو وضو نہیں ٹوٹتا ج ۱ ص ۱۹

(۷) اگر انگلی پاخانہ کی جگہ داخل کی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ج ۱ ص ۲۰

(۸) اگر لوہے اور لکڑی کا ذکر اندر غائب ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائیگا ج ۱ ص ۲۰

(۹) قرآن پاک پر غلاف ہو تو سر کے نیچے یا پیٹھ کے پیچھے رکھ لینا مکروہ نہیں ہے ج ۱ ص ۲۰

(۱۰) کتے کا پیشاب اور پاخانہ بھی پاک ہے ج ۱ ص ۵۰

(۱۱) ساس کا بوسہ لیا اس کو کاٹا گلے لگایا بلکہ اس سے صحبت بھی کی تو نکاح قائم رہا ج ۲ ص ۲۸

(۱۲) شراب پینے والے کا جھوٹا ہر حال میں پاک ہے چاہے شراب پیتے ہی فوراً جھوٹا کر دے ج ۱ ص ۳۱

(۱۳) حالت اعتکاف میں بغیر شہوت مباشرت کی تو کوئی مضائقہ نہیں ج ۱ ص ۲۳۸

(۱۴) اگر نمازی کی زبان سے "ہاں" "یا" "البتہ" "یا" "نہیں" نکل گیا تو نماز نہیں ٹوٹتی ج ۱ ص ۱۰۹

(۱۵) اگر کیچڑ میں پانی غائب ہو تو اس سے تیمم جائز نہیں ج ۱ ص ۳۴

یہ چند مسائل بطور نمونہ کے ہیں، میرے پاس اس قسم کے دو سو مسائل ہیں جن کو ذکر کرتے ہوئے شرم و حیا مانع ہے غیر مقلدین ان دو سو کی نہیں صرف ان پندرہ مسائل کی کتاب و سنت سے دلیل پیش کر دیں۔

کتنی شرم و حیا، اور بے غیرتی اور بد دینی کی بات ہے کہ ان مسائل کو اللہ کے رسول صلے اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اور ان کا نام "فقہ النبی المختار" رکھا گیا ہے۔

من کذب علی متعمدا کی حدیث کو ان غیر مقلدوں نے بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے، مولانا محمد جوناگڈھی کو صرف ہدایہ یاد آتی ہے اور ان کی میٹھی میٹھی نظر درمختار پر پڑتی ہے (۱) اور انکو اپنی آنکھوں کا شہتیر نظر نہیں آتا۔

---

(۱) مولانا کی ایک کتاب کا نام ہے "درمختار پر میٹھی نظر"

بہرحال تمام غیر مقلدین اور مولانا محمد صاحب کو معلوم ہونا چاہئے کہ :

یہ برق و باد کا طوفاں تو ساز و ساماں ہے
ہمارے جذبۂ تعمیر آشیاں کے لیے

غیر مقلدین المعروف باہل الحدیث یہ بھی سن لیں ۔

یہ وہ لمحہ ہے کہ اب بھی نہ اگر ہوش آیا
موت کو سامنے پاؤ گے جدھر جاؤ گے

پہلے اپنے گھر کی حفاظت کر کے دوسروں کے گھروں پر سنگباری کرنی چاہئے
فقہ النبی المختار کے ان مسائل کو دیکھ کر یقیناً غیر مقلدین کہتے ہوں گے ۔

ہائے کیسی بن گئے تصویر خزاں کی !
آئے تھے گلستاں میں بہار کی طرح ہم

ہم محمدی تو ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں

مولانا محمد جوناگڑھی بڑے فخر سے لکھتے ہیں :

"ہم محمدی تو ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں ان فقہ کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں" (ہدایت محمدی ص۱۰۱)

آپ محمدی تو اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں ، مثلاً آپ محمدی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی دین میں حجت نہیں ، آپ محمدی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے موٹے موٹے کھلے کھلے روزمرہ کے مسائل میں غلطیاں کی ہیں آپ محمدی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خطبہ جمعہ میں خلفائے راشدین کا نام لینا بدعت ہے آپ محمدی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو صرف سترہ حدیث یاد تھی ، آپ محمدی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شراب پینے والے کا جھوٹا پاک ہے ، آپ محمدی تو کتے کا پیشاب پاخانہ بھی جائز بتلاتے ہیں ۔

marfat.com

اور یہ سب آپ محمدی ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں تو بھائی آپ کے چاند پر تھوکنے سے چاند گدلا تو ہو نہیں جائے گا، نہ کتے کا بھونکنا سورج کو بے نور کرے گا، کہیے ڈنکے کی چوٹ کہیے مگر یہ بتلائیے کہ وہ جو آپ کے شیخ الکل فی الکل تھے۔ یعنی وہی میاں نذیر صاحب دہلوی انھوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی ہدایہ کو پڑھنے پڑھانے میں گذار دیا جس ہدایہ سے آپ نے سو مسئلے بطور نمونے یہاں یہ بتلانے کے لئے پیش کئے ہیں کہ یہ سب کتاب و سنت کے خلاف ہیں آخر ان میاں صاحب کو اس فقہ کو پڑھنے پڑھانے کی کیا ضرورت تھی اور جو فتاویٰ نذیریہ کی تین جلدیں اسی فقہ کے مسائل سے پر ہیں آخر یہ بیہودہ کام میاں صاحب نے اور مولانا مبارکپوری نے کیوں انجام دیا؟

اور پھر آپ محمدی ہیں کہ احمدی، موحد ہیں کہ وہابی، غیر مقلد ہیں کہ اہلسنت، سلفی ہیں کہ اثری یا اہلحدیث۔

یہ متعدد نام جو آپ نے اپنا رکھ رکھا ہے یہ کیوں، دل میں کچھ چور تو نہیں ہے یہ کسی اہل حق جماعت کا شیوہ تو نہیں ہے کہ وہ نام رکھنے کا یہ بیہودہ طریقہ اختیار کرے۔

یہ بھی پہچان ہے ایک تیرے ذہن کی
ہر ادا، ہر سخن تاجروں کی طرح

حنفی اور اہلحدیث اصولاً ایک ہیں

مولانا محمد جوناگڈھی لکھتے ہیں:

یہ ملک ہند کے سنی مسلمانوں کے یہ دو بڑے بڑے فریق یعنی حنفی اور اہلحدیث تو متفق ہو جائیں جو اصولاً قریب قریب ایک ہیں[1]

---

(۱) یہ جوناگڈھی صاحب جو یہاں یہ فرماتے ہیں کہ محمدی اور حنفی اصولاً تقریباً ایک ہی ہیں صرف

marfat.com

ہاں البتہ بعض فروعات میں اختلاف ہے: (ص۲ دلائل محمدی)

سن لیں غیر مقلدین اپنے اس بڑے عالم کا یہ فرمان کہ حنفی اور اہلحدیث اصولاً قریب قریب ایک ہیں، ہاں البتہ بعض فروعات میں اختلاف ہے۔

جب حنفی اور اہلحدیث کا اصول تقریباً ایک ہی ہے تو پھر محض چند جزئیاتی مسائل میں اختلاف کی وجہ سے غیر مقلدین کو مشرک کہنا اور تقلید کو شرک بتلانا گمراہی اور ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے، اور ان کے رد میں کتابوں پر کتابیں لکھنا بے شرمی نہیں تو کیا ہے اور فقہ کے خلاف بدزبانیاں کرنا حماقت نہیں تو کیا ہے۔

یہاں پر بڑی خوبصورتی اور چالاکی سے مولانا جونا گڈھی اہلحدیث کو بھی سنی مسلمانوں کا ایک بڑا فریق ثابت کر رہے ہیں اگر ہم ان کے لحاظ میں اہلحدیث فرقہ کو سنی فرقہ تسلیم بھی کر لیں تو بھی یہ بات قطعاً ناقابل تسلیم ہے کہ وہ فرقہ اہلسنت کا ہندوستان میں کوئی بڑا فرقہ ہے۔

اہلحدیث جماعت دال میں نمک کی طرح ہے اور اب کے اہلحدیث کو تو اہلسنت میں سے تسلیم کرنا بھی مشکل ہے، اسلاف امت کی شان میں بدزبانیاں کرنے والوں کو اہلسنت کہنا اور اہلسنت سمجھنا کسی باغیرت مسلمان کیلئے بہت مشکل ہے، رواداری اور مصالحت کی ایک حد ہے اور اس حد کو طائفہ غیر مقلدین پار کر چکا ہے، اسلئے ان کے اہلسنت اور اہلحدیث سمجھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں

بعض فروعات میں اختلاف ہے، اپنی کتاب "درمحمدی" میں لکھتے ہیں "حنفیوں اور محمدیوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ علاوہ فروعی مسائل کے اختلاف کے اصولی اختلاف جو فریقین کے درمیان سد سکندری کی طرح حائل ہے وہ یہ ہے (درمحمدی ص۲)

پھر سکندری والا اختلاف لکھا ہے: اب ناظرین غور کریں کہ یہ غیر مقلدین کتنے بڑے قوال ہیں، انکی قوالیوں کا آہنگ وصوت اور نغمہ وراگ حسب موقع بدلتا رہتا ہے، جو ایک ماہر قوال کی علامت ہوتی ہے۔

marfat.com

خواہ یہ فرقہ منکرین حدیث کی طرح اپنا جو چاہے نام رکھ لے اور قادیانیوں کی طرح اپنے کو احمدی کے بجائے محمدی کہے، مگر پاخانہ پر ورق زریں چڑھا دینے سے پاخانہ کی حقیقت تو نہیں بدلتی وہ نجس کا نجس ہی رہے گا۔

چاروں ائمہ کی عزت

مولانا محمد جوناگڈھی لکھتے ہیں:

ہم اہلحدیث بزرگان دین کی عموماً اور چاروں اماموں کی خصوصاً تہ دل سے عزت کرتے ہیں۔ عقیدہ محمدی صہ۲

آپ اہلحدیث تو جتنی ان ائمہ اربعہ کی عزت کرتے ہیں وہ تو اظہر من الشمس ہے اور آپ حضرات کی کتابوں سے واضح ہے۔

رہا بزرگانِ دین کی عزت کا معاملہ تو وہ سن لیجئے کہ آپ لوگوں کا طبقہ انکی کیسی عزت کرتا ہے۔

شیخ ابن عربی کو بزرگان دین میں جو مقام حاصل ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں ان کے بارے میں ایک غیر مقلد لکھتا ہے:

ابن عربی صوفی اپنی تصوف کی گمراہ کن کتاب فصوص الحکم وغیرہ میں حلاج کی عظمت کا بہت تذکرہ کرتے ہیں۔ (فضیحت ننگ صہ۱۷۸)

دیکھا آپ نے بزرگوں کی تعظیم کا انداز، یہی غیر مقلد لکھتا ہے:

خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی، علی ہجویری معروف بہ داتا گنج بخش لاہوری ہندوستانی حنفی تصوف کے سرتاج ہیں (ایضاً صہ۱۸۱)

دیکھئے ان بزرگوں کی کیسی تعظیم کی جا رہی ہے۔ یہی غیر مقلد لکھتا ہے:

حضرت جنید بغدادی کے شاگرد اور مرید شبلی نے بھی انھیں حلاج کو اپنا ساتھی قرار دیا۔۔ صہ۱۸۱

marfat.com

یہ بھی تعظیم کا انوکھا انداز ہے۔

اسی غیر مقلد نے اپنی کتاب میں شیخ نظام الدین اولیاء، مجدد الف ثانی شیخ ابو اسماعیل ہروی رحمہم اللہ کے بارے میں ایک ایک کا نام لیکر بدزبانی کی ہے۔

شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں لکھتا ہے۔

اور غنیۃ الطالبین، فتوح الغیب اور الفتح الربانی کے مصنف شیخ عبد القادر جیلانی اس نظریہ کے جھنڈے اٹھائے پھر رہے ہیں،

(ایضاً ص۱۸۵)

سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی کیسی عظمت و توقیر کی جارہی ہے۔ غرض ان غیر مقلدوں کی زبان کچھ اور ہوتی ہے عمل کچھ اور ہوتا ہے۔

"کہنے کی زباں اور ہے کرنے کی زباں اور"

یہ پکے تقیہ باز اور منافق ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بزرگوں کے دربار میں ان کا گزر نہیں، اور نہ ان کی زبان پر اخلاص سے بزرگوں کا تذکرہ کبھی آتا ہے۔ اللہ والوں کی عداوت اور بغض نے ان کا دل سیاہ کردیا ہے۔

آنحضور کے روضہ کی زیارت

مولانا محمد جوناگڈھی لکھتے ہیں:

ہم آپ کے روضہ مبارک کی زیارت کو مسنون اور کار ثواب جانتے ہیں۔ (ص ۵ عقیدہ محمدی)

شد رحال کے ساتھ کہ بغیر شد رحال کے؟

شد رحال کے ساتھ تو غیر مقلدوں کے عقیدہ میں شرک ہے، اور بغیر شد رحال کے آپ مدینہ منورہ شریف آنحضور کے روضہ کی زیارت کو جائیں گے کیسے؟

marfat.com

مولانا نوری سے کام نہ لیں صاف لکھیں کہ یہ روضہ مبارک کی زیارت شد رحال کے ساتھ مسنون ہے کہ بغیر شد رحال کے، یا آپ کو کوئی فرشتہ اور جنات اٹھا کر لے جائے گا۔

ایمان نام ہے قول، فعل، عقیدے کا

فرماتے ہیں مولانا جوناگڈھی صاحب:

ایمان نام ہے قول فعل عقیدے کا (صـ۲ ایضا)

یعنی کیا مطلب ہے؟

اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک نہ ہو تو نفس ایمان ختم ہو جائے گا یا باقی رہے گا؟ اور کلمہ پڑھنے والا جس نے دل سے کلمہ پڑھا ہو کسی عمل کے چھوڑ لے پر مسلمان باقی رہے گا یا نہیں؟ تفصیل فرما کر اپنے اس عقیدہ کو اس پر فٹ کیجئے۔

ہم عبدالوہاب نجدی اور نہ کسی زندے مردے کے مقلد ہیں

یہی جوناگڈھی صاحب فرماتے ہیں:

ہم عبدالوہاب نجدی کے مقلد نہیں نہ کسی اور زندے مردے کے

(صـ۶ عقیدہ محمدی)

ذرا زبان کی شیرینی ملاحظہ کیجئے اور ان کے دل میں جھانک کر دیکھئے اس عبارت کے انداز ہی سے تقلید اور مقلدین سے نفرت کی بو آرہی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اگر آپ مقلد ہوتے تو آپ کا نام غیر مقلد کیوں پڑتا غیر مقلد ہونے کا تو مطلب یہی ہے کہ آپ کو زندہ مردہ کسی سے کوئی نسبت نہیں ہے، جب ہی تو آپ کا شمار فرقہ شاذہ میں سے ہے۔

marfat.com

آپ جس حقارت سے "عبدالوہاب نجدی" کہکر جس شخصیت کا صحیح نام بھی نہیں لے پا رہے ہیں اگر آپ زندہ ہوتے تو یہ بھی تماشا دیکھتے کہ آپ کی جماعت کا ہر غیر مقلد آج انکو شیخ الاسلام والمسلمین کہتا ہے اور اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اللہ رسول اگرچہ چھوٹ جائیں مگر اس "عبدالوہاب نجدی" کا دامن اس سے نہ چھوٹے۔

آبرو شرط ہے انساں کیلئے دنیا میں
نہ رہی آب جو باقی تو گوہر ہے پتھر

ہم محمدی ہیں ہم اہلحدیث ہیں

مولانا محمد جوناگڈھی لکھتے ہیں:

ہم جناب پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں یعنی ہم محمدی ہیں .... ہم صرف قرآن وحدیث کو قابل اتباع جانتے ہیں اور قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے اسلئے ہم اہلحدیث ہیں (ص۶ عقیدہ محمدی)

قرآن کو جہاں حدیث کہا گیا ہے وہ آیت پیش کیجیے، قرآن میں ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث۔ قرآن کو احسن الحدیث کہا گیا ہے اس لئے آپ کا صحیح نام اہل احسن الحدیث ہونا چاہیے، اور پھر جب قرآن کو بقول آپ کے حدیث کہا گیا ہے تو اپنا نام اہل قرآن رکھتے ہوئے کیوں شرم آ رہی ہے۔ رکھ لیجئے جو چاہے اپنا نام قادیانی بھی اپنے کو احمدی کہتے ہیں، آپ محمدی ہیں اور وہ احمدی۔

خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو

جہاں پر حدیث کا لفظ آپ نے دیکھا ہے اسی آیت میں قرآن کو کتاباً متشابہاً بھی کہا گیا ہے، تو آخر آپ کا نام "اہل الکتاب المتشابہ" کیوں نہ ہو

marfat.com

اس نام سے کیوں آپ کو حیا دامنگیر ہے۔

اگر نام رکھنا ہی کسی جماعت کی حقانیت کی دلیل ہے تو پھر سب سے بڑی حقانی جماعت معتزلہ کی ہو گی وہ اپنے کو "اصحاب العدل والتوحید" کہتے ہیں۔ نام جو چاہے رکھ لو تمہارے منہ میں زبان ہے ہاتھ میں قلم ہے۔ دماغ میں ہوس ہے، نفس میں طمع ہے قلب میں زعم دیندار ہے مگر یاد رکھو

نہ جس میں سوز ایمانی نہ جس میں روح قرآنی
مسلمانوں کو ایسی زندگی راس آ نہیں سکتی

حضرت ابوبکر اور خلفائے راشدین کی شان میں مولانا محمد جوناگڈھی غیر مقلد عالم کی گستاخی

مولانا محمد جوناگڈھی جنکے دل میں عشق محمدی اور اتباع سنت کی آگ لگی ہوئی ہے اور جس کی گرمی سے ان کا دماغ پاگل ہو گیا ہے۔ انھوں نے حضرت عمر کی شان میں یہ گستاخی کی تھی کہ ان کے بارے میں لکھا تھا حضرت عمر موٹے موٹے مسائل اور روزمرہ کے مسائل میں موٹی موٹی غلطیاں کرتے تھے۔

(طریق محمدی ص۱۴)

اب یہی عشق نبی کے متوالے صاحب حضرت ابوبکر کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، فرماتے ہیں:

"برادران حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی مرتضیٰ قطعاً اپنی اپنی خلافت کے زمانہ میں دونوں معنی کے لحاظ سے اولی الامر تھے لیکن باوجود اسکے نہ تو کسی صحابی نے انکی تقلید کی نہ کوئی انکی طرف منسوب ہوا، بلکہ ان کے اقوال کی خلاف ورزی کی جبکہ وہ فرمان خدا و فرمان رسول کیخلاف نظر آئے"

marfat.com

ناظرین اس عبارت میں غور فرمائیں یہ غیر مقلد عالم جنون کی کس حد تک پہونچ چکا ہے، یعنی اس عبارت کا حاصل یہی تو ہوا کہ خلفائے راشدین معاذاللہ فرمان خدا و فرمانِ رسول کی مخالفت کرتے تھے اور جب وہ فرمانِ خدا و فرمانِ رسول کی مخالفت کرتے تھے تو صحابہ کرام انکی مخالفت کرتے تھے، کیا یہ کلام کسی صحیح العقیدہ سنی مسلمان کا ہو سکتا ہے کیا اس کلام میں شیعیت کی روح نہیں بول رہی ہے۔

پھر یہ جوناگڈھی مولوی اس کے آگے جو کچھ لکھتا ہے اس میں حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی پر حملہ اور نہایت ہی ناروا حملہ ہے، وہ اس بات کی مثال میں کہ جب خلفاء راشدین فرمان خدا و فرمان رسول کی مخالفت کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام انکی بات نہیں مانتے تھے اور خلفاء راشدین کی مخالفت کرتے تھے۔ یوں لب کشا ہے:

"مرتدوں کی قیدی عورتوں کو حضرت ابوبکرؓ نے لونڈیاں بنائیں لیکن حضرت عمر نے اس کے خلاف کیا (پہلی مثال)

لڑکر فتح کی ہوئی زمین حضرت ابوبکرؓ نے تقسیم کی لیکن حضرت عمر نے نہیں کی۔ (یہ دوسری مثال)

انعام کی برابری حضرت ابوبکر کے نزدیک تھی لیکن حضرت عمر نے زیادتی کی۔ (تیسری مثال)

حضرت ابوبکر نے اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا لیکن حضرت عمر نے نہیں کیا (یہ چوتھی مثال)

پھر اس کے بعد جوناگڈھی صاحب فرماتے ہیں اور بھی بہت سے واقعات اور بہت سی مثالیں ہیں، (طریق محمدی ص ۱۴۲ ، ص ۱۴۳)

ناظرین کرام اور بہت سی مثالوں اور واقعات کو تو بعد میں دیکھئے گا یہاں

marfat.com

یہ دیکھئے ان چاروں مثالوں سے یہ غیر مقلد صاحب جو ما بلبلان نالاں کی قوالی بہت گاتے ہیں اور جن کے قلب میں اتباع رسول کا شعلہ بھڑکا ہوا ہے۔ کیا ثابت کر رہے ہیں یہی نا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو اگرچہ خلیفہ راشد تھے مگر چونکہ ان چاروں جگہوں میں انھوں نے فرمان خدا اور فرمان رسول کی مخالفت کی تھی اس وجہ سے حضرت عمر نے ان جگہوں پر حضرت ابو بکر کی تقلید نہیں کی۔

کس مسلمان کا کلیجہ اتنا مضبوط ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یار غار نبی کے بارے میں اس بے ہودہ کلام کو سن کر بھی اسکے سینہ سے باہر نہیں ہوگا۔

معلوم نہیں ان غیر مقلدین کی عقل و خرد کہاں چرنے چلی گئی ہے کہ جس کے بارے میں جو چاہے کہہ ڈالتے ہیں اور پھر بھی بے غیرتی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کو پکا اہلسنت بھی کہتے ہیں، اللہ رے ہوس

نمی دانم حدیث نامہ چون ست
ہمی بینم کے عنوانش بخون ست

کسی نے انھیں مدعیان کتاب و سنت اور ما بلبلان نالاں والوں کے بارے میں کہا ہے:

خرد کی فتنہ کاری سے پریشاں ہو کے اے راسخ
ہو روئے گی آخر یہ چشم انساں ہم نہ کہتے تھے

گمراہی کی دعوت

مولانا محمد جوناگڈھی کا یہ فرمان عالیشان بھی قارئین ملاحظہ فرمائیں فرماتے ہیں:

جب ہمارے پاس خود قرآن و حدیث موجود ہو ہم جب خود اسے پڑھ سکتے ہوں ...... پھر کسی سے ہمیں دریافت کرنے کی

marfat.com

کوئی ضرورت نہیں ،، (طریق محمدی صہ ۱۳۹)

یقیناً آپ غیر مقلدوں کو کسی سے کچھ دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی مگر ہم مقلدوں کو ضرورت ہے اور شدید ضرورت ہے۔

قرآن و حدیث خود پڑھ کر قادیانی قادیانی ہو گئے، چکڑالوی چکڑالوی ہو گئے، سر سید احمد خاں نیچری ہو گئے، نیاز فتح پوری نیاز فتحپوری ہو گئے اسلم جیراجپوری منکر حدیث ہو گئے، احمد رضا خاں بریلوی اعلیٰحضرت ہو گئے برق جیلانی دو قرآن والے ہو گئے، اور اب خود سے قرآن حدیث پڑھ کر آپ غیر مقلد بد عقیدہ اور بد دین ہو رہے ہیں۔

قرآن و حدیث کو خود سے پڑھ کر اور سلف سے بے نیاز ہو کر ضلالت و گمراہی کا ایک پورا سلسلہ ہے، اور آپ غیر مقلدین بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہیں۔ مبارک ہو آپ کو اسی کڑی کا ایک ۔ در آبدار ۔ ہونا۔

" لاکھ ستارے ایک طرف ظلمت شب جہاں جہاں۔

خدا والوں اور اہل حق کی تقلید بھی گمراہی ہے

مولانا محمد جونا گڈھی پر تقلید کا ہوا بری طرح سوار ہے، چنانچہ ذرا ان کا یہ کلام بھی ملاحظہ فرمائیں:

جس طرح کی باپ دادوں کی تقلید موجب گمراہی ہے اسی طرح سادات بزرگوں کی اور اسی طرح علمائے کرام اور خدا والوں کی بھی، وہ بزرگ حق پر ہوں اور راہ یافتہ ہوں لیکن انکی تقلید پھر بھی موجب ضلالت رہے گی ،، (طریق محمدی صہ ۱۱)

دیکھئے کس قدر ایمان و اسلام سے بھرا ہوا یہ کلام ذی شان ۔ قلم چوم لینے کو جی چاہتا ہے۔

marfat.com

اللہ والوں کی اور علمائے کرام کی تقلید اگر وہ حق پر بھی ہوں تب بھی مت کرو
انکی حق باتوں میں بھی تقلید حرام ہے، اگر وہ راہ یافتہ ہوں تب بھی ان کی
تقلید حرام ہے۔

ایسا پر نور اور ایسا باوقار کلام کسی نے کب سنا یا دیکھا ہوگا ذرا ان
غیر مقلد صاحب سے کوئی پوچھے کہ یہ جو قرآن میں مشرکین کی تقلید آبار کے انکار
کے موقع پر کہا گیا ہے۔ اولو کان اباؤھم لا یعقلون شیئاً ولا یھتدون
اور اولو کان اباؤھم لا یعلمون شیئاً ولا یھتدون۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
یہی مطلب ہے کہ اگر کوئی راہ حق پر اور ہدایافتہ بھی ہو تو بھی اس کی راہ نہیں اختیار
کی جائیگی؟۔

قرآن فہمی کا عالم تو یہ ہے اس پر دعویٰ کریں گے مجتہد ہونے کا اور شوق ہوگا
غیر مقلد بننے کا، اور ہوس ہوگی اہلسنت کہلانے کی، اور زبان چلے کی قینچی
کی طرح، اور اہل حق اور مہتدین کی تقلید واتباع سے بھی استنکاف ہوگا،
انکو پتہ کیا ہے کہ علم کا گھمنڈ اور غرور آدمی کو کتنی پستی میں کر دیتا ہے اور
بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کیا رنگ لاتی ہیں۔؟

عقل تہی مایہ سے بدلی ہے کہیں دنیا
رخ عالم ہستی کا، دیوانے بدلتے ہیں

قیاس کا ثبوت قرآن سے

پوری زندگی جن غیر مقلدین حضرات کی قیاس کی تردید اور اس کو شیطانی
فعل بتلانے و ثابت کرنے میں گزر گئی اسی قیاس کے بارے میں انھیں کے مولانا
اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب میں جو جامعہ سلفیہ کی مطبوع ہے فرماتے ہیں
خدا کا ارشاد ہے:

marfat.com

الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وهذا المیزان قد نزل مع الکتاب ولا یراد به المیزان الذی یوزن به الاشیاء المادیة الجسمیة بل هو میزان یساعد فی فهم الکتاب والادلة الشرعیة الأخری وفی معرفة احکام النظائر والتسویة بینها فی الحکم۔

وقد سمی ذلک فی اصطلاح الفقهاء بالقیاس ولکنه فی الحقیقة میزان

وعلی هذا لا یسوغ لنا انکار القیاس وضرورته ولا یصرف النظر عن حجیته وفائدته وکان الائمة والمحدثون مع اعتنائهم بظواهر الحدیث والفاظه ومعانیه واحترامهم له یعتبرون القیاس حجة شرعیة

(الانطلاق الفکری ص۶۲)

اگر میں صرف اس عبارت کا ترجمہ کرتا تو شاید قارئین کو یہ شبہ ہوتا کہ میں نے صحیح مفہوم کی ادائیگی کی بھی ہے یا نہیں اسلئے مجھے اس طویل عبارت کو بدرجہ مجبوری نقل کرنا پڑا۔

اب میں اس کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں عبارت سامنے ہونے کی وجہ سے کسی کو یہ شبہ نہ ہوگا کہ میں نے مولانا سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا غلط مفہوم اخذ کیا ہے، اس کلام کا حاصل یہ ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے حق کے ساتھ قرآن اور میزان اتارا، یہ میزان کتاب اللہ کیساتھ نازل ہوئی ہے، اس میزان (ترازو) سے مراد وہ میزان نہیں ہے جس سے ظاہری مادی اشیاء تولی جاتی ہیں بلکہ یہ میزان وہ چیز ہے جس سے کتاب اللہ اور

marfat.com

دوسرے دلائل شرعیہ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اس میزان سے ایک جیسے امور میں شرعی حکم معلوم کیا جاتا ہے فقہاء اسی کو قیاس کہتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کا صحیح نام میزان ہے۔

جب بات یہ ہے تو پھر ہمارے لئے جائز نہیں ہے کہ ہم قیاس اور قیاس کی ضرورت کا انکار کریں۔ قیاس کی حجیت اور اس کے فائدہ سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا ہے، ائمہ محدثین کی اگرچہ ظواہر حدیث کی طرف توجہ زیادہ تھی مگر قیاس کو بھی وہ ایک حجت شرعیہ تسلیم کرتے تھے۔

یتری آواز مکے اور مدینے

یہ ہے خلاصہ مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کا اس سے یہ چند باتیں معلوم ہوئیں۔

پہلی بات یہ کہ قرآن کی طرح قیاس کو بھی اللہ ہی نے نازل کیا ہے۔

دوسری بات یہ کہ فقہاء جس کو قیاس کہتے ہیں یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن میں میزان کہا گیا ہے۔

تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قیاس کا انکار کرنا اور قیاس کی ضرورت کا انکار کرنا جائز نہیں۔

چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ ائمہ محدثین بھی قیاس کو حجت شرعیہ سمجھتے ہیں۔

یہ حق کی وہ آواز ہے جو غیر مقلدین کے وہ مولانا اسمٰعیل سلفی بلند کرنے پر مجبور ہوئے ہیں جن کا درجہ گروہ غیر مقلدین میں اس چودھویں صدی کے اخیر میں امامت کا تھا۔

اب ناظرین ان عقل کے یتیموں دل کے مریضوں کے بارے میں فیصلہ فرمائیں جو قیاس کو حجت شرعی نہیں قرار دیتے ہیں، جو قیاس کو شیطانی عمل قرار دیتے ہیں اور جو قیاس کا مذاق اڑاتے ہیں اور جو قیاس کرنے والے پر تبرا بھیجتے ہیں۔

marfat.com

کیا ان کے ایمان کے باقی رہنے کی اب بھی کوئی صورت ہے، جب قیاس کو بقول مولانا سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے خود اللہ نے نازل کیا ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے، اور وہ شریعت کا ایک اصول اور ضابطہ ہے اور مسائل شرعیہ دریافت کرنے کا ایک قرآنی وشرعی ذریعہ ہے تو پھر اسکے انکار کو گمراہی کے سوا اور کیا کہا جائے گا، اور گمراہ قیاس کرنے والے ہوں گے یا قیاس کے منکرین؟ قیاس کا انکار خود قرآن کا انکار نہ ہوگا

چٹکیاں لیتی ہے فطرت، چیخ اٹھتا ہے ضمیر
کوئی کتنا ہی حقیقت سے گریزاں کیوں نہ ہو

بہرحال میں غیر مقلدین حضرات سے ان کے دین وایمان کی خاطر نہایت خلوص سے عرض کروں گا کہ وہ اپنے اس اصول پر نظر ثانی کریں جس کو وہ بڑے طنطنے اور بڑے جوشیلے انداز سے لوگوں کے سامنے بیان کر کے انکی ناواقفیت کا استحصال کرتے ہیں، اور اپنے پکے مومن اور سچے اہلسنت اور ہٹے کٹے اہلحدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا وہ اصول یہ ہے:

"اہلحدیث حجت شرعیہ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مانتے ہیں۔"

بظاہر یہ اصول بڑا شاندار ہے مگر یہ ہے اہلسنت وجماعت کے عقیدے کے خلاف، بہت سی شاندار عمارتیں اندر سے بڑی کھوکھلی ہوتی ہیں اس بات کا احساس غیر مقلدین کو ہونا چاہیئے

چپ رہنا تو ہے ظلم کی تائید میں شامل
حق بات کہو جراَتِ اظہار نہ بیچو!

تمام صحابہ فقیہ تھے

مولانا اسماعیل سلفی غیر مقلد عالم اپنی اس کتاب الانطلاق الفکری میں یہ دعویٰ کرتے ہیں:

وكما ان الصحابة كلهم كانوا عدولا فكذلك كانوا فقهاء (ص۲۱۸)

یعنی جس طرح تمام کے تمام صحابہ عادل تھے اسی طرح تمام کے تمام صحابہ فقیہ تھے۔

میں کہتا ہوں کہ اس دعویٰ پر کہ تمام کے تمام صحابہ فقیہ تھے کسی ایک بھی معتبر عالم کی گواہی پیش کر دیں۔

صرف زبانی جمع خرچ سے علمی میدان میں کام نہیں چلتا، اچھا اگر سب صحابہ فقیہ تھے جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں تو پھر آخر آپ غیر مقلدوں کو فقہاء سے بیر اور بیزاری کیوں رہتی ہے اور فقہ کے نام سے چڑھ کیوں ہے؟

مصلحین عظام مذہب حنفی کے پیرو تھے

مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلدین کے آہنی قلعہ میں ایک اور زبردست دھماکہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

كان المصلحون العظام من عصر المجدد السرهندي الى عصر الشاه ولي الله واتباعه يتبعون الفقه الحنفي في الاعمال الظاهرة (ص۲۷۳ الانطلاق)

یعنی حضرت مجدد سرہندی کے زمانہ سے لیکر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے چاروں صاحبزادوں کے زمانہ تک جتنے بھی مصلحین عظام گزرے ہیں

marfat.com

وہ سب اعمال ظاہرہ میں (یعنی نماز روزہ وغیرہ مسائل میں) فقہ حنفی کے پیرو تھے۔

اس سے اتنا تو معلوم ہو ہی گیا کہ احناف نے ہندوستان کے ہندوستانی معاشرہ میں اصلاح کے کام کرنے کا نہایت شاندار کارنامہ انجام دیا ہے جس میں ان کا کوئی سہیم وشریک نہیں تھا، اور جتنے بڑے بڑے مصلحین گزرے ہیں وہ سب حنفی تھے، اہلحدیثوں کا اس وقت کہیں وجود نہیں تھا۔

غیر مقلدیت کے وجود کی ابتداء ہندوستان میں

یہی مولانا اسمٰعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں غیر مقلدیت کے وجود کی تاریخ ہمیں بتلاتے ہیں آپ بھی سنیں۔ فرماتے ہیں:

حینما وصلت هذه اليقظة الى الشاه اسماعيل الشهيد واصحابه المخلصين تحولت الى ترك التقليد وقد دعم هذا الاتجاه العلامة السيد نذير حسين وتلامذته (حركة الانطلاق ص۲۳۸)

یعنی جس وقت یہ بیداری حضرت اسماعیل شہید کے زمانہ تک پہونچی تو اس نے ترک تقلید کی صورت اختیار کرلی اور پھر اس کو علامہ سید نذیر حسین اور ان کے تلامذہ نے تقویت پہونچائی۔

مولانا اسمٰعیل سلفی غیر مقلدوں کے بہت مشہور عالم ہیں، بلکہ اس جماعت میں ان کو امامت کا درجہ حاصل تھا، بقول ایک غیر مقلد ڈاکٹر صاحب کے:

۔ مولانا سلفی بڑے وسیع النظر عالم تھے، بیسویں صدی کے سلفی علماء میں انھیں بڑا امتیاز حاصل تھا۔

یہ امام اور وسیع النظر اور جماعت غیر مقلدیت کا ممتاز عالم صاف صاف کہہ رہا ہے کہ غیر مقلدیت کی ابتداء اس ہندوستان میں حضرت اسمٰعیل شہید کے

marfat.com

زمانہ سے ہوئی ہے، حضرت شہید علیہ الرحمہ کے زمانہ سے پہلے اس غیر مقلدیت کا ہندوستان میں نام ونشان بھی نہیں تھا، اور انھیں مولانا اسمٰعیل سلفی کی زبانی آپ سن چکے ہیں کہ حضرت اسماعیل شہید کے پہلے جتنے بھی مصلحین تھے سب حنفی تھے اور ہندوستان میں اسی مذہب حنفی کا شیوع اور رواج تھا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ غیر مقلدین کو اسکو تسلیم کرلینا چاہیئے، اور اس پر ناک سکوڑنے کی اور منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔

ہمارے ایک غیر مقلد بھائی کو ہمارا یہ "انکشاف" بہت کھلا ہے، اور ان کا قلم اس وقت "گنبد کی صدا" بنا ہوا ہے۔

غیر مقلدوں کے شیخ الاسلام پر
دارالعلوم دیو بند کا علمی فیضان

مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام لے لے کر آج کل کے غیر مقلدین بہت اچھلتے کودتے ہیں، شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ مولانا امرتسری دارالعلوم دیوبند کے فضلاء میں سے تھے، دورۂ حدیث دارالعلوم دیوبند میں پڑھا اور اسی دارالعلوم دیوبند کی سند ان کیلئے زندگی بھر مایہ افتخار رہی، دیوبند ہی میں ان کی مناظرانہ طبیعت کو چار چاند لگے، اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب صدر مدرس و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے وقت رخصت ان سے جو چند کلمات کہے وہ مولانا امرتسری کے لئے تا زندگی مشعل ہدایت و باعث استقامت بنتے رہے، لیجئے اب پوری حکایت مولانا امرتسری ہی کی زبانی سنئے بڑی دلچسپ یہ حکایت ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند نے کیسے کیسے ذروں کو خورشید بنایا، مولانا امرتسری فرماتے ہیں:

"پھر سہارنپور چند روز قیام کرکے (۱۳۰۰ھ میں) دیوبند پہونچا وہاں

کتب درسیہ معقول و منقول ہر قسم کی پڑھیں، کتب معقول میں قاضی مبارک، میرزاہد، امور عامہ صدرا شمس بازغہ وغیرہ، اور منقولات میں ہدایہ، توضیح، مسلم الثبوت، وغیرہ، ریاضی میں شرح چغمینی وغیرہ بھی پڑھیں اور دورۂ حدیث میں شریک ہوا، اساتذہ پنجاب کا درس حدیث اور اساتذہ دیوبند کا درس حدیث ان دونوں میں جو فرق ہے اس سے فائدہ اٹھایا" (۱)

دیوبند کی سند امتحان میرے لئے باعث فخر میرے پاس موجود ہے

اس کے بعد مولانا امرتسری "مسرت آمیز واقعہ" کا عنوان قائم کر کے فرماتے ہیں:

ایک واقعہ ایسا مسرت آمیز ہے کہ میں اپنی عمر کی کسی حالت میں نہیں بھولا، اور نہ بھول سکتا ہوں بلکہ جب معاصرین کے نرغے میں ہوتا ہوں تو وہ واقعہ مجھے فوراً دل شاد کر دیتا ہے (۲) جسکی تفصیل یہ ہے۔

---

(۱) علمائے حدیث کا درس حدیث خشک بے مغز محض عبارت خوانی یا زیادہ سے زیادہ ائمہ دین اور فقہائے امت پر لعن وطعن اور سب وشتم، مقلدین علماء کو دوچار سنا دینا یہیں تک محدود ہوتا تھا اور اب بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا بخلاف دارالعلوم دیوبند کے درس حدیث کے اسکی شان اور اسکی آن وبان خصوصاً حضرت شیخ الہند، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اور علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا سید فخر الدین رحمہم اللہ کا درس حدیث تو ایسی نرالی شان کا ہوتا تھا کہ متقدمین ائمہ حدیث کی یاد تازہ ہو جاتی تھی اور پھر تمام ائمہ حدیث اور فقہائے امت اور اسلاف کے پورے احترام کی رعایت کے ساتھ، مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ اسی فرق کی طرف ہے۔

(۲) کاش غیر مقلدین علماء کی اس واقعہ کو پڑھ کر آنکھیں کھل جائیں اور علمائے دیوبند کے فیوض روحانیہ کا وہ اعتراف کرلیں، نہیں مگر ایسا نہیں ہو سکتا اسلئے کہ پتھر پر بھلا کہیں جونک لگی ہے

marfat.com

مدرسہ دیوبند میں ان دنوں مولانا محمود الحسن اعلی اللہ مقامہ مدرس اعلیٰ تھے
مدرسہ کی ہر کتاب پڑھتے ہوئے میں بے باکانہ جرأت سے اعتراض کرتا
مولانا مرحوم کا بہت وقت خاص مجھ پر خرچ ہوتا، جب میں آخری ملاقات
کرکے رخصت چاہی تو فرمایا۔

" طلبا رتمہاری شکایتیں بہت کرتے تھے کہ پوچھنے میں وقت بہت
ضائع کرتا ہے، ہم کہتے تھے کہ کوئی طالب علم پوچھنے والا ہو تو پوچھے
اسکے سوال صحیح ہوں یا غلط، کچھ پوچھے تو سہی (۱)۔ تمہیں بھی خوش
ہونا چاہیئے کہ جسے خدا کچھ دیتا ہے اس کا حسد ہوتا ہے "

یہ سن کر میری آنکھیں آبدیدہ ہوگئیں اور اس شعر کا مضمون زبان پر جاری ہوا۔

دیدہ ام در غنچگی چندیں جفائے باغباں
بعد گل گشتن نمی دانم چہ گل خواہد شگفت

خدا جانے یہ فقرہ اپنے اندر کیا صداقت رکھتا تھا (۲) کہ طالب علمی کے بعد زمانہ
بلوغت علمی میں اس کا وہ اثر دیکھا کہ صاحب در مختار کا یہ شعر ہمیشہ ورد زبان رہا۔

هم يحسدونني وشر الناس كلهم،
من عاش في الناس يوماً غير محسود (۳)

---

(۱) یہ تھے ہمارے اکابر رحمہم اللہ وغفرلہم

(۲) جی ہاں یہ ایک اللہ والے عالم ربانی کی زبان سے نکلا ہوا فقرہ تھا اور اسی کا نام
کرامت ہے، جس کرامت کے غیر مقلدین منکر ہیں، کرامت کسی یوجوہے کے ہاتھی بنجانے
کا نام نہیں ہے۔

(۳) فتنہ قادیانیت اور مولانا ثناء اللہ امرتسری تصنیف مولانا صفی الرحمن مبارکپوری
ص ۲۱-۲۰

مولانا میاں نذیر حسین کو فقہ حنفی پر حدیث سے زیادہ عبور تھا

سیرت ثنائی کا مصنف لکھتا ہے:

"عمر بھر سیکڑوں مرتبہ صحاح ستہ کا دور ہوا فرمایا کرتے تھے کہ میں نے صحاح ستہ کو گلستاں بوستاں بنا دیا ہے (۱) فقہ حنفیہ پر حدیث سے زیادہ عبور تھا۔" (۲)

مولانا میاں صاحب نے درس و تدریس کی ساٹھ باسٹھ سال کی مدت میں صحاح ستہ کا سیکڑوں مرتبہ دور کرایا، یقیناً یہ انکی کرامت تھی، اب تو غیر مقلدین کرامت کے قائل ہو جائیں ویسے اگر گلستاں بوستاں ہی کی طرح صحاح ستہ (جو احادیث رسول کے مدونات ہیں) کو پڑھایا جائے تو سیکڑوں کیا کوئی ساٹھ باسٹھ سال کی مدت میں ہزاروں مرتبہ بھی پڑھا دے تو پڑھا سکتا ہے، خیر یہ دوسری بات ہے، دلچسپ بات تو یہ ہے کہ وہی فقہ حنفی جس کو زمانہ حال کے بدراہ و بدگو غیر مقلدین اہل علم کوک شاستر سے تعبیر کرتے ہیں۔ میاں صاحب رحمہ اللہ کو اس پر حدیث سے زیادہ عبور تھا۔

آخر میاں صاحب کو اس کوک شاستر سے اتنی دلچسپی کیوں تھی؟ کیا کوئی غیر مقلد آج اس کا جواب دے گا؟

---

(۱) کہ اسے یا تو حکایت کے طور پر پڑھا جائے جیسے گلستاں ہے یا محض گنگنانے کیلئے پڑھا جائے جیسے بوستاں ہے، نہ بحث کی ضرورت نہ تحقیق و تدقیق کی، یا اڑائے جاؤ یا گائے جاؤ۔

(۲) حاشیہ سیرت ثنائی صفحہ ۱۲

marfat.com

احادیث کو رد کرنے سے بہتر ہے کہ انکی تاویل کیجائے

مولانا عبد الرحمٰن مبارکپوری المیت یعذب ببکاء اھلہ کے تحت چند احادیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں :

"اور حق یہ ہے کہ ان صحیح احادیث کی تاویل کیجائے گی جیسا کہ جمہور کا مذہب ہے، ان احادیث کو رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں جب کہ انکی تاویل ممکن ہے۔" (تحفہ ص۱۲۶ ج۲)

یہ اصول جو اس قدر زور و شور سے بیان کیا جا رہا ہے اگر احناف اس پر عمل کریں تو غیر مقلدین شور مچائیں گے کہ دیکھو حنفیہ احادیث رسول کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔

جنازہ میں چار تکبیر پر حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کیا

آنحضور صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جنازہ پر سات چھ پانچ اور چار تکبیر کہی جاتی تھی، لیکن حضرت عمر نے اپنے زمانہ میں لوگوں کو صرف چار تکبیر کہنے کا حکم فرمایا اور صحابہ نے اسی کو قبول کر لیا۔

تحفۃ الاحوذی میں مولانا مبارکپوری امام منذر کا یہ کلام نقل کرتے ہیں :

"کانوا یکبرون علی عھد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعا وستا وخمسا واربعًا فجمع عمر الناس علی اربع۔"

(تحفۃ ج ۲ ص ۱۱۴)

یعنی حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگ جنازہ پر سات چھ پانچ اور چار تکبیریں کہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو چار پر جمع کر دیا۔

marfat.com

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فعل کو غیر مقلدین نے خوشی سے قبول کرلیا مگر تراویح اور طلاق کے مسئلہ میں حضرت عمر کا عمل ردی کی ٹوکری میں ڈالہ دیا گیا، معلوم نہیں یہ دورنگی کیوں، سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے غیر مقلدین کا عمل یہ ہونا چاہئے کہ جنازہ میں کبھی سات کبھی چھ کبھی پانچ اور کبھی چار تکبیریں کہیں تاکہ ما بلبلان نالاں گلزار ما محمد کی قوالی کا بھرم ٹوٹ رہے۔

حدیث صحیح کو چھوڑ کر حدیث حسن پر عمل

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روزہ دار کے روزہ افطار کے سلسلہ میں دو حدیث ذکر کی ہے ایک حدیث تمر ہے اور دوسری حدیث رطب ہے، حدیث تمر کے متعلق امام ترمذی فرماتے ہیں کہ وہ حسن صحیح ہے اور رطب والی حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ حسن غریب ہے۔ اہل حدیث ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ حسن صحیح جس کا مرتبہ حسن غریب سے مقدم اور اونچا ہے پر عمل کیا جائے مگر مبارکپوری صاحب کا فیصلہ یہ ہے۔

کہ مستحب یہ ہے کہ رطب سے افطار کیا جائے رطب نہ ہو تو تمر سے افطار کیا جائے اور اگر تمر بھی نہ ہو تو پانی سے افطار کیا جائے۔ (تحفہ ج ۲ ص ۲۷)

معلوم نہیں تمر کو دوسرے نمبر پر رکھنے کی وجہ کیا ہے، مولانا مبارکپوری نے اس کو بیان نہیں کیا۔

امام بخاری پر مولانا مبارکپوری کا شدید نقد اور علم حدیث میں امام بخاری پر تفوق

محدثین رحمہم اللہ حتی الامکان مختلف احادیث میں جمع و تطبیق کی کوشش کرتے ہیں اور کسی حدیث کو رد کرنے کی جرأت سے گریز کرتے ہیں، ایک جگہ

marfat.com

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف حدیثوں میں جمع وتطبیق کیا اس پر مولانا مبارکپوری صاحب کو غصہ آگیا بڑے جلال میں وہ فرماتے ہیں:

قلت حدیث ابن عباس وعائشۃ المذکور فی ھذا الباب ضعیف کما ستعرف فلا حاجۃ الی الجمع الذی اشار الیہ البخاری۔ (تحفہ ج۲ ص۱۱۱)

یعنی میں کہتا ہوں کہ حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ کی اس باب میں مذکور حدیث کمزور ہے جیسا کہ تم کو معلوم ہوگا تو امام بخاری نے تطبیق کا جو عمل کیا ہے اسکی قطعاً کوئی حاجت نہیں۔

اب مبارکپور کے یہ محدث صاحب حدیث کی پرکھ میں امام بخاری سے بھی آگے ہوگئے ہیں، اور ماشاء اللہ ان میں اتنی جرأت پیدا ہوگئی ہے کہ امام بخاری کا بھی رد کریں اور سید المحدثین۔ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ بتلائیں کہ تم کو یہ کرنا چاہئے اور یہ نہیں، اب چیونٹی کو بھی پر لگ گئے ہیں اور بی بی پھدکی بھی پالنا میں بیٹھنے کا حوصلہ رکھتی ہیں غیر مقلدیت کا جرثومہ ایسا ہے کہ مت پوچھو مولانا عبدالرحمن مبارکپوری بھی آدمی ہوجائے مگر فطرت کہاں بدلتی ہے۔

عموم کی تخصیص

اللہ کے رسول صلے اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العمرۃ الی العمرۃ تکفر ما بینھما یعنی ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں، اسی طرح سے آنحضور کا ارشاد ہے الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینھما یعنی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں، ان دونوں حدیثوں میں کوئی تصریح نہیں ہے کہ صغائر معاف ہوں گے اور کبائر معاف نہیں ہوں گے مطلق گناہ کے معاف ہونے کا

marfat.com

ذکر ہے، مگر مولانا عبدالرحمٰن صاحب مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"من الذنوب دون الکبائر"، صـ

یعنی گناہ میں کبائر معاف نہیں ہوگے۔

ان دونوں حدیثوں میں لفظ ما آیا ہے جو عموم کے لئے ہے گو مبارکپوری صاحب نے اس تعمیم کی تخصیص کردی، مگر میں کہتا ہوں غلط نہیں کیا صحیح کیا مگر اسی طرح کوئی قرأت خلف الامام والے مسئلہ میں "من" کی دلائل کی روشنی میں تخصیص کردے تو غیر مقلدوں کو آسمان سر پر نہیں اٹھا لینا چاہیئے۔ اگر تم کو یہ حق ہے کہ کسی عام حدیث کو خاص کردو تو یہ حق دوسروں کو بھی پہونچتا ہے۔

مولانا عبدالرحمٰن مبارکپوری کا طریقۂ استدلال

عمرہ واجب ہے یا سنت، مالکیہ اور احناف کے نزدیک عمرہ کرنا واجب نہیں ہے، مولانا مبارکپوری کا مذہب ہے کہ عمرہ کرنا واجب ہے، احناف اور مالکیہ کا استدلال حضرت جابر کی حدیث سے ہے، اس میں ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عمرہ کرنا واجب ہے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا نہیں اگر کوئی عمرہ کرے تو بہتر ہوگا اس حدیث کو امام ترمذی صحیح قرار دیتے ہیں، لیکن مولانا مبارکپوری امام ترمذی کا رد فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

انہ ضعیف لا یصلح للاحتجاج۔ (تحفہ ج۲ ص۱۱۴)

کہ امام ترمذی نے حضرت جابر کی جس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے وہ ضعیف ہے اور استدلال کے قابل نہیں۔

اور مولانا نے اپنے مسلک وجوب پر حضرت ابن عباس کے قول سے استدلال کیا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں:

الحج والعمرۃ فریضتان

marfat.com

"یعنی حج اور عمرہ فرض ہیں"

حالانکہ خود مولانا مبارکپوری کو اعتراف ہے کہ حضرت ابن عباس کا یہ قول بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، تو اولا یہ قول خود ضعیف ہوا دوسرے یہ کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے آنحضور صلے اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں، اور صحابی کا قول غیر مقلدوں کے نزدیک حجت نہیں ہے، مگر ان تمام خرابیوں کے باوجود مولانا مبارکپوری صحابی کے اس ضعیف قول سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ "عمرہ واجب ہے"

مجتہد صاحبوں کے کیا کہنے

یہ چونکہ مولانا مبارکپوری کا غیر مقلدین علماء میں بڑا اونچا مقام ہے اس وجہ سے یہ چند مثالیں مولانا مبارکپوری کی مایہ ناز کتاب تحفۃ الاحوذی سے پیش کی ہیں تاکہ ان غیر مقلدین کے عوام ہی کا نہیں بلکہ اس جماعت کے محدثین کا بھی مزاج و طبیعت اور احادیث رسول کے باب میں انکے قول و عمل کے تضاد کا اندازہ کچھ ہو سکے خدا نے چاہا تو کبھی تحفہ پر تفصیلی نظر ڈالی جائے گی۔

رسول اللہ کی اتباع بالاستقلال فرض ہے

مولانا جوناگڈھی طریق محمدی میں فرماتے ہیں:

رسول اللہ کی اتباع بالاستقلال ہمارے ذمہ فرض ہے صفحہ ۱۴۵

یہ بات تو ہے سراپا حق مگر پھر آپ کی اس تحریر کا کیا مقصد ہوگا:

"شریعت اسلام میں تو خود پیغمبر خدا صلے اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے بغیر وحی الٰہی کے کچھ فرمائیں تو وہ بھی حجت نہیں (صفحہ ۳۰ ایضاً)

ذرا عقل کا چشمہ لگا کر دیکھئے تو یہ دونوں جو آپ ہی کی لکھی ہوئی بات ہے انمیں

marfat.com

کچھ تعارض یا تضاد نظر آرہا ہے؟

دلیل سے سوال کرنا چاہئے

مولانا جونا گڈھی کا ارشاد ہے کہ:

.اگر کسی کو کوئی بات معلوم نہ ہو تو وہ علماء سے دلیل سے سوال کریں.

(ملخصاً ص۱۴۰)

میرے خیال میں تمام غیر مقلدین جاہلین اپنے اہل علم سے سوال مع الدلیل کر کے مجتہد بن چکے ہوں گے، اب کوئی غیر مقلد ایسا نہ ہوگا جو مسائل شرعیہ کی دلیلوں سے ناواقف ہو، مبارک ہو۔

صحابہ کرام کو محمدی کہا جاتا تھا

مولانا جونا گڈھی فرماتے ہیں:

.عہد نبوی میں صحابہ کرام کو محمدی کہا گیا (ص۳ ایضاً)

جی ہاں ضرور کہا گیا ہوگا، آپ فرماتے ہیں تو یہ غلط کیسے ہوگا۔ بس صرف دو نام کی مختصر سی فہرست پیش کر دیں کہ فلاں فلاں دو صحابی محمدی اپنے کو کہتے یا لکھتے تھے یا اس نام سے موسوم تھے

اہلحدیث کا لقب بھی صحابہ کے زمانہ سے چلا آتا ہے

مولانا جونا گڈھی فرماتے ہیں:

.اسی طرح اہلحدیث کا لقب بھی صحابہ کرام کے زمانہ سے چلا آتا ہے۔

(ص۳ ایضاً)

یہاں بھی عرض کروں گا کہ صرف دو نام کی مختصر سی فہرست پیش کر دیں کہ فلاں فلاں صحابی کو اہلحدیث کہا گیا تھا اور وہ اس نام سے موسوم تھے۔

marfat.com

مولانا ابھی سلفی اور اثری باقی ہے، اس کی بھی تاریخ بیان کر دیں تو ہماری معلومات میں مزید اضافہ ہو، اس کے بعد۔ غیر مقلد۔ کا لفظ بھی ذہن میں رہے کہ اس کی بھی آپ کو تاریخ بیان کرنی ہے۔

ذرا یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ آخر آپ کو "احمدی" نام سے کیوں چڑھ ہے کیا احمد اللہ کے رسول کا نام نہیں ہے، سلفی اثری نام تو آپ رکھ لیں مگر "احمدی" نام سے آپ چڑھ جائیں ایسا کیوں ذرا اس راز سے بھی پردہ اٹھا دیں۔

بزرگوں کو مطاعن کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے

ایک واعظ و ناصح کا ارشاد ہے:

بزرگوں پر خواہ وہ کسی فرقہ سے تعلق رکھتے ہوں تنقید کرنا اور مطاعن کا نشانہ بنانا مناسب نہیں معلوم ہوتا، ان کے لیے لھا ماکسبت پڑھ کر خاموش رہنا بہتر ہے۔ (محدث جولائی ۹۶ء)

صحیح فرمایا آں جناب نے:

یوں بھی کرتے ہیں غم گساری لوگ
ٹوٹ جاتا ہے آئینہ دل کا

اور اس کے بعد آپ نے ماشاءاللہ اس نصیحت پر خوب عمل بھی کیا ہے ذرا سوچیے کتنے مرحومین علماء کی شان میں آپ نے قصیدہ خوانی کی ہے۔

اہلحدیث کسی معین امام کی تقلید کی اجازت نہیں دیتے

یہی صاحب فرماتے ہیں:

"اہلحدیث" کسی معین امام کی تقلید کی اجازت نہیں دیتے"

(ایضاً)

marfat.com

اچھا یعنی اب اہلحدیثوں کے ہاتھ میں خدا اور رسول والا اختیار آگیا ہے کہ جس کی وہ اجازت دیں وہ عمل تو جائز ہوگا اور جس کی وہ اجازت نہ دیں وہ عمل جائز نہ ہوگا۔ واہ رے خوش فہمی۔

اچھا خدا اور رسول صاحب ذرا یہ تو بتلائیے کہ غیر معین امام کی تقلید کی اجازت تو اہلحدیث دیتے ہیں، اب یہ بھی بتلائیے کہ تقلید مطلقاً حرام ہے یا معین کی حرام ہے اور غیر معین کی حرام نہیں ؟ جو بھی فرمائیں اپنے علماء کی تقلید کے سلسلہ میں تحریرات کو پیش نظر رکھ کر فرمائیں :

"کیا زمانہ آگیا ہے چیونٹی کو بھی پر لگنے لگے ہیں . . . .

بت کریں آرزو خدائی کی

اہلحدیث کی نسبت

یہی کرم فرما فرماتے ہیں :

"اہلحدیث کی نسبت قرآن وحدیث اور رسول کی طرف ہے" (ایضاً)

یقیناً ہوگی، ہمیں بھی اس کا انکار نہیں، مگر ذرا یہ تو فرمائیں کہ جب اہلحدیث کی نسبت قرآن وحدیث اور رسول سب کی طرف ہے تو غیر مقلدین کی یہ جماعت اپنے کو صرف اہلحدیث ہی کیوں کہتی ہے ؟ اہل قرآن کیوں نہیں کہتی، اہل رسول کیوں نہیں کہتی، ان دو ناموں سے شرم کیوں ہے ؟ ہم نے جہاں دیکھا صرف "اہلحدیث" ہی دیکھا، اہلحدیث کا مذہب، اہلحدیث کا مدرسہ اہلحدیث کا پرچہ، اہلحدیث کی مسجد، اہلحدیث کی جماعت، اہل قرآن اور اہل رسول کے نام سے یہ بیر کیوں ؟ بلکہ آپ کا پورا نام تو "اہلحدیث والقرآن والرسول" ہونا چاہیے، آخر اس پورے نام میں یہ کتر بیونت کیوں ؟

وہ چشمہ بن کہ جس سے ہوں سرسبز کھیتیاں ؛ رہرو کو تو فریب نہ دے صورت سراب

marfat.com

یہ تقلید کا اقرار ہے کہ انکار

مولانا اسماعیل سلفی نے اپنی کتاب الانطلاق الفکری میں تقلید کو بدعت اور حرام اور امر محدث ثابت کرنے کیلئے بڑا ہاتھ پیر مارا ہے، مگر بیچارے بری طرح ناکام ہیں چاہتے کچھ اور ہیں ہوتا کچھ اور ہے، ایک جگہ اسی کتاب میں فرماتے ہیں :

ان معنی اثبات التقلید فی القرون المشهود لها بالخیر
ان قلة العلم کانت عامة فیها ۔ (ص ۲۲۶)

یعنی اگر یہ بات مان لی جائے کہ قرون مشہود لہا بالخیر میں تقلید تھی تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان زمانوں میں علم بہت کم تھا ۔

میں اس پر تو ابھی کیا کہوں کہ کسی زمانہ میں تقلید کے پائے جانے سے اس زمانہ میں علم کی قلت بھی ضروری ہوگی، یہ مفروضہ صحیح ہے کہ غلط اہل علم خود غور کرلیں کہ مولانا سلفی کا یہ کلام کتنا جاندار ہے ۔

مولانا سلفی اپنی اس بات کو ثابت کرنے کیلئے ابن قیم کا یہ کلام نقل کرتے ہیں :

فانا نعلم بالضرورة انه لم یکن فی عصر الصحابة رجل
واحد اتخذ رجلا منهم یقلده فی جمیع اقواله (ایضاً)

یعنی ہم بداہتہً جانتے ہیں کہ زمانہ صحابہ میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو تمام اقوال میں کسی کی تقلید کرتا ہو ،

ناظرین غور فرمائیں کہ مولانا سلفی نے اپنے دعویٰ کی تائید میں ابن قیم کا جو یہ کلام نقل کیا ہے، اس سے صحابہ کے زمانہ میں تقلید کا ثبوت ہوتا ہے یا عدم ثبوت، ابن قیم کے اس کلام سے تو صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا

marfat.com

جو کسی کی اس کے تمام اقوال میں تقلید کرنے، یعنی صحابہ کرام میں تقلید تو پائی جاتی تھی مگر تقلید کی یہ شکل نہیں تھی۔

میں کہتا ہوں کہ مقلدین کب کہتے ہیں کہ تم کسی کی ایسی تقلید کرو، ایسی تقلید نہ صحابہ کے زمانہ میں تھی اور نہ اس کے مقلدین قائل ہیں، مگر اس سے آپ کا مطلب کہاں حاصل ہوا آپ تو مطلق تقلید شخصی کے منکر ہیں۔

جن کو ابن قیم کے کلام کے سمجھنے کا بھی سلیقہ نہ ہو وہ قرآن و حدیث سمجھنے کے مدعی ہیں اور کتاب و سنت سے استنباط مسائل اور استخراج مسائل کا شوق رکھتے ہیں۔

برق و شرر سے کہدے یہ کوئی
شعلوں سے ہم بھی کھیلے ہیں اکثر

اور پھر میں کہتا ہوں کہ رد تقلید میں ابن قیم کا کلام پیش کرتے ہوئے ان سلفی صاحب کو شرم نہیں معلوم ہوتی، ابن قیم کیا تھے کیا یہ انکو معلوم نہیں؟ ابن قیم تو خود مقلدوں کے مقلد تھے وہ کیا تقلید کا انکار کریں گے اور اگر وہ تقلید کا انکار بھی کریں تو ان کی سنتا کون ہے ابن قیم کے بارے میں دیکھئے نواب صاحب اپنے شیخ محدث شوکانی سے کیا نقل کرتے ہیں:

وغلب علیہ حب ابن تیمیہ حتی کان لا یخرج عن شئ من اقوالہ بل ینتصر لہ فی جمیع ذلک۔

(التاج المکلل ص ۴۱۸)

یعنی ابن قیم پر ابن تیمیہ کی محبت کا ایسا غلبہ تھا کہ وہ ان کے کسی قول سے باہر نہیں ہوتے تھے، بلکہ ہر ہر بات میں وہ انکی حمایت ہی کرتے تھے۔

جو اتنا بڑا مقلد ہو، اس کے کلام سے ہم مقلدین پر تقلید کے حرام ہونے کے بارے میں

marfat.com

حجت قائم کی جائے۔

ابن قیم تقلید شخصی کریں تو قند، اور احناف یا شوافع یا دیگر مقلدین تقلید شخصی کریں تو "زہر ہلاہل" آخر یہ کہاں کا انصاف ہے۔

میں غیر مقلدین سے پوچھتا ہوں اور خاص طور سے ان اسماعیل سلفی سے جنہوں نے بڑے ذوق و شوق سے ابن قیم کا نمونہ اپنی اس کتاب میں نقل کیا ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ابن تیمیہ کے جو تفردات ہیں جن میں ان کا مذہب سراسر جمہور کے خلاف ہے ذرا ان تفردات میں سے کسی ایک تفرد میں بھی ابن قیم کی ابن تیمیہ سے مخالفت ثابت کر دیں، کیا دونوں استاذ شاگرد کی عقل کا پیمانہ بالکل ایک ہی تھا کہ جو استاذ نے قرآن و حدیث سے سمجھا وہی شاگرد نے بھی قرآن و حدیث سے سمجھا، ذرا بھی ادھر سے ادھر ان کی سمجھ نہ ہوئی؟ یا شاگرد نے استاذ کی تقلید کی ہے؟

کیا امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل ابن تیمیہ سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ابن قیم کیلئے ابن تیمیہ کی تقلید تو ان کے تفردات میں بھی جائز ہو اور ان ائمہ کے مقلدین کو اپنے امام کی تقلید جائز نہ ہو؟ یہ انصاف ہے یا انصاف کا خون۔

یہ جو دامن پہ تمہارے ہیں لہو کی چھینٹیں
تم کو ایک عمر گزر جائیگی دھوتے دھوتے

حضرت شاہ ولی اللہ کی تعریف یا تنقیص

مولانا اسماعیل سلفی فرماتے ہیں:

ظاہر میں تو شاہ ولی اللہ فقہ حنفی سے انسیت رکھتے تھے اور انکے خاندان کا مذہب فقہ عراقی ہی تھا، لیکن ٹھیک اسی وقت وہ اس

marfat.com

اس فقہی نظام پر حملہ آور ہوتے تھے۔ (ص۱۲۲ الانطلاق)
یہ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کی تعریف ہے یا تنقیص؟ اگر یہ فقہی نظام ایسا ہی باطل تھا کہ اس پر دہ ، ہجوم کریں تو انکو کیا ضرورت تھی کہ اس نظام سے ان کا دور کا بھی تعلق ہوتا ، چہ جائیکہ انکو اس سے انسیت ہوتی اور ان کے خاندان کا مذہب فقہ حنفی ہوتا۔

کسی کی تعریف کرنے کے لئے بھی عقل چاہیے۔

سب سے بڑا جھوٹ

مولانا اسماعیل سلفی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے سلسلہ کی ایک طویل بحث ختم کرتے ہوئے بطور نتیجہ بیان کرتے ہیں :

ان اهل الحديث يعدون اقوال الصحابة والسلف مع الكتاب والسنة ايضا اصلا من الاصول (ص۱۵۳ ایضا)

یعنی اہل حدیث صحابہ اور سلف کے اقوال کو بھی کتاب و سنت کے ایک اصل (شرعی) قرار دیتے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ یہ غیر مقلدین کا سب سے بڑا جھوٹ ہے ، اگر اہلحدیث سے مراد ان سلفی صاحب کی وہی جماعت ہے جو زبردستی اپنی تاریخ ائمہ حدیث اور اصحاب حدیث سے ملاتی ہے تو ان مصنوعی اہلحدیثوں کا مسلک تو یہ ہے کہ قول صحابی حجت نیست صحابی کا قول حجت ہی نہیں تو پھر وہ شرعی اصل کیسے بن سکے گا۔

تفصیل کیلئے میری کتاب وقفة مع اللامذهبية اور مسائل غیر مقلدین دیکھئے۔

marfat.com

حدیث کے معتبر ہونے کا ایک اصول یہ بھی ہے

مولانا اسمٰعیل سلفی لکھتے ہیں:

اگرچہ حدیث ان اللہ حرم علی الارض ان تا کل اجساد الانبیاء سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے مگر اصول ستہ (یعنی صحاح ستہ) کو جو طبرانی اور ابو یعلیٰ پر برتری حاصل ہے اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ (ص ۲۳۹ الانطلاق)

یعنی چونکہ حدیث مذکور ابن ماجہ کی ہے اور ابن ماجہ کا شمار صحاح ستہ میں سے ہے اس وجہ سے اگرچہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے مگر اسکو صحیح مانا جائے گا۔

میں کہتا ہوں کہ یہ غیر مقلدین جب چاہتے ہیں احادیث کے سلسلہ میں ایک اصول گڑھ لیتے ہیں، اجساد انبیاء کے زمین پر کھانے کے حرام ہونے کا مسئلہ عقیدہ سے ہے، اور عقیدہ میں ضعیف اور کمزور حدیث سے استدلال کرنا جائز نہیں اس وجہ سے جب مولانا اسماعیل سلفی کو اس حدیث کی سند کی صحت میں تردد ہے تو ان کو بلا شرمائے اس کو رد کر دینا چاہئے اور صاف صاف اعلان کرنا چاہئے کہ ہم غیر مقلدوں کا مسلک بغیر کسی اینچ پینچ کے یہ ہے کہ جس طرح سے اور انسانوں کے ابدان قبر میں سڑ جاتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انبیاء علیہم السلام کے بدنوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔

جب آپ نہایت بے شرمی سے جمہور اور اہل سنت کے مسلک کیخلاف اس کے قائل ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے مرنے اور عام انسانوں کے مرنے میں کوئی فرق نہیں اور قبر میں نہ عام انسانوں کو حیات حاصل ہے اور نہ انبیاء کو حیات حاصل ہے جب آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور یہی آپ کا عقیدہ ہے،

marfat.com

تو پھر اس کے کہنے میں کیا تردد ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا بدن بھی عام انسانوں کے بدنوں کی طرح سڑ گل نہیں سکتا، جب کہ اس سلسلہ میں کوئی صحیح حدیث بھی نہیں اور جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے ؟

ضعیف حدیث کو جمہور امت نے قبول کیا ہے

مولانا اسماعیل سلفی لکھتے ہیں :

وقد قبل جمهور الامة رواية ابن ماجة مع ضعفها

(ص ۱۴۲ ایضاً)

یعنی ابن ماجہ کی روایت کو باوجود اس کے کہ وہ ضعیف ہے جمہور نے قبول کیا ہے۔

جی ہاں جمہور امت نے قبول کیا ہے، تو آپ سے مطلب، آپ کیوں جمہور امت کی پناہ میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ تو فروعی مسائل میں بھی ضعیف حدیث کو قبول نہیں کرتے اس عقیدہ کے مسئلہ میں ضعیف کو کیوں قبول کرتے ہیں۔

ناظرین یقین کریں کہ میں جتنا ان غیر مقلدین کو پڑھتا ہوں مجھے ان سے بڑا کوئی بے اصولا نظر نہیں آتا، تراویح میں جمہور کا مذہب قبول نہیں، طلاق کے مسئلہ میں جمہور کا مذہب قبول نہیں، اذان جمعہ میں جمہور کا مسلک قبول نہیں خطبہ جمعہ میں خلفاء راشدین کے ذکر کے سلسلہ میں جمہور کا مذہب قبول نہیں، زیارۃ روضہ اقدس کے مسئلہ میں جمہور کا مذہب قبول نہیں، حیاۃ انبیاء علیہم السلام کے مسئلہ میں جمہور کا مذہب قبول نہیں، قول صحابہ کے حجت ہونے میں جمہور کا مسلک قبول نہیں اور اس طرح کے سیکڑوں مسائل میں جمہور کا مذہب و مسلک قبول نہیں، اور یہاں باوجود اسکے کہ حدیث ضعیف ہے مگر جمہور کے مذہب

marfat.com

کا سہارا لیا جا رہا ہے، اور یہ کہتے ہوئے حیا اور شرم دامنگیر ہو رہی ہے کہ (معاذ اللہ) انبیاء علیہم السّلام کا بدن قبر میں سڑ گل جاتا ہے۔

بوں یہ امن کے نغمے ہیں دل جہنم ہے
یہ روشنی بھی کسی تیرگی سے کیا کم ہے

حیاۃ انبیاء علیہم السّلام کے بارے میں مولانا اسمٰعیل سلفی کا جھوٹ

مولانا اسماعیل سلفی اور زمانہ حال کے تمام غیر مقلدین سلفیان نجد کی اتباع میں اس کے قائل ہیں کہ قبر میں کسی نبی کو حیات حاصل نہیں ہے۔

چنانچہ مولانا سلفی بڑی مسرت کے ساتھ فرماتے ہیں:

"مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس قسم کی لغزش (یعنی آنحضور صلے اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں یہ عقیدہ جو ان غیر مقلدوں کے نزدیک لغزش ہے) اکابر اہلحدیث میں سے کسی سے صادر نہیں ہوئی"۔ (ص ۳۴۴)

اگر غیر مقلد کی قسمت میں حیات نبی صلے اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ نہیں ہے، تو ہمیں تو اس پر رونا آتا ہے، آپ اپنی اس بدنصیبی پر خوش ہو لیں۔

غم اپنا اپنا خوشی اپنی اپنی

مگر خدا را یہ جھوٹ تو نہ بولیں کہ حیات نبی صلے اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کسی غیر مقلد بڑے عالم کا نہیں ہے۔

آپ کے بہت بڑے عالم مولانا وحید الزماں حیدر آبادی اپنی مشہور کتاب ھدیۃ المھدی میں فرماتے ہیں:[1]

ابو نعیم اور بیہقی نے حضرت انس رضؓ سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ انبیاء

---

(۱) ناظرین اس سلسلہ کی پوری بحث میری کتاب وقفۃ مع اللامذھبیہ میں دیکھ لیں۔

علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں، اور امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، امام بیہقی کی اس موضوع پر مستقل ایک کتاب ہے جس کا نام "حیاۃ الانبیاء" ہے۔ (ص ۲۲)

اور اسی کتاب کے ص ۵۹ پر ہے ایک طویل اس سلسلہ کی عبارت ہے جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے۔

"اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان موتیٰ کو لوگوں کے سامنے کر دیتا ہے اور ان کو ان کا کلام سنا دیتا ہے، اور کبھی یہ قبر والے نہ سنتے ہیں نہ کسی کو پہچانتے ہیں بلکہ اپنی قبروں میں سوئے ہوئے ہیں اور غافل رہتے ہیں"

آپ کو یہ بھی بتلادوں کہ یہی مذہب کہ آنحضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں آپ کے شیخ الکل فی الکل کا بھی ہے، فتاویٰ نذیریہ ملاحظہ فرمالیجیے اور یہ مسئلہ فتاویٰ نذیریہ کے حوالہ سے اس کتاب میں گزر چکا ہے۔

پس آپ چاہیں جو عقیدہ بنالیں ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں مگر اپنے سب اکابر کی طرف اس عقیدہ کی نسبت کر کے ان پر افترا مت کیجیے۔

قبر میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم حیات پر قرآن کی آیت سے استدلال

عموماً وہ لوگ جن کا دامن زمانہ حال کی سلفیت سے داغدار ہے جیسے کہ مولانا اسماعیل سلفی پاکستان یا ان کے ہم نوا و ہم خیال لوگ اس بات پر کہ آنحضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم قبر میں "زندہ نہیں ہیں" قرآن کی اس آیت

marfat.com

سے استدلال کرتے ہیں :

انك میت وانهم میتون ۔

مولانا سلفی نے بھی اس آیت سے آنحضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے قبر میں زندہ نہ ہونیکو ثابت کیا ہے ۔ (دیکھو الطلاق صہ ۲۳)

مگر مجھے تعجب ہے کہ یہ غیر مقلدین جب کوئی بات کہتے یا لکھتے ہیں تو یہ کیوں باور کر لیتے ہیں کہ ان کے سوا ساری دنیا پاگل ہے، اور جو قرآن فہمی کی دولت ان کے سینوں میں ہے وہی اصل قرآنی فہم ہے، یہ کنوئیں میں رہتے ہیں تو رہیں مگر کنوئیں میں رہنے کی وجہ سے سمندر اور دریا کا انکار کرنا یہ کونسی عقلمندی ہے ۔

اگر قرآن کی مذکورہ بالا آیت سے آنحضور کی قبر شریف میں عدم حیات ثابت ہوتی ہے تو عالم اسلام کے مفسرین کی تفسیروں میں سے کسی ایک بھی تفسیر کے حوالہ سے یہ ثابت کر دیں کہ اس نے اس آیت سے آنحضور کی قبر میں عدم حیات پر استدلال کیا ہے ۔

اس آیت کا اس مسئلہ سے تعلق ہی کیا ہے ؟ آیت کا مضمون کچھ اور ہے بات کچھ اور کہی جارہی ہے ، اور حیات انبیاء یا حیات نبی صلے اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ کچھ اور ہے، آخر اتنی موٹی بات بھی ان غیر مقلدوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی ؟

اس آیت کا حاصل تو صرف اتنا ہے کہ یہ کفار جو آپ صلے اللہ علیہ وسلم کی موت کی خواہش رکھتے ہیں اس سے انکو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے ۔ اگر موت محمد صلے اللہ علیہ وسلم کو آئیگی تو کفار بھی اس دنیا میں سدا باقی رہنے والے نہیں ہیں ، مرنا انکو بھی ہے اور پھر قیامت کے روز ہر ایک کو پتہ چل جائیگا کہ اس کا ٹھکانا کیا ہے ، اور نبی سے دشمنی کا انجام کیا ہوتا ہے ، اس آیت

marfat.com

کا مضمون تو یہ ہے مگر غیر مقلدین اس کو اس بات کی دلیل بناتے ہیں کہ آنحضور صلے اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ نہیں ہیں دیکھو اللہ فرماتا ہے۔ انك میت ۔

ان عقلا رے کوئی پوچھے کہ انك میت کا وہ کیا یہ مطلب سمجھ رہے ہیں کہ آنحضور کو مخاطب کر کے ان کی زندگی ہی میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ معاذ اللہ مر چکے ہیں ؟ یا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو بھی موت آنی ہے اس دنیا میں ہمیشہ آپ نہیں رہیں گے، اگر پہلا مطلب نہیں ہے بلکہ اس آیت کا یہی دوسرا مطلب ہے تو پھر اس کا منکر کون ہے اور اس آیت کا آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات سے کیا تعلق ؟

کس عالم نے دیوبندی وغیر دیوبندی میں سے یا سلف و خلف میں سے یہ کہہ دیا ہے کہ آنحضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت نہیں ہوئی اور آپ کو دفنایا اور کفنایا نہیں گیا ۔؟

مگر آپ صلے اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے قبر کی منزل تک جانا اس کا تو مستلزم نہیں کہ اللہ نے آپ کو قبر میں زندگی عنایت نہیں فرمائی ؟

اس آیت سے آخر اس پر کیسے استدلال ہو سکتا ہے ، اور جو اس پر استدلال کرے اس کی عقل و علم کا مرثیہ پڑھنے کے سوا کیا کیا جا سکتا ہے ۔

یہ مسئلہ بہت اہم ہے، میں نے یہاں صرف یہ دکھلانا چاہا ہے کہ اس آیت سے آنحضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف میں حیات یا عدم حیات پر استدلال نہیں کیا جا سکتا، یہ آیت اس مسئلہ سے قطعاً غیر متعلق ہے ، جو لوگ اس آیت سے قبر شریف میں آپ صلے اللہ علیہ وسلم کی حیات کی نفی پر استدلال کرتے ہیں وہ دیوانوں کی بڑھانکتے ہیں ان کو اپنی عقل کا علاج کرانا چاہیے ۔

اگر کبھی موقع ملا تو میں تفصیل سے بتلاؤں گا کہ اس بارے میں

marfat.com

اہلسنت کا کیا عقیدہ ہے اور جمہور اہل اسلام کا مذہب کیا ہے، اور ان غیر مقلدین کے پاس سوائے ابن تیمیہ و ابن قیم و محمد بن عبد الوہاب کے نقش پا کے پیچھے پیچھے دوڑنے کے اور کچھ نہیں ہے۔

عدو کو دوست لیڈر کو رہنما کہہ دے
یہ مصلحت کی زباں کب نہ جانے کیا کہدے

مولانا عبدالرحمٰن مبارکپوری کی عصبیت اور ان کی امام ابوحنیفہ دشمنی

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ نقل کیا ہے کذلك قال الفقهاء وهم اعلم بمعنى الحديث، یعنی فقہاء نے ایسا ہی کہا ہے اور وہ (یعنی فقہاء) حدیث کے مطلب کو زیادہ جانتے ہیں۔

اس پر مولانا مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ بگڑ گیا غیر مقلدیت کی رگ پھڑک اٹھی تعصب کا بے پناہ جذبہ کام کرنے لگا اسلئے کہ مولانا مبارکپوری کو یہ گوارا نہیں تھا کہ حضرت امام شافعی فقہاء کی شان میں ایسی بات فرمائیں اس لئے کہ سرتاج فقہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور امام ابو حنیفہ حدیث کے معنی کو زیادہ جاننے والے ہوں غیر مقلدین بھلا اس کو کب گوارا کریں گے، اس لئے امام شافعی کے اس قول کی توجیہ و تاویل مولانا مبارکپوری کے لئے ضروری ہوگئی اگرچہ امام شافعی علیہ الرحمۃ کی روح مولانا مبارکپوری کی اس تاویل و توجیہ سے تڑپ اٹھی ہوگی۔

دیکھئے امام شافعی کے اس قول کی مراد ہمارے مبارکپوری غیر مقلد عالم و محدث کیا بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں:

المراد بالفقهاء الفقهاء من المحدثين كسفيان الثوري

marfat.com

والامام مالک والامام الشافعی والامام احمد بن حنبل وعبداللہ بن المبارک واسحٰق بن راھویہ وغیرھم،

(تحفہ ج ۲ ص ۱۳۱)

یعنی امام شافعی نے جو یہ فرمایا کہ فقہار حدیث کا معنی زیادہ جانتے ہیں تو فقہار سے مراد محدثین فقہار ہیں جیسے سفیان ثوری امام مالک امام شافعی امام احمد عبداللہ بن مبارک اور اسحٰق بن راہویہ وغیرہ۔

دیکھا آپ نے امام ابوحنیفہ جو فقہار کے سردار ہیں اور چاروں ائمہ فقہ میں سے آپ کا نام ہراعتبار سے سب سے پہلے نمبر پر ہے، مولانا مبارکپوری نے انکو فقہار کی فہرست سے خارج کردیا، یہ ہیں ماشاءاللہ اللہ والے کتاب وسنت کے متوالے عصبیت وجمود سے خالی لوگ اور محقق ومحدث اصحاب توحید وایمان۔

علامہ کوثری ایسے متعصبین کے بارے میں فرماتے ہیں:

"یہ جاہل جانتے نہیں کہ جسکو اللہ بلند کرنا چاہے اس کو پست بنانے اور نیچا دکھلانے کا کوئی حیلہ کارگر نہیں ہوسکتا۔"

امام ترمذی کی شان میں مولانا مبارکپوری کی ہفوات اور ان کی تضاد بیانی

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ومرتبہ کسی بھی پڑھے لکھے آدمی سے مخفی نہیں انکی مشہور زمانہ کتاب جامع ترمذی کو اللہ نے جو مقبولیت ومحبوبیت امت میں عطا کی ہے وہ بھی ناقابل انکار حقیقت ہے، امام ترمذی باتفاق علمار امت ثقہ ثبت حجت اور حافظ حدیث تھے، مولانا مبارکپوری نے بھی جامع ترمذی کی شرح لکھی ہے اور اپنی کتاب کا نام تحفۃ الاحوذی رکھا ہے، میں نے ترمذی شریف کی متعدد شرحوں کا مطالعہ کیا ہے مگر مولانا مبارکپوری نے امام

marfat.com

ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ہفوات بکی ہیں اور جتنی تضاد بیانیاں کی ہیں یہ بات مجھے کسی اور ترمذی کی شرح میں نظر نہیں آئی، تحفۃ الاحوذی پر تو میں انشاء اللہ کسی دوسری فرصت سے مفصل گفتگو کروں گا اور اپنا تاثر ظاہر کروں گا، یہاں اختصار میں مولانا مبارکپوری کی امام ترمذی کے بارے میں تضاد بیانی اور ہفوات کے چند نمونے ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) امام ترمذی نے حضرت بریدہ کی ایک حدیث کے بارے میں فرمایا کہ "وحدیث بریدۃ فی ھذا غیر محفوظ" یعنی کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کے بارے میں حضرت بریدہ کی حدیث محفوظ نہیں ہے۔

اس پر علامہ عینی فرماتے ہیں "فی قول الترمذی ھذا نظر" یعنی امام ترمذی کا یہ کلام قابل غور ہے، چونکہ علامہ عینی حنفی محدث ہیں اس وجہ سے مولانا مبارکپوری حافظ عینی کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

قلت الترمذی من ائمۃ ھذا الشان فقولہ حدیث بریدۃ فی ھذا غیر محفوظ یعتمد علیہ (ص۲۳/ج۱)

یعنی میں کہتا ہوں کہ ترمذی اس علم کے امام ہیں اسلئے ان کا حدیث بریدہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ غیر محفوظ ہے اس پر اعتماد کیا جائیگا (۱)

---

(۱) جس حدیث کے بارے میں یہ علمی گفتگو ہو رہی ہے اسکو امام بزار نے صحیح اور مرفوع سند سے حضرت بریدہ سے ذکر کیا ہے اسی وجہ سے حافظ عینی کو امام ترمذی کے حدیث بریدہ کے بارے میں "غیر محفوظ" کہنا "محل نظر" نظر آیا، اس پر مولانا مبارکپوری کا یہ دلچسپ تبصرہ بھی پڑھئے اور داد دیجئے کہ غیر مقلدین کس درجہ متعصب اور دشمن حدیث ہوتے ہیں مولانا مبارکپوری

marfat.com

دیکھئے اس عبارت میں امام ترمذی کی علمی مقام اور فن حدیث میں ان کی عظمت شان کا کیسے کھلے الفاظ میں اعتراف کیا جارہا ہے، اس لئے کہ موقع حافظ عینی حنفی کے کلام کے ذکر نے کا ہے۔

(۲) امام ترمذی نے تعجیل ظہر (ظہر کی نماز جلدی پڑھنے) کے سلسلہ کی حضرت عائشہ کی ایک حدیث روایت کی ہے، اس روایت میں ایک راوی حکیم بن جبیر ہے جو محدثین کے نزدیک متکلم فیہ ہے، اور جس روایت کی سند میں ایسا کوئی راوی ہو اس کو یہ غیر مقلدین اگر وہ حدیث ان کے مذہب کے خلاف ہو تو بڑی بے دردی سے ٹھکرا دیتے ہیں مگر سنئے یہاں مبارکپوری صاحب کیا فرماتے ہیں:

قد حسن الترمذی هذا الحدیث وفیه حکیم بن جبیر وهو متکلم فیه فالظاهر انه لم یر بحدیثه باسا وهو من ائمة هذا الفن (ج۱ ص ۱۴۶ تحفه)

یعنی اس حدیث کی امام ترمذی نے تحسین کی ہے، حالانکہ اسمیں ایک راوی حکیم بن جبیر ہے اور وہ متکلم فیہ ہے، اب ظاہر ہے کہ امام ترمذی نے اسکی حدیث میں کوئی حرج نہیں دیکھا، اور امام ترمذی تو اس فن کے اماموں میں سے ہیں۔

تعجیل ظہر کا مسئلہ غیر مقلدوں کے دل لگتا مسئلہ تھا اس وجہ سے یہ حدیث اگرچہ اس کی سند میں ایک مجروح و متکلم فیہ بھی راوی ہے مولانا مبارکپوری کے نزدیک

فرماتے ہیں: ـــــ واما اخراج البزار حدیثه بسند ظاهره الصحة لاینافی کونه غیر محفوظ۔ جی ہاں اگرچہ امام بزار نے اس حدیث بریدہ کو صحیح سند سے ذکر کیا ہے مگر ہمیں پھر بھی یہ حدیث تسلیم نہیں، اسلئے کہ ہم غیر مقلد کسی حنفی حافظ حدیث کی بات ماننے والے نہیں۔

marfat.com

قابل قبول ہوگئی اس وجہ سے کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو اچھا کہہ دیا تھا۔
اور چونکہ امام ترمذی اس فن کے امام ہیں اس وجہ سے ان کے اس حدیث کو اچھا
کہدینے کے بعد سند میں مجروح راوی کے باوجود یہ حدیث قابل قبول ہوگی۔
یہاں بھی امام ترمذی کے بارے میں مولانا مبارکپوری کا یہ اعتراف
سامنے رہے۔ "وھو من ائمۃ الفن" یعنی امام ترمذی امام فن ہیں۔
اب آئیے دیکھئے امام ترمذی کے بارے میں مولانا مبارکپوری کی
تضاد بیانی اور ابھی ابھی جس کی امامت فن کا اس زور و شور سے دعویٰ تھا
اس کی امامت کی یہ مولانا مبارکپوری کس طرح دھجیاں بکھیرتے ہیں۔
(۳) حافظ عینی نے ایک حدیث کے بارے میں کہا کہ امام ترمذی نے اس
حدیث کی تحسین کی ہے اسلئے وہ قابل قبول ہے، اس پر مولانا مبارکپوری صاحب
فرماتے ہیں:

واما استدلالہ علی ذلک بما حسن الترمذی عدۃ
احادیث رواھا عن ابیہ فمبنی علی انہ لم یقف علی
ان الترمذی قد یحسن الحدیث مع الاعتراف بانقطاعہ [1]

(ج ۱ ص ۳۰ التحفہ)

یعنی علامہ عینی کا استدلال کرنا اس وجہ سے کہ امام ترمذی نے متعدد
احادیث کی تحسین کی ہے، تو وہ اس پر مبنی ہے کہ حافظ عینی کو اس کی
واقفیت نہیں تھی کہ امام ترمذی کبھی حدیث کی تحسین حدیث کے منقطع
ہونے کے باوجود بھی کر دیتے ہیں۔
دیکھا آپ نے یہاں چونکہ یہ حدیث مزاج یار کے خلاف تھی اس وجہ سے امام ترمذی
کی حدیث کی تحسین ناقابلِ اعتبار ہوگئی اور ابھی تک جس کی فن حدیث میں امامت
کا بڑی دھوم دھام سے تذکرہ تھا اس ساری دھوم دھام کی ہوا نکل گئی۔

marfat.com

(۴) امام ترمذی نے ایک روایت کو جو اسرائیل کے طریق سے تھی زبیر کی روایت پر تین وجہوں سے ترجیح دی ہے، اس پر امام ترمذی پر رد کرتے ہوئے مولانا مبارکپوری فرماتے ہیں:

قلت فی کل من هذه الوجوه الثلاثة نظر (ج ۱ ص ۲۵)

میں کہتا ہوں کہ ترمذی کی ان تینوں ترجیح کی وجہوں میں نظر ہے (یعنی ہمیں وہ قبول نہیں)

جو ابھی ابھی من ائمة هذا الفن ومن ائمة هذا الشان تھا، اس کی بات کو رد کرکے اس کی امامت کی دھجیاں مبارکپوری صاحب نے بکھیر دی۔

(۵) امام ترمذی نے ایک حدیث کے بارے میں فرمایا "حدیث ابن عمر اصح شیء فی هذا الباب" یعنی ابن عمر والی حدیث اس مسئلہ میں سب سے صحیح حدیث ہے۔

اس کا رد کرتے ہوئے مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں اور امام ترمذی پر اپنا تفوق یوں ظاہر کرتے ہیں۔ قول الترمذی هذا الحدیث اصح شیء فی هذا الباب فیه نظر بل اصح شیء فی هذا الباب هو حدیث ابی هریرة (ص ج ۱ ایضا)

یعنی ترمذی کا اس حدیث کو اس باب کی سب سے صحیح حدیث کہنا تسلیم نہیں ہے بلکہ اس باب کی سب سے صحیح حدیث ابوہریرہ والی ہے۔

دیکھا آپ نے امام ترمذی کے مقابلہ میں مبارکپوری کا طنطنہ، اگر امام ترمذی زندہ ہوتے تو میں ان سے گذارش کرتا کہ آپ نے امام بخاری کی شاگردی اختیار کرکے فن حدیث کے بارے میں کچھ نہیں جانا اعظم گڈھ کے قصبہ مبارکپور جائیے وہاں فن حدیث کے ایک بڑے ماہر موجود ہیں ان سے استفادہ کیجئے۔

(۶) امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے الصلح جائز بین المسلمین الخ

کی تصحیح کی ہے فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح یعنی یہ حدیث حسن صحیح ہے، اس پر رد کرتے ہوئے مبارکپور کے محدث صاحب فرماتے ہیں:

"وفی تصحیح الترمذی ھذا الحدیث نظر"

یعنی امام ترمذی نے جو اس حدیث کو صحیح کہا ہے وہ تسلیم نہیں۔

اور صرف اتنے ہی پر مبارکپوری صاحب نے اکتفا نہیں کیا بلکہ امام ترمذی کے بارے میں یہ بکواس بھی کی۔

"فلھذا لایعتمد العلماء علی تصحیحہ" (ج ۲ ص ۲۸۴)

یعنی اسی وجہ سے علماء امام ترمذی کی تصحیح پر اعتماد نہیں کرتے ہیں" (۱)

دیکھا آپ نے امام ترمذی کی کیسی توقیر ہو رہی ہے اور ان کے ہاتھوں جنھوں نے امام ترمذی کی امامت کا فن حدیث میں بڑے زور و شور سے دعوی کیا تھا۔

اس امام حدیث کے بارے میں یہ گستاخانہ اظہار خیال غیر مقلدوں کے نزدیک "اظہار رائے کی آزادی" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور غیر مقلدین اپنی

---

(۱) اور لطف یہ ہے کہ جب ایک جگہ اپنے مطلب کی بات تھی تو امام ترمذی کی تصحیح پر یہ خامہ فرسائی کی جاتی ہے اور ضعیف احادیث کو صحیح قرار دیا جاتا ہے۔

وھذہ الاحادیث یقوی بعضھا بعضا لاسیما بعد تصحیح الترمذی وابن حبان لحدیث الباب (ج ۲ ص ۲۳۲ التحفہ)

یعنی یہ حدیثیں انکی بعض بعض کو قوی بناتی ہیں خاص طور پر جب کہ اس باب کی حدیث کی امام ترمذی اور امام حاکم نے تصحیح بھی کردی ہے۔

یہاں مبارکپوری صاحب امام ترمذی کی تصحیح پر اعتماد کا اظہار فرما رہے ہیں اور اس اعتماد کے سہارے ضعیف حدیثوں کو صحیح قرار دے رہے ہیں، کچھ ٹھکانا ہے مبارکپوری صاحب کی اس تضاد بیانی اور پینترا بازی کا۔

marfat.com

اس صفت خاص پر بڑا ناز کرتے ہیں (۱)

(۷) امام ترمذی ایک حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں:

هذا الحديث لا يصح من قبل اسناده

یعنی یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔

مولانا مبارکپوری امام ترمذی کی اس بات کو اس خوبصورت طریقہ سے رد کرتے ہیں:

ای من جهة اسناده وان كان صحيحا باعتبار معناه (ج ۲ ص ۱۸۵)

یعنی یہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے اگرچہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہے۔

یہ نکتہ جو مولانا مبارکپوری کو سوجھا وہ امام ترمذی کو نہیں سوجھا

(۸) امام ترمذی نے حضرت جابر کی درج ذیل حدیث ذکر کی

ان النبي صلی الله علیه وسلم سئل عن العمرة اواجبة هی؟ قال لا، وان یعتمروا هو افضل۔

یعنی آنحضور سے پوچھا گیا کہ کیا عمرہ واجب ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اگر لوگ عمرہ کریں تو افضل ہے۔

اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں هذا حديث حسن صحيح یعنی یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

---

(۱) ناظرین غور فرمائیں جب امام ترمذی کے کسی صحیح حدیث کو صحیح کہنے پر علماء اعتبار نہیں کرتے تو پھر امام ترمذی کی فن حدیث میں حیثیت کیا رہ گئی، اور انکی کتاب کی کیا قیمت باقی رہ گئی محدثین کی صف کے ایک امام جلیل القدر کے بارے میں یہ ان کا کہنا ہے جو اپنے کو "اہلحدیث" کہتے ہیں۔

marfat.com

امام ترمذی علیہ الرحمہ پر رد کرتے ہوئے مولانا مبارکپوری یہ ارشاد فرماتے ہیں وقد عرفت انہ ضعیف لایصلح للاحتجاج (ج۲ ص۱۱۴)

یعنی تم کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ حدیث کمزور ہے اس کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ اس کو دلیل بنایا جائے۔

یہاں بھی مبارکپوری صاحب حدیث کے سلسلہ میں اپنا تفوق امام ترمذی پر ظاہر کر رہے ہیں اور بھول گئے کہ امام ترمذی کے بارے میں وہ من ائمة هذا الشان اور من ائمة هذا الفن لکھ چکے ہیں۔

(۹) ایک حدیث کے بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں:

هذا حديث حسن ۔

اس پر مبارکپوری صاحب کو غصہ آگیا اور امام ترمذی کی تردید میں ارشاد ہوا:

فی کون هذا الحديث حسنا نظر فان ابا الزبير ليس له سماع عن ابن عباس وعائشة (ج۲ ص۱۱۱)

یعنی امام ترمذی کا یہ فرمانا کہ یہ حدیث حسن ہے یہ تسلیم نہیں اسلئے کہ ابوزبیر کو ابن عباس اور عائشہ سے سماع حاصل نہیں ہے۔

یعنی جو بات مبارکپوری صاحب کو معلوم تھی اس سے امام ترمذی بے خبر تھے اس وجہ سے انھوں نے ایک ضعیف حدیث کو حسن قرار دیدیا۔ اور مولانا مبارکپوری کو اس غلط بات کی تصحیح کرنی پڑی، جی ہاں، مولانا مبارکپوری کی قابلیت اور حدیث دانی امام ترمذی سے بہت بڑھی ہوئی تھی۔

(۱۰) امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ربیع بنت معوذ بن عفراء کی مسح راس کے بارے میں حدیث ذکر کی اور اس کو حسن قرار دیا، مولانا مبارکپوری اس کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

marfat.com

حدیث ربیع بنت معوذ له روایات والفاظ ومدار الکل علی بن عبد اللہ بن محمد بن عقیل وفیہا مقال مشہور لاسیما اذا عنعن۔ (ج ۲ ص ۴۵)

یعنی ربیع بنت معوذ کی حدیث کے مختلف الفاظ ہیں اور سب کا مدار علی بن عبد اللہ بن عقیل پر ہے اور انکی حدیث میں مشہور کلام ہے خاص طور پر جب وہ حدیث کو معنعن روایت کریں (تو وہ قابل قبول نہیں)
غرض اس حدیث کو بھی اور امام ترمذی کی اس تحسین کو بھی مولانا مبارکپوری صاحب نے ردی کھاتہ میں ڈالدیا۔

ناظرین کرام! میں نے مولانا مبارکپوری غیر مقلد عالم کی مشہور زمانہ کتاب تحفۃ الاحوذی سے ان کی تضاد بیانی اور امام ترمذی کے بارے میں انکے عدم اعتماد کی یہ دس مثالیں پیش کی ہیں، آپ ان مثالوں میں غور کر کے خود فیصلہ فرمائیں کہ کیا اس بات کی دانستہ کوشش نہیں ہے کہ امام ترمذی اور انکی کتاب جامع ترمذی کو ساقط الاعتبار قرار دیا جائے، اور امام ترمذی پر حدیث دانی میں اپنا "تفوق" دکھلایا جائے۔

اور یہ کوشش انکی جانب سے ہے جو حدیث وسنت کے متوالے اور محدثین سے بے پناہ لگاؤ رکھنے والے اور اصحاب توحید والایمان اور کتاب وسنت کی دعوت کے علمبردار ہیں۔

رہِ حیات میں جو خود بھٹک رہے ہیں ہنوز
بزعمِ خویش وہ اٹھے ہیں رہبری کے لئے

marfat.com

امام بخاری پر مولانا مبارکپوری کا رد

ابھی آپ نے اوپر کی مثالوں میں دیکھا کہ مولانا مبارکپوری غیر مقلد عالم نے امام ترمذی کے بارے میں کیا کیا ہفوات کی ہیں اور انکو پایہ اعتبار سے گرانے کے لئے انکی کوشش کیا رہی ہے اب آئیے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ مولانا مبارکپوری اپنا "تفوق" امام بخاری پر بھی کیسے ظاہر کرتے ہیں۔ مولانا مبارکپوری فرماتے ہیں:

(۱) وقد اشار البخاری فی صحیحہ الی الجمع بین الاحادیث بان یحمل حدیث ابن عمر و جابر علی الیوم الاول وحدیث ابن عباس و عائشۃ ھذا علی بقیۃ الایام۔

یعنی امام بخاری نے اپنی صحیح میں ان احادیث کے درمیان تطبیق کی طرف اشارہ کیا ہے اس طرح پر کہ ابن عمر اور جابر کی حدیث کو پہلے دن پر محمول کیا جائے اور ابن عباس اور عائشہ والی حدیث کو بقیہ ایام پر۔

امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو مختلف احادیث میں جمع و تطبیق کی راہ اختیار کی یہی محتاط محدثین کا طریقہ عمل ہے، مختلف احادیث میں سے کسی حدیث کو رد کرنے سے بہتر یہ بات ہے کہ ان مختلف احادیث میں تطبیق پیدا کر دی جائے تاکہ کوئی حدیث رد نہ ہو، مگر مولانا مبارکپوری جو ماشاء اللہ حدیث دانی میں بزعم خویش امام بخاری پر بھی فوقیت رکھتے ہیں امام بخاری کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

قلت حدیث ابن عباس و عائشۃ المذکور فی ھذا الباب ضعیف کما ستعرف فلا حاجۃ الی الجمع الذی اشار

marfat.com

الیہ البخاری (ج ۲ ص ۱۱۱)

یعنی میں کہتا ہوں کہ ابن عباس اور عائشہ کی اس باب میں مذکور حدیث کمزور ہے اسلئے اس تطبیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے جسکی طرف بخاری نے اشارہ کیا ہے۔ (۱)

دیکھا آپ نے مولانا مبارکپوری کا طنطنہ اور پندار علمی، یعنی جو بات مولانا مبارکپوری کو حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ والی حدیث کے بارے میں معلوم ہے، امام بخاری اس سے ناواقف تھے، اسی کو کسی نے کہا ہے۔

زاغوں کو بھی ہے دعویٰ شاہیں کی ہمسری کا

(۲) امام ترمذی ایک حدیث کے سلسلہ میں فرماتے ہیں:

قال محمد حدیث المبارك خطأ اخطأ فیہ ابن المبارك

یعنی امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابن المبارک کی حدیث خطا ہے، اس میں ابن مبارک سے خطا ہوئی ہے۔

اس پر مولانا مبارکپوری امام بخاری کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

قلت، لقائل ان یقول ابن المبارك ثقة حافظ فیمکن ان یکون الحدیث الخ (ص ۱۵۵/۲ التحفہ)

یعنی میں کہتا ہوں کہ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ابن مبارک ثقہ اور حافظ ہیں اسلئے کہ ممکن ہے کہ یہ حدیث (اسطرح ہو اور پھر مبارکپوری صاحب نے اس حدیث کی صحت ثابت کی ہے)

میں کہتا ہوں کہ کیا امام بخاری اس بات سے واقف نہیں تھے کہ ابن مبارک

---

(۱) جب کہ خود مبارکپوری صاحب کا ارشاد ہے الجمع بین الحدیثین اولیٰ من الغاء احدھما یعنی دونوں حدیثوں کا جمع کرنا ایک کے رد کر دینے سے بہتر ہے ص ۲۷۲/۲

marfat.com

کون ہیں ؟ یا جو توجیہ اس حدیث کو صحیح قرار دینے کی آپ نے کی ہے اس سے امام بخاری جاہل تھے ؟ کیا علم حدیث میں امام بخاری پر اپنے تفوق کی یہ گھٹیا مثال نہیں ہے ؟۔

اگر کوئی حنفی امام بخاری پر ذرا سا بھی کلام کر دے تو غیر مقلدین آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں مگر اپنا یہ حق ضرور سمجھتے ہیں کہ وہ امام بخاری کے کلام کو رد کریں اور ان پر اعتراض کریں۔

مولانا مبارکپوری کے تعصب کی ایک واضح مثال

مولانا مبارکپوری جو اہل توحید والایمان اور کتاب وسنت پر چلنے والے مدعیوں کی جماعت کے سرخیل ہیں انکی احناف دشمنی اور کھلے تعصب کی ذرا یہ مثال ملاحظہ ہو۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کی سند کے بارے میں فرماتے ہیں ہشام بن عروہ نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ " ھذا اسناد مشرق "، یعنی اس کی سند مشرقی ہے، اس کلام میں یہ تعریض ہے کہ یہ سند صحیح نہیں ہے اس کی شرح میں ہمارے مولانا مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں :

ای رواۃ ھذا الحدیث اھل الشرق و ھم اھل الکوفۃ والبصرۃ کذا فی بعض الحواشی (ج ۱ ص ۶۳)

یعنی اس حدیث کے راوی مشرق کے لوگ ہیں اور وہ اہل کوفہ و بصرہ ہیں، بعض حواشی میں ایسا ہی لکھا ہے۔

یہ مولانا مبارکپوری کا انتہائی درجہ کا تعصب اور انکی احناف دشمنی ہے، مولانا مبارکپوری نے تو اہل کوفہ کہکے مزہ لے لیا اور اپنی غیر مقلدیت کا اظہار کر دیا اور حوالہ کے لئے بعض مجہول قسم کے حواشی کا بھی تذکرہ کر دیا، مگر شاید انکو پتہ نہیں تھا

marfat.com

کہ اہل علم خود اس حدیث کی سند دیکھ کر معلوم کرلیں گے کہ مولانا مبارکپوری نے جھوٹ بولا ہے اور صریح دروغ بیانی سے کام لیا ہے، اس حدیث کے راوی کے درج ذیل حضرات ہیں۔

حریث المروزی، محمد بن یزید الواسطی، عبد الرحمٰن بن زیاد الافریقی۔

بتلائیے کہ ان تینوں میں سے کون راوی کوفہ یا بصرہ کا ہے، ایک مرو کا ہے ایک واسط کا ہے اور ایک افریقہ کا ہے، کوفہ اور بصرہ کا ان تینوں میں سے ایک راوی بھی نہیں۔ مگر مولانا مبارکپوری صاحب اپنی تحقیق یہ پیش کر رہے ہیں کہ اسناد مشرقی سے مراد اہل کوفہ اور اہل بصرہ ہیں، گویا علم غیر مقلدوں کے گھر کی بیوی ہے یہ جو کہدیں گے بس آنکھ بند کر کے اس کو تسلیم کر لیا جائے گا۔

صحابہ کرام قیاس کرتے تھے

تحفۃ الاحوذی میں مولانا مبارکپوری نے ابن قیم کا یہ کلام نقل کیا ہے:

قال ابن القیم، قال المزنی الفقہاء من عصر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الی یومنا وھلم جرا استعملوا المقائیس فی الفقہ فی جمیع الاحکام فی امر دینھم (ج۲ ص۲۷۶)

یعنی ابن قیم نے فرمایا کہ مزنی کا قول تھا کہ آنحضور صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لیکر ہمارے زمانہ تک فقہاء تمام دینی وفقہی مسائل میں قیاس کا استعمال کرتے تھے۔

مولانا مبارکپوری اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

- الامر کما قال ابن القیم۔ یعنی بات ایسی ہی ہے جیسا کہ ابن قیم نے کہا

marfat.com

جی ہاں بات یہی درست ہے کہ صحابہ کرام کے زمانہ سے لیکر ہر زمانہ میں علماء دینی و شرعی مسائل میں قیاس کیا کرتے تھے جیسا کہ ابن قیم امام مزنی اور مولانا مبارکپوری کا بیان ہے مگر آج کے غیر مقلدین اسی قیاس کا نام لے کر احناف کو چڑھاتے ہیں اور فقہ کے بارے میں بد زبانیاں کرتے ہیں اور اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں۔

کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مذموم نہیں ہے

علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو جائز قرار دیتے ہوئے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی عادت بنالینے کو مناسب نہیں جانا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آج کل یہ غیر مسلموں کا طریقہ بن گیا ہے اسلئے مسلمانوں کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔

یہ بات کس قدر معقول تھی مگر غیر مقلدوں کو احناف کی معقول بات بھی غیر معقول ہی سمجھ میں آتی ہے، چنانچہ علامہ کشمیری کا رد کرتے ہوئے مولانا مبارکپوری فرماتے ہیں:

قلت بعد التسليم ان البول قائما رخصة لا وجه للمنع عنه في هذا الزمان واما عمل غير اهل الاسلام عليه فليس موجبا للمنع (ج ۱ ص ۲۴)

یعنی میں کہتا ہوں کہ جب یہ تسلیم ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی رخصت ہے تو پھر اس زمانہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو منع کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ یہ غیر مسلموں کا عمل ہے یہ کوئی منع کرنے کی وجہ نہیں ہے۔

marfat.com

دیکھ رہے ہیں آپ جب اللہ تعالیٰ کسی سے دین کی سمجھ ایمان کا نور اور فقہ کی بصیرت چھین لیتا ہے تو وہ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے اور اُلٹی ہانکتا ہے۔ جی ہاں، یہ ماشاء اللہ، اہلحدیث لوگ ہیں "۔
ضرورۃً کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کی اجازت ہے ورنہ آنحضور کا معمول یہ تھا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر تم سے کوئی کہے کہ آنحضور صلے اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوکر پیشاب کرتے تھے تو اس کی بات مت مانو۔ (ترمذی)

سنت مؤکدہ چھوڑنے پر مواخذہ نہیں

مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری مرحوم سے سوال ہوا:
کوئی شخص فرض نماز ادا کرے اور سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ ترک کردے تو خدا کے پاس اس ترک سنت کا کیا مواخذہ ہوگا؟
مولانا مرحوم نے اس کا جواب دیا:
سنتوں کی وضع رفع درجات کیلئے ہے ترک سنن سے رفع درجات میں کمی رہتی ہے مواخذہ نہیں ہوگا، انشاء اللہ
(فتاویٰ ثنائیہ جلد ا ص ۶۲۷)
سنت مؤکدہ بھی چھوڑنے پر مؤاخذہ نہیں ہوگا! یہ ہے بلبلان گلزار محمدی کا مذہب، ان کی زبان پر صرف سنت کا نام ہوتا ہے اور مذہب وہ وہ ہوتا ہے جس کا سلف میں کوئی بھی قائل نہ ہو، البتہ زبان پر یہ قوالی ضرور ہوگی ؎

یارب مروں میں سنتِ خیرالوریٰ کے ساتھ
محشر میں بھی کھڑا ہوں شفیع الوریٰ کے ساتھ

marfat.com

حضرت مجدد الف ثانی کے متعلق ایک غیر مقلد کی بکواس

حکیم فیض عالم مشہور غیر مقلد پاکستانی عالم ہیں، صحابہ کرام تک کی بارگاہ میں حد درجہ گستاخ بڑوں بڑوں کو تبھرہ رسید کر دیتے ہیں، اپنی جماعت غیر مقلدین میں محقق شمار ہوتے ہیں، بدزبانی اور بے لگامی میں ید طولےٰ رکھتے ہیں، وہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں!

"ہندوستان میں اس سلسلہ (نقشبندیہ) کے سب سے بڑے بزرگ حضرت خواجہ باقی باللہ ہوئے ہیں، جن کے مرید خواجہ احمد فاروق سرہندی تھے جنھوں نے اپنے لئے مجدد الف ثانی کا خطاب خود تجویز کیا یا ان کیلئے مریداں می پرانند کی طرف سے ان کیلئے تحفہ کے طور پر پیش کیا گیا . . . . ہمیں آپ کے مکتوبات سے یہ ضرور نظر آتا ہے کہ آپ نے کتاب و سنت کے علی الرغم فقہ حنفی کے فرسودہ نظریات کو پھیلانے کی کوشش کی اور شیعوں کے تصور امامت سے متاثر ہو کر اپنے لئے ایک مقام پیدا کرنے کی کوشش کی۔"

(اختلاف امت کا المیہ ص ۳۲۵)

مزید یہ گستاخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں یہ بکواس کرتا ہے:

"حقیقت یہ ہے کہ حضرت خواجہ شیعہ سنی کے الجھے ہوئے تصور امامت کی پیداوار تھے، خود تو ان کی جیسی گزر گئی مگر جہاں اولاد کے لئے بے تاج بادشاہی چھوڑ گئے وہیں مرزا غلام احمد قادیانی جیسے لوگوں کیلئے نبوت کی راہ بھی ہموار کر گئے۔" (اختلاف امت کا المیہ ص ۳۲۵)

"چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔"

marfat.com

علمائے امت اکابر دین اور بزرگوں پر تبرا بھیجنا یہ غیر مقلدیت کا خاصہ ہے، اللہ والوں سے انکو خاص ازجی ہے، اللہ تعالیٰ انکو ہدایت نصیب کرے، اگر میں غیر مقلدیت کو زمانہ حال کا زبردست فتنہ کہتا ہوں تو کیا غلط کہتا ہوں ؟

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس غیر مقلد کی بکواس

یہی غیر مقلد حکیم فیض عالم صاحب فرماتے ہیں :

"سیدنا علی کے خودساختہ حکمرانہ عبوری دور کو خلافت راشدہ میں شمار کرنا صریحاً بددیانتی ہے، مگر اغیار نے جس چابکدستی سے آنجناب کی نام ونہاد خلافت کو خلافت حقہ ثابت کرنے کیلئے دنیائے سبائیت سے درآمد کردہ مواد سے جو کچھ تاریخ کے صفحات میں قلمبند کیا ہے اسکا حقیقت سے قطعاً کوئی تعلق یا واسطہ نہیں۔"

(خلافت راشدہ ص۵۶)

میرے قلم میں تاب نہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد، بنت رسول صلے اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے شوہر اور آقائے دوجہاں کے داماد اور اسلام میں پہلے مسلمان کے بارے میں اس غیر مقلد کے اس گستاخانہ کلام پر کوئی تبصرہ کروں، بس ناظرین سے گزارش کروں گا کہ غیر مقلدیت آدمی کو کہاں لے جاتی ہے اس کا اندازہ لگالیں۔

یہی غیر مقلد صاحب حضرت علی کے بارے میں مزید نشتر زنی کرتے ہوئے یوں گویا ہوتے ہیں۔

"ہمیں اس مقام پر یہاں مکرر یہ کہنے کی اجازت دیجیئے کہ سیدنا علی کی نام نہاد خلافت نہ تو قرآنی معیار پر پوری اترتی دکھائی دیتی ہے

marfat.com

نہ نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خلافت کے متعلق کوئی اشارہ فرمایا بلکہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا ولا ارا کم فاعلین اور نہ ہی کسی صحابی نے آپ کی خلافت پر بیعت کی تھی اور نہ محض زبانی ہی آپ کی خلافت کو تسلیم کیا تھا اور نہ ہی بعد کے مؤرخوں نے آپکی خلافت کے حق میں کوئی ثبوت پیش کیا ہے تو آج کے ان بزعم خویش ملاؤں کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ سیدنا علیؓ کو خلافت راشدہ میں شمار کر کے بالواسطہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تکذیب کا ارتکاب کریں نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کو جو بات نہ سوجھی وہ زکوٰۃ وصدقات اور خیرات کی روٹیوں پر پلنے والے اور یتیم خانوں کے مطبخوں کی ہنڈیا چاٹ کر پروان چڑھنے والے نام نہاد مولویوں کو نظر آگئی اور آج انھوں نے خلافتِ راشدہ حق چار یار کے نعروں سے ایک عالم کو پریشان کر رکھا ہے۔"

(خلافت راشدہ ص ۷۸ - ۷۹)

کیا کسی باغیرت مسلمان کے بس کی بات ہے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان باتوں کو سن کر خاموشی سے برداشت کر لے، آپ اندازہ لگائیں کہ غیر مقلدیت نے اذہان کو کس طرح مسموم کر رکھا ہے، اور تقلید سے آزاد ہو کر یہ غیر مقلدین اسلاف امت کے بارے میں کس قدر بے باک ہو جاتے ہیں، اور جماعت غیر مقلدین میں ایسے لوگوں کو محقق اور مفکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

فریب روشنی میں آنے والو میں نہ کہتا تھا
کہ بجلی آشیانے کی نگہباں ہو نہیں سکتی

اس غیر مقلد عالم کی تمام کتابیں اسی قسم کی گندی اور بد عقیدگی کی باتوں

marfat.com

سے پُر ہیں مگر یہ غیر مقلد صاحب غیر مقلدوں کی جماعت میں۔ مجاہد دین وملت کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں۔

نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیأت اعمالنا من یھد اللہ فلا مضل لہٗ ومن یضللہ فلا ھادی لہٗ۔

حضرات حسنین کو صحابہ میں شمار نہیں کیا جا سکتا

اس غیر مقلد عالم حضرات حسنین رضی اللہ عنہما سے اس قدر بغض ہے کہ وہ انھیں زمرۂ صحابہ میں شمار کرنے کو بھی تیار نہیں۔ لکھتا ہے:

حضرات حسنین کو زمرۂ صحابہ میں شمار کرنا صریحاً سبائیت کی ترجمانی ہے یا اندھا دھند تقلید کی خرابی۔ (سیدنا حسن بن علی ص ۲۳)

اس غیر مقلد عالم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں ایسی ایسی فحش اور گندی باتیں لکھی ہیں۔ جن سے اس کے قلب کی سیاہی کا اندازہ لگتا ہے، میں ان باتوں کو ہزار کوشش کے باوجود نقل نہیں کر پا رہا ہوں۔ یہاں حضرت علی اور حضرات حسنین کے بارے میں جو کچھ نقل کیا ہے وہ بھی دل پہ بہت جبر کر کے ورنہ قلم کا اس وقت چلانا دشوار ہو رہا ہے۔

حضرت ابوذر غفاری کے بارے میں غیر مقلدین کا نظریہ

یہی حکیم فیض عالم غیر مقلد جماعت کا محقق اور مجاہد ملت حضرت ابوذر غفاری کے متعلق یہ لکھتا ہے۔ علامہ اقبال کا یہ مشہور شعر ہے۔

مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو کس نے
وہ کیا تھا زور حیدر، فقر بوذر صدق سلیمانی

اس شعر پر تنقید کرتا ہے:

marfat.com

"اس شعر میں دوسرے نمبر پر حضرت ابوذر غفاریؓ کا نام ہے۔ جو ابن سبا کے کمیونسٹ نظریہ سے متأثر ہوکر ہر کھاتے پیتے مسلمان کے پیچھے لٹھ لیکر بھاگا کرتے تھے (۱)" (خلافت راشدہ ص ۱۴۳)

غیر مقلدین حضرات جب صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کا تبرا بکتے ہیں تو غالباً ان کے ذہن و دماغ سے اللہ کے رسول کا یہ ارشاد ان کے اہلحدیث ہونے کے باوجود نکلا ہوتا ہے۔

(لا تتخذوھم غرضا من بعدی) میرے بعد میرے صحابہ کو اپنی بد زبانیوں کا نشانہ مت بنانا۔

تقلید شرعی اصطلاح اور لغوی مفہوم دونوں کی روشنی میں بُرا عمل ہے

غیر مقلدوں کے ایک جامعہ کے ایک غیر مقلد ٹیچر صاحب ایک غیر مقلد پرچہ میں یہ غیر مقلدانہ بصیرت افروز و حکیمانہ کلام نذر قارئین کرتے ہیں:

"لغوی مفہوم اور شرعی اصطلاح دونوں کی روشنی میں تقلید ایک براعمل ہے" (محدث بنارس اگست ۱۹۹۶ء)

یقیناً آپ کا فرمانا بجا ہوگا، افسوس ہے کہ چاروں مذاہب متبوعہ کے مقلدین نے

---

(۱) ہمارے ایک غیر مقلد کرم فرما فرماتے ہیں۔ لیکن ہم چاروں اماموں کو اور اسی طرح دیگر ائمہ دین کو "احترام" کی نظر سے دیکھتے ہیں" (محدث اگست ۱۹۹۶ء) چاروں ائمہ کو جس احترام کی نظر سے یہ غیر مقلدین دیکھتے ہیں اس کا اندازہ تو ایکے احترام کی اس نظر سے لگ رہا ہے جس سے وہ صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، ناظرین کے سامنے غیر مقلدوں کے "خیرات" کے بارے میں احترام کا خوان نعمت بچھا ہوا ہے، کیسا احترام ہے ناظرین خود دیکھ لیں،

marfat.com

دین و شریعت کے اس باریک نقطہ کو سمجھا نہیں، اور صدیوں سے اس برے عمل میں گرفتار ہیں۔

اچھا صاحب آپ تو ماشاء اللہ عدم تقلید کا "اچھا عمل" کرنے والے ہیں ذرا بتلائیے تو مولانا عبدالرحمٰن مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید سے آپ کتنے مسائل میں باہر ہیں؟ اور خود مولانا مبارکپوری حافظ عبداللہ صاحب محدث غازیپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید سے کتنے مسائل میں باہر ہیں؟

سنبھل کے رکھنا قدم دشت خار میں مجنوں
کہ اس نواح میں سودا برہنہ پا بھی ہیں

میت سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کی دلیل

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس حضرت جابر اور حضرت عائشہ سے یہ روایت ذکر کی ہے۔

قالوا ان ابابکر قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وھو میت

اس کی شرح میں مشہور غیر مقلد عالم مولانا عبدالرحمٰن مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

قال الشوکانی فیه جواز تقبیل المیت تعظیما وتبرکا لانه لم ینقل انه انکر احد من الصحابة علی ابی بکر فکان اجماعا

(تحفہ ج ۲ ص ۱۳۰)

یعنی امام شوکانی فرماتے ہیں کہ اس میں اسکی دلیل ہے کہ میت کو بطور تعظیم بوسہ لیا جا سکتا ہے اور اس سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے اسلئے کہ حضرت ابوبکر نے آنحضور کے انتقال فرما جانے کے بعد صحابہ کے مجمع میں سب کے سامنے بوسہ لیا اور کسی ایک صحابی نے بھی اس پر انکار نہیں کیا تو اس بات پر

marfat.com

کہ میت کو بطور تعظیم بوسہ لیا جا سکتا ہے اور اس سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہوا۔

میں کہتا ہوں کہ اس بیان سے کئی بات معلوم ہوئی، پہلی بات یہ کہ میت کی تعظیم جائز ہے۔ دوسرے میت کا بوسہ لینا جائز ہے، تیسرے یہ کہ میت سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چوتھے یہ کہ صحابہ کے مجمع میں کوئی بات ہو اور کسی صحابی سے انکار ثابت نہ ہو تو وہ اجماع شرعی ہوتا ہے اور اس کا انکار جائز نہیں، پانچویں یہ کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے بیچ کوئی ایسا کام ہو جس کو کوئی صحابی غلط سمجھے اور وہ اس پر انکار نہ کرے۔ چھٹے یہ کہ صحابی کا فعل حجت ہوتا ہے اور اس سے شرعی مسائل کا ثبوت ہوتا ہے۔ اگر مردہ سے تبرک حاصل کرنے والی بات کوئی حنفی کہہ دیتا تو غیر مقلدین اور یہ نام کے سلفی وہ شور مچاتے کہ توبہ بھلی، اور احناف کو مردہ پرست قرار دینے میں یہ اپنی کوئی کوشش چھوڑتے نہیں، مگر یہاں چونکہ مردہ سے برکت حاصل کرنے کی بات ابن قیم اور مولانا مبارکپوری کہہ رہے ہیں اس وجہ سے آپ دیکھیں گے جماعت غیر مقلدین میں بالکل سناٹا اور سکوت ہو گا۔

قادیانی عورت سے نکاح جائز ہے

قادیانی جماعت ختم نبوت کی منکر ہے، مرزا غلام احمد کو یہ لوگ نبی مانتے ہیں، ان کے بقیہ عقائد بھی کفریہ ہیں، یہ جماعت باتفاق اہلسنت والجماعت کافر اور خارج از اسلام جماعت ہے، کافروں کی عورت سے نکاح جائز نہیں، قرآن میں اس کی تصریح موجود ہے، مگر غیر مقلدین جماعت کے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کا عقیدہ تھا کہ قادیانی عورت (مرزائن) سے نکاح درست و جائز ہے۔ فرماتے ہیں:

marfat.com

"اگر عورت مرزائن ہے تو علماء کی رائے ممکن ہے مخالف ہو میری ناقص علم میں نکاح جائز ہے"

(اخبار اہلحدیث امرتسر ۲ر نومبر ۱۹۳۴ء)

سوال یہ ہے کہ قادیانی لوگ مسلمان ہیں کہ کافر اگر مسلمان نہیں ہیں اور یقیناً نہیں ہیں بلکہ وہ کافر ہیں اور ان کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں تو پھر کافرہ عورت سے کسی مسلمان مرد کا نکاح کیسے درست ہے؟ یہ تو صریحاً قرآن کا معارضہ ہے، اور حکم خداوندی کا انکار ہے، قرآن کا ارشاد ہے:

ولا تمسکوا بعصم الکوافر (سورہ ممتحنہ)

"اور نہ رکھو اپنے قبضہ میں ناموس کافر عورتوں کے"

اس آیت میں صاف تصریح ہے کہ کافروں سے نکاح جائز نہیں۔ نیز خدا کا ارشاد ہے:

ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن۔ یعنی جب تک کہ مشرکہ عورتیں ایمان نہ قبول کرلیں ان سے نکاح مت کرو۔

معلوم نہیں مولانا ثناء اللہ صاحب کو ان آیاتِ قرآنیہ اور ارشاداتِ ربانی کی موجودگی میں یہ کہنے کی کیسے جرأت ہوئی کہ مرزائن یعنی قادیانی عورت سے نکاح جائز ہے الا یہ کہ مولانا مرحوم کے نزدیک قادیانی مسلمان ہیں، اگر یہ بات ہے تو غیر مقلدین اسی کا اعتراف کرلیں۔

اپنا چہرہ اگر تم کبھی دیکھتے
پھر کسی میں نہ کوئی کمی دیکھتے

marfat.com

قادیانی کے پیچھے نماز جائز ہے

اور یہ معلوم ہوا کہ مولانا امرتسری مرحوم کے نزدیک قادیانی عورت سے مسلمان کا نکاح جائز ہے، اب مولانا مرحوم یہاں یہ بھی فرماتے ہیں کہ قادیانی کے پیچھے نماز بھی جائز ہے۔ فرماتے ہیں:

"میرا مذہب اور عمل ہے کہ ہر کلمہ گو کے پیچھے اقتدار جائز ہے چاہے وہ شیعہ ہو یا مرزائی۔ (اخبار اہلحدیث ۱۲ اپریل ۱۹۱۵ء)

یعنی جو بھی کلمہ پڑھے خواہ اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو، خواہ وہ ختم نبوت کا منکر ہو خواہ وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہو، خواہ وہ انبیاء و رسل کی شان میں انتہائی گستاخ اور بد زبان ہو، غیر مقلدوں کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہی رہے گا اور اس کے پیچھے نماز میں اقتدا کرنی جائز ہوگی۔

اس کو کہتے ہیں فقہی بصیرت علم و دانش کا کمال اور قرآن و حدیث پر مجتہدانہ نگاہ، بیچارے فقہائے کرام کو یہ دولت گراں یاب کہاں سے حاصل ہو، مگر، ہاں مگر

یہ روشنی بھی کسی تیرگی سے کیا کم ہے

قادیانی مسلمان ہیں

غیر مقلدین کے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ پہلے تو ادھر اُدھر سے قادیانی کو مسلمان ثابت کرتے رہے، کھلے نہیں تھے مگر دل کا چور کب تک دل میں رہتا آخر اسے زبان پر آنا ہی تھا اور وہ آہی گیا، چنانچہ اب شیخ الاسلام صاحب صاف صاف لفظوں میں قادیانیوں کے مسلمان ہونے کی بات کہنے لگے فرماتے ہیں:

marfat.com

اسلامی فرقوں میں خواہ کتنا بھی اختلاف ہو آخر کار نقطہ محمدیت پر جو درجہ والذین معہ کا ہے سب شریک ہیں .... مرزائیوں کا سب سے زیادہ مخالف میں ہوں مگر نقطہ محمدیت کی وجہ سے میں انکو بھی اس میں (یعنی اسلامی فرقوں میں) شامل سمجھتا ہوں "

(اخبار اہلحدیث ۱۶ر اپریل ۱۹۱۵ء)

مرزا غلام احمد قادیانی کا نکاح میاں نذیر حسین دہلوی نے پڑھایا

مؤلف تاریخ احمدیت رقمطراز ہے :

" (شادی کی) تاریخ طے پا گئی تو آسمانی دولھا یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام (یعنی مرزا غلام احمد قادیانی) دو خدام کی مختصر سی بارات لے کر دلی پہنچے خواجہ میر درد کی مسجد میں عصر و مغرب کے درمیان مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی نے گیارہ سو روپے مہر پر نکاح پڑھایا جو ضعف اور بڑھاپے کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتے تھے اور ڈولی پر بیٹھ کر آئے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس موقع پر مولوی صاحب کو ایک مصلی اور پانچ روپے بطور ہدیہ دیئے " (۱) (تاریخ احمدیت ج ۲ ص ۵۶)

غلام احمد قادیانی غیر مقلد تھا، اگرچہ اس کے عقائد نکاح کے وقت ہی خراب ہو چکے تھے اور نبوت کی دہلیز پر وہ قدم رکھ چکا تھا مگر چونکہ تھا غیر مقلد اسلئے میاں صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی غیر مقلدیت کی رعایت میں باوجود فساد عقائد کے اس کا نکاح پڑھایا اور چونکہ ہم مذہب تھا اس وجہ سے

---

(۱) یہ میں نے معلومات مقدمہ رسائل غیر مقلدین جلد دوم مقدمہ پاکستان سے حاصل کی ہیں۔

marfat.com

اس کا نکاح پڑھایا، ہدیہ بھی قبول کیا۔ اس زمانہ میں پانچ روپیہ نکاح پڑھائی کوئی معمولی ہدیہ نہیں تھا کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ آسانی سے انکار کر دیتے۔

عیب اوروں کے جو چنتے ہیں وہ خود کو دیکھیں
سر نہ اٹھ پائے گا جب خود پہ نظر جائے گی

غیر مقلدوں کے شیخ الکل حضرت میاں صاحب دہلوی کے درس حدیث پر ایک صاحب علم اور صاحب بصیرت کا تبصرہ

ابھی آپ نے کچھ پہلے حضرت مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی دارالعلوم دیوبند کے متعلق پڑھا، دارالعلوم کے اساتذہ کیسے اخلاص و للہیت کے پیکر تھے، ان کا اخلاق کتنا بلند تھا، طلبہ پر انکی کیسی شفقت تھی، طلبہ کے حوصلہ بڑھانے اور انکی ہمت بلند کرنے میں ان کا طرز کیا تھا، ان کا درس حدیث کس معیار کا ہوتا تھا۔

اب آئیے مقابلۃً غیر مقلدین صف کے سب سے بڑے عالم اور محدث شیخ الکل فی الکل حضرت سید میاں نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ کا درس حدیث کس قسم کا ہوتا تھا، طلبہ کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا اخلاق کے اعتبار سے انکا مقام کتنا اونچا تھا، طبیعت کے اعتبار سے یہ کتنے شریف تھے۔ اس کے بارے میں ہندوستان کے مشہور مؤرخ صاحب نزہۃ الخواطر حضرت مولانا علی میاں مدظلہ، کے والد ماجد کا یہ معتبر بیان ملاحظہ فرمائیے، اسی ایک نمونہ سے غیر مقلدین کے دوسرے علماء کو سمجھنا آسان ہوگا، مولانا سید عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب دہلی اور اس کے اطراف میں فرماتے ہیں:

مولوی سید نذیر حسین صاحب کا درس

روز دوشنبہ ۱۶ رجب حوائج ضروری سے فارغ ہو کر

۸ بجے مولوی نذیر حسین صاحب کے مدرسہ گیا۔ بخاری شریف کا درس ہو رہا تھا، ۱۱ بجے تک متعدد کتابوں کے درس ہوئے۔ سب میں شریک رہا۔ ابتدا میں معمولی طریقہ تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد معمول سے زیادہ مولوی صاحب ممدوح موشگافیاں فرمانے لگے، میرا گمان یہ ہے، وان بعض الظن اثم۔ کہ بشر مولوی صاحب نے درس کی مشغولی کی وجہ سے مجھ کو نہیں دیکھا، جب انھوں نے مجھ کو دیکھا تو اس کے بعد ہی انھوں نے طرز بدل دیا، ۱۱ بجے اٹھے، میں بھی ساتھ ہی ساتھ اٹھا، مجھ سے فرمایا کیسے چلے؟ میں نے عرض کیا کہ صرف سماعت کی غرض سے حاضر ہوا تھا، کہنے لگے میاں تم پڑھے لکھے ہو جوان صالح ہو، کہیں بیٹھ کر خود پڑھاؤ، میں بوڑھا آدمی، کثیر الامراض، ہوش و حواس باختہ، ستر ابہترا ہوں، میرا پڑھنا پڑھانا گیا، از سر تا پا عوارض میں مبتلا ہوں، اس کا جواب میں نے مناسب الفاظ میں دیا، جیسا ایک ارادتمند کو زیبا ہے۔ اس پر مولوی صاحب نے فرمایا کہ پھر صبح سے آیا کرو تا کہ سب سبقوں میں شریک ہو سکو، میں سلام کر کے واپس آیا۔

روز سہ شنبہ ۱۷ رجب۔ اس وقت بھی ابر و باد ہے، اور راستہ بالکل خراب ہے۔ لیکن میں مولانا ممدوح کے پاس جانے کو تیار رہوں، ۷ بجے مولوی صاحب کی درسگاہ جو میرے قیامگاہ سے بہت قریب ہے گیا، راستہ ایسا خراب ہے کہ چار قدم چلنا مشکل معلوم ہوتا ہے، وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ بخاری شریف کا سبق شروع ہو گیا ہے، اس میں شریک ہو گیا، اس کے بعد مقدمۂ صحیح مسلم ہوا۔ بالکل سادہ سادہ درس ہے مالہ وما علیہ سے بحث نہیں ہوتی، اس کے بعد بیضاوی کا سبق شروع ہوا، مولوی صاحب کے بھتیجے مولوی عبدالحفیظ ہیں، اس کا سبق بالکل خراب ہوتا ہے۔ پڑھنے والے قطعاً نہیں سمجھتے، عبارت بالکل غلط پڑھتے ہیں، جس سے سننے والا بھی صحیح مطلب اخذ نہیں کر سکتا، مولوی صاحب کی نسبت سوء فہم کا گمان سوء ظن ہے، کیا عجب ہے کہ کبر سنی کی وجہ سے اخذ مطلب کے متحمل نہ ہو سکتے ہوں،

marfat.com

شواہد میں اعشیٰ کا ایک شعر آ گیا، اس میں دیر تک قاری اور سامع متوجہ رہے مگر پھر بھی ناکامیاب ہوئے، مولوی صاحب نے فرمایا کہ حل الابیات ہمارے پاس ہے، اس میں خوب حل کر دیا ہے۔ میرے دل میں بار بار آتا تھا کہ میں کچھ بولوں، مگر مولوی صاحب کی خفگی کی وجہ سے نہیں بولا، وہ جلد خفا ہو جاتے ہیں اور طالب علموں کو الفاظ سخت و درشت کہتے ہیں ...... یہ مصرع بہت پڑھتے ہیں۔

ع عیسیٰ کے اصطبل میں کوئی خر بھی چاہئے

اور طالب العلم ان کا سننا بھی فخر و سعادت سمجھتے ہیں، یہ روسیاہ ان باتوں کے سننے کو بسبب اجنبیت کے گوارا نہیں کر سکا، افسوس ہے کہ بیضاوی بالکل نام ہی کے واسطے پڑھی جاتی ہے، کاش اس کی جگہ پر حدیث کا سبق ہوتا تو گو وہ نہ سمجھیں لیکن الفاظ نبوی کے ادا ہونے سے ثواب میں داخل ہوتے۔ مولوی صاحب نے اثنائے سبق میں بیضاوی کی نسبت بھی الفاظ نا ملائم کہے، کہ وہ فلسفی تھا کچھ نہیں سمجھتا آیات بینات کو اپنی قابلیت جتانے کے واسطے مشکل کر دیا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کبھی اس کو نہیں دیکھتے تھے، ان کو اس کی طرف بالکل اعتنا نہ تھا۔ الیٰ آخرہ۔

جماعت اہلحدیث کے متعلق اکابر غیر مقلدین کی رائے

جب ظلم حد کو پہنچ جاتا ہے، تو جن کے دلوں میں اسلامی غیرت کی کچھ بھی حس ہوتی ہے ان کا ضمیر چیخ اٹھتا ہے، اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں، تقلید کا انکار کرتے کرتے اور مقلدین کو مشرک کہتے کہتے جب غیر مقلدین کی جماعت حد سے آگے بڑھ گئی اور کتاب وسنت کا نام لے کر خود کتاب وسنت کے خلاف یہ زہر اگلنے لگے، دین کی من مانی تشریح کرنے لگے اسلاف امت اور صحابہ تک اپنی زبان وقلم کا انھوں نے نشانہ بنا لیا صحابہ کرام اور خلفائے

راشدین کا عمل بھی اس جماعت کے نزدیک بدعت قرار پانے لگا تو خود غیر مقلدین کی جماعت کا ایک گروہ اس حرکت ناشائستہ پر اظہارِ افسوس کرنے لگا اور اس نے محسوس کیا کہ یہ اہلحدیث قسم کا جو ایک گروہ پیدا ہو گیا ہے وہ پورے دین کو بدنام کرنے اور شریعت اسلامیہ کی غلط تفسیر اور اس کا چہرہ بگاڑنے کی تگ ودو میں لگا ہے، چنانچہ اکابر غیر مقلدین نے اس غیر مقلدین جماعت کے اس نئے قسم کے "اہلحدیث" لوگوں کا سخت قسم کا نوٹس لیا اور انھوں نے ان سے اظہار بیزاری کو ضروری سمجھا، ذیل میں اکابر غیر مقلدین کے جماعت اہلحدیث کے بارے میں جو تاثرات ہیں وہ ملاحظہ فرمایا جائے۔

نواب صدیق حسن خاں بھوپالی فرماتے ہیں:

"اس زمانہ میں ایک شہرت پسند اور ریاکار فرقہ نے جنم لیا ہے جو ہر قسم کی خامیوں اور نقائص کے باوجود اپنے لئے قرآن وحدیث کے علم اور ان پر عامل ہونے کا دعویدار ہے" (الحطہ فی ذکر الصحاح الستہ صـ۱۵۲)

مولوی محمد شاہ جہاں پوری رقم طراز ہیں:

"کچھ عرصہ سے ہندوستان میں ایک ایسے غیر مانوس مذہب کے لوگ نظر آرہے ہیں، جس سے لوگ بالکل ناآشنا ہیں، پچھلے زمانہ میں شاذ ونادر اس خیال کے لوگ کہیں ہوں تو ہوں مگر اس کثرت سے دیکھنے میں نہیں آتے، بلکہ ان کا نام ابھی تھوڑے دنوں سے سنا ہے، اپنے آپ کو تو وہ "اہلحدیث" یا "محمدی" یا "موحد" کہتے ہیں مگر مخالف فریق میں ان کا نام "غیر مقلد" یا "لامذہب" لیا جاتا ہے"

(الارشاد الی سبیل الرشاد صـ۱۳)

مشہور غیر مقلد عالم مولانا عبد الجبار صاحب غزنوی فرماتے ہیں:

قد نشأت فی عصرنا فرقة تدعی اتباع الحدیث وهو بمعزل عنه

(فتاوی علماء الحدیث جلد ۴ صـ۹ بحوالہ فتاوی غزنویہ)

marfat.com

یعنی ہمارے اس زمانہ میں ایک فرقہ نیا کھڑا ہوا ہے، جو اتباع حدیث کا دعویٰ رکھتا ہے، اور درحقیقت وہ لوگ اتباع حدیث سے کنارے ہیں"۔

شیخ الکل فی الکل مولانا میاں نذیر حسین صاحب کے استاذ و خسر مولانا عبدالخالق صاحب تحریر فرماتے ہیں:

سو بانی مبانی اس طریقہ نو احداث (غیر مقلدیت) کا عبدالحق ہے جو چند روز سے بنارس میں رہتا ہے اور حضرت امیر المومنین (سید احمد شہید) نے ایسی حرکات ناشائستہ کے باعث اپنی جماعت سے اسکو نکالدیا اور علمائے حرمین معظمین نے اسکے قتل کا فتویٰ لکھا مگر کسی طرح بھاگ وہاں سے بچ نکلا۔ الخ

(تنبیہ الضالین بر حاشیہ نظام اسلام ص۲۷)

الحطہ فی ذکر الصحاح الستہ میں نواب صاحب نے اس نو مولود فرقہ اہلحدیث کے بارے میں بڑا تفصیلی ذکر کیا ہے، میں نے شروع میں نواب صاحب کا جو کلام نقل کیا ہے اسی کے ضمن میں نواب صاحب مزید فرماتے ہیں:

۔ ان لوگوں کو دیکھو گے کہ یہ محض الفاظ حدیث کی نقل پر اکتفار کرتے ہیں اور حدیث شریف کی فہم اور اسکے معانی و مفاہیم میں غور و غوص کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان لوگوں کا گمان ہے کہ محض الفاظ کا نقل کرلینا ہی کافی ہے حالانکہ یہ خیال حقیقت سے دور ہے، کیونکہ حدیث سے مقصود تو حدیث کی فہم اور اسکے معانی میں غور و فکر کرنا ہے، نہ کہ صرف الفاظ حدیث کی نقل پر اکتفار کرنا"۔

آگے چل کر نواب صاحب فرماتے ہیں:

۔ پس حدیث اس زمانہ میں بچوں کا پڑھنا پڑھانا رہ گیا ہے نہ کہ اصحاب یقین کا وہ اپنی خفلتوں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔

marfat.com

مزید خاں صاحب فرماتے ہیں (غیر مقلدین حضرات کان لگا کر اپنے بارے میں اپنی ہی جماعت کے اس مجدد اور فخر المحدثین اور سرتاج علماء کی یہ بات سنیں اور عبرت حاصل کریں ۔)

"یہ جاہل (یعنی غیر مقلدین) تو ان کا حدیث کے ساتھ بڑے سے بڑا سلوک یہ ہے کہ یہ لوگ چند ایسے مسائل کو اختیار کر لیتے ہیں جو عبادات کے اندر مجتہدین اور محدثین کے مابین اختلافی ہیں، معاملات سے متعلق مسائل جو روزمرہ پیش آتے ہیں ان سے انھیں کوئی واسطہ نہیں اور ان کا سارا اتباع حدیث فقط یہ ہے کہ یہ اس خلاف کو نقل کرتے رہتے ہیں جو ائمہ مجتہدین اور محدثین کے درمیان عبادات میں واقع ہوا ہے نہ کہ اتفاقات کے اندر، اسی لئے یہ لوگ اس باب میں ائمہ حدیث کی جانچ پرکھ سے بے بہرہ اور معاملات کے بارے میں حدیث کی سمجھ بوجھ سے ناواقف ہیں، ایسے ہی سنن اور اصحاب سنن کے اسلوب اور طریقہ کے مطابق کسی ایک مسئلہ کے استخراج اور کسی ایک حکم کے استنباط پر بھی قادر نہیں، اور انھیں اس کی توفیق بھی کیسے ہو کہ یہ حدیث پر عمل کرنے کے بجائے زبانی جمع خرچ اور سنت کی اتباع کے بجائے شیطانی تسویلات (بہکاوے) پر اکتفاء کرتے ہیں اور پھر اسکے عین دین ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں"

یہ ہے "جماعت اہلحدیث" کے بارے میں نواب صاحب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے، یہ کسی حنفی کی نہیں، شافعی کی نہیں، مالکی اور حنبلی کی نہیں، دیوبندی اور ندوی کی نہیں، بدعتی اور شیعہ کی نہیں، جماعت اہلحدیث کے بارے میں خود اس جماعت کے نہایت اہم اور مؤقر شخصیت خانصاحب بھوپالی کی رائے ہے۔

اگرچہ نواب صاحب کی یہ تحریر بڑی طویل ہوگئی مگر نواب صاحب ابھی

marfat.com

کچھ اور سننا چاہتے ہیں اگر گھبرا نہ گئے ہوں تو آپ توجہ سے جماعت "اہلحدیث" کے بارے میں نواب صاحب کی یہ بات بھی سن لیں فرماتے ہیں :

"میں نے انکو (اہلحدیثوں کو) بارہا آزمایا لیکن میں نے ان میں سے کسی کو ایسا نہیں پایا جسے صالحین کے طریقہ پر چلنے کی رغبت ہو، یا وہ اہل ایمان کی سیرت کے مطابق چلتا ہو، بلکہ میں نے تو ان میں سے ہر ایک کو کمینی دنیا میں منہمک اور اسکے ردی ساز و سامان میں مستغرق، جاہ و مال کو جمع کرنیوالا حلال و حرام کی تمیز کے بغیر مال کی لالچ رکھنے والا پایا۔ اسلام کی مٹھاس سے خالی الذہن اور عام مسلمانوں کی نسبت شریر کمینے لوگوں کی طرح سنگدل پایا۔

نواب صاحب مزید ارشاد فرماتے ہیں :

بخدا یہ امر انتہائی تحیر و تعجب کا باعث ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو خالص موحد گردانتے ہیں اور اپنے ماسوی سب مسلمانوں کو مشرک بدعتی قرار دیتے ہیں حالانکہ یہ خود انتہائی متعصب اور دین میں غلو کرنیوالے ہیں ......

.... مقصود یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنکا دیکھنا آنکھوں کی چبھن اور گلوں کی گھٹن جانوں کے کرب اور دکھ روحوں کے بخار سینوں کا غم اور دلوں کی بیماری کا باعث ہے اگر تم ان سے انصاف کی بات کرو تو انکی طبیعتیں انصاف قبول نہیں کریں گی"(۱) (الحطہ ص۱۵۴ و ص۱۵۵)

چھپ کر ہوا کے جھونکوں میں آتی ہیں بجلیاں
ناطق چمن یہ رہنے کے قابل نہیں رہا

یہ جماعت اہلحدیث کے متعلق خاں صاحب بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات عالیہ تھے، مولانا عبدالجبار صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بھی جماعت غیر مقلدین کی بڑی قابل قدر ہستی ہیں، اہلحدیثوں کے بارے میں انکے بھی تاثرات ملاحظہ

marfat.com

فرمائیں ۔ فرماتے ہیں :

" ہمارے اس زمانہ میں ایک فرقہ نیا کھڑا ہوا ہے، جو اتباع حدیث کا دعویٰ رکھتا ہے اور حقیقت میں وہ لوگ اتباع حدیث سے کنارے ہیں جو حدیثیں کہ سلف کے یہاں معمول بہا ہیں انکو ادنیٰ سی قدح اور کمزور جرح پر مردود کہدیتے ہیں اور صحابہ کے اقوال و افعال کو ایک بے طاقت سے قانون اور بے لوزے قول کے سبب پھینک دیتے ہیں اور ان پر اپنے بیہودہ خیالوں اور بیمار فکروں کو مقدم رکھتے ہیں اور اپنا نام محقق رکھتے ہیں، حاشا و کلا، اللہ کی قسم یہی لوگ ہیں جو شریعتِ نبویہ کے نشان کو گراتے ہیں اور ملت حنفیہ کی بنیادوں کو کہنہ کرتے ہیں اور سنت مصطفویہ کے نشانوں کو مٹاتے ہیں احادیث مرفوعہ کو چھوڑ رکھا ہے اور متصل الاسناد آثار کو پھینک دیا ہے اور انکو دفع کرنے کیلئے وہ حیلہ بناتے ہیں کہ جن کیلئے کسی یقین کرنے والے کا شرح صدر نہیں ہوتا اور نہ کسی مومن کا سر اٹھتا ہے، الخ (۱)

(فتاویٰ علمائے اہلحدیث جلد ۷ ص ۸۰)

غیر مقلدین علماء میں نواب وحید الزماں صاحب حیدر آبادی کا بھی بہت اہم مقام ہے، ان پر اور انکی کتابوں پر نواب صدیق حسن خاں بھوپالی جیسا صاحب فضل و کمال اعتبار کیا کرتا تھا، مولانا حیدر آبادی کی کتاب نزل الابرار کی نواب صاحب بھوپالی نے بڑی تعریف کی ہے، ان نواب صاحب حیدر آبادی کا اہلحدیثوں کے

---

(۱) مولانا غزنوی کی تصدیق کیلئے غیر مقلدوں کی شروح حدیث دیکھئے کچھ نہیں تو صرف مولانا عبد الرحمٰن مبارکپوری کی تحفۃ الاحوذی جو ترمذی شریف کی شرح ہے اسکا مطالعہ کیجئے اور احادیث رسول کی تضعیف و انکار کے باب میں ان غیر مقلدین علماء کی جرأت کی داد دیجئے ۔

marfat.com

بارے میں کیا خیال تھا سنئے اور جماعتِ اہلحدیث کے بارے میں مزید بصیرت حاصل کیجئے، نواب صاحب حیدر آبادی اپنی مشہور کتاب "لغات الحدیث" میں فرماتے ہیں:

"غیر مقلدوں کا گروہ جو اپنے تئیں اہلحدیث کہتے ہیں انھوں نے ایسی آزادی اختیار کی ہے کہ مسائل اجماعی کی بھی پرواہ نہیں کرتے نہ سلف صالحین صحابہ اور تابعین کی ....
بعضے عوام اہلحدیث کا یہ حال ہے کہ انھوں نے صرف رفع یدین اور آمین بالجہر کو اہلحدیث ہونے کو کافی سمجھا ہے باقی اور آداب اور سنن اور اخلاق نبوی سے کچھ مطلب نہیں، غیبت جھوٹ افترا سے کچھ باک نہیں کرتے ائمہ مجتہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء اللہ اور حضرات صوفیہ کے بارے میں بے ادبی اور گستاخی کے کلمات زبان پر لاتے ہیں، اپنے سوا تمام مسلمانوں کو مشرک اور کافر سمجھتے ہیں بات بات میں ہر ایک کو مشرک اور قبر پرست کہہ دیتے ہیں" (۱)

(لغات الحدیث ص۹۱ ج۲ کتاب)

غیر مقلدین یعنی اہلحدیث کہلانے والی جماعت کی یہ وہ تصویر ہے جسکا پیش کرنے والا کوئی دوسرا نہیں اہلحدیث جماعت کے ذمہ دار علماء ہیں، یہ آج سے پچاس اور سو سال کے پیشتر کی بات ہے، اس وقت اس جماعت کا حال پہلے سے بھی ابتر ہے اور ابتر ہونا ہی چاہئے اسلئے کہ ہر اگلا زمانہ پچھلے سے خراب ہوتا ہے، حدیث وسنت کا نام لیکر یہ جماعت اسلاف امت کی تجہیل وتنقیص کے شاندار کارنامے میں لگی ہوئی ہے۔

---

(۱) رسائل اہلحدیث جلد دوم کا مقدمہ ناظرین کو ضرور دیکھنا چاہیئے مولانا انوار خورشید نے اس طویل مقدمہ میں بڑی کام کی چیزیں جمع کردی ہیں۔

marfat.com

غیر مقلدوں کے "اہلحدیث" بننے کی تاریخی شہادت

۱۸۵۷ء کے غدر سے پہلے تک غیر مقلدین اہلحدیث کے نام سے کبھی جانے پہچانے نہیں گئے، بلکہ فی الحقیقت ان کا ۱۸۵۷ء سے پہلے وجود ہی نہیں تھا، دورِ انگریزی میں ان کا وجود ہوا، اور انگریزوں نے اپنی پرانی ٹکنک ڈیوائڈ اینڈ رول (لڑاؤ اور حکومت کرو) کے تحت مسلمانوں کی تحریک جہاد میں نقب ڈالنے کے لئے ان غیر مقلدوں کو جاگیر و مناصب اور نوابی دیکر ایک نئے مذہب کے طور پر کھڑا کیا تھا، ان کے ہاتھ میں آزادگیٔ مذہب اور عدم تقلید کا جھنڈا دیا اور عام مقلدین کے خلاف ان کی پشت پناہی مختلف انداز سے کرتے رہے ان کے دینی و شرعی مسائل جمہور سلمین سے الگ تھے ان کا عقیدہ بالکل نئے قسم کا تھا جس سے مسلمانانِ ہند بھی واقف نہیں تھے۔ پہلے انھوں نے اپنی جماعت کو موحدین کی جماعت کہا۔ یعنی یہ صرف یہ موحد بقیہ سب مشرک مگر یہ لفظ چل نہیں سکا تو انھوں نے اپنے کو محمدی کہا مگر اس پر بھی یہ زیادہ دن نہیں رہ سکے، پھر خود کو غیر مقلد مشہور کیا، یہ ان کا مقلدین مذاہب اربعہ کے خلاف فخریہ نام تھا مگر یہ بھی ان کو راس نہیں آیا، اس لئے کہ سارا ہندوستان مقلد ان کے بیچ تنہا یہ غیر مقلد ان کو جلد ہی محسوس ہوگیا کہ یہ تمام مسلمانوں میں اچھوت بن کر رہ گئے ہیں، ان کے بعض عقائد کی بنا پر عوام نے ان کو وہابی کہنا شروع کر دیا، وہابی کا لفظ ان کے لئے گالی سے بدتر تھا، ان کو فکر ہوئی کہ کوئی اپنی جماعت۔ آزادگان مذہب۔ کے لئے دل لبھاتا ہوا چمچماتا ہوا اور تاریخ اسلام میں جگمگاتا ہوا نام ہو، انھوں نے اس کے لئے جو تاریخ اسلام پر نظر ڈالی تو "اہلحدیث" کا لفظ مل گیا، بس یاروں نے جھٹ اپنے لئے اس کا انتخاب کر لیا اور اپنے کو اہلحدیث

marfat.com

کہنے لگے جس طرح منکرین حدیث اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں، مگر عوام کی زبان پر ان کا نام وہابی کا وہابی ہی رہا، اب یہ بیچارے پریشان کیا کریں تو انھیں اپنے آقائے ولی نعمت۔ انگریز بہادر یاد آئے جن کی خدمت گزاری عرصے سے چلی آرہی تھی استمداد و استعانت کیلئے انگریزی سرکار کا دروازہ کھٹکھٹایا ان کے بڑے "اہل حدیث" کا نام اپنے لیے الاٹ کرانے کی مہم میں لگ گئے، ایک صاحب نے محض اس کام کے لئے اور سرکار انگریزی کی خوشی حاصل کرنے کیلئے تنسیخ جہاد میں "الاقتصاد" نامی ایک کتاب ہی لکھ ڈالی جس میں ثابت کیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا حرام اور ناجائز ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہو سکتا، ایک نواب صاحب نے ترجمان وہابیہ نامی کتاب لکھی جس میں انگریزوں سے لڑنے والوں کے خلاف خوب خوب زہر اگلا کسی نے اسی سلسلہ کے پمفلٹ اور فتوے شائع کیے، غرض سرکار انگریزی، کے خوش کرنے کے سارے ذرائع اختیار کئے گئے، اور جب سرکار انکی وفاداری پر ایمان لاچکی تو مولانا حسین بٹالوی لے: جماعت غیر مقلدین کے مقتدر علمار کی رائے و دستخط سے اپنی جماعت "آزادگان مذہب" کے لئے "اہلحدیث" کا لقب الاٹ کرانے کے لئے سرکار کی خدمت میں درج ذیل متن کی درخواست پیش کردی جو سرکار انگریزی سے منظور ہوئی درخواست کا متن یہ تھا۔

سرکار برطانیہ سے "اہلحدیث" نام الاٹ کرانے کی درخواست کا متن

بخدمت جناب سکریٹری گورنمنٹ

میں آپکی خدمت میں سطور ذیل پیش کرنے کی اجازت اور معافی کا خواستگار ہوں ۱۸۸۶ء میں نے اپنے ماہواری رسالہ

marfat.com

اشاعۃ السنہ میں شائع کیا تھا جس میں اس بات کا اظہار تھا کہ لفظ وہابی جسکو عموماً باغی اور نمک حرام کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے لہٰذا اس لفظ کا استعمال مسلمانان ہندوستان کے اس گروہ کے حق میں جو اہلحدیث کہلاتے ہیں اور وہ ہمیشہ سے سرکار انگریزی کے نمک حلال اور خیر خواہ رہے ہیں اور یہ بات بارہا ثابت ہو چکی ہے اور سرکاری خط و کتابت میں تسلیم کیجا چکی ہے ......

ہم کمال ادب و انکساری کے ساتھ گورنمنٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ سرکاری طور پر اس لفظ وہابی کو منسوخ کر کے اس لفظ کے استعمال سے ممانعت کا حکم نافذ کرے اور انکو اہلحدیث کے نام سے مخاطب کیا جائے۔

اس درخواست پر فرقہ اہلحدیث کے تمام صوبہ جات ہندوستان کے دستخط ثبت ہیں۔ (اشاعۃ السنہ ص۲۴ جلد ۱۱ شمارہ ۲)

میں برادران غیر مقلدین سے عرض کروں گا کہ وہ میرے ساتھ رفع یدین کے ساتھ جہراً ایک بار کہیں:

الوداع۔ اے متاع دین و ایماں الوداع

غیر مقلدین کی ڈائری نام کی اس کتاب کو اتنی طویل ہو جانے کا اندازہ نہیں تھا اسلئے اب قلم روکنا پڑ رہا ہے، اس کتاب سے ناظرین کرام کو انشاءاللہ غیر مقلدیت نام سے جو ایک نئے فرقہ کا سوڈیڑھ سو سال سے وجود ہوا ہے اسکے ذہن و مزاج، اسکا عقیدہ اور اسکا دینی منہج و فکر معلوم کرنے میں کچھ سہولت حاصل ہو جائیگی۔ اللھم اھدنا فیمن ھدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وقنا شر ما قضیت فانك تقضی و لایقضی علیك، انه لایذل من والیت ولایعز من عادیت، ربنا تبارکت وتعالیت یاذاالجلال والاکرام۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم

محمد ابوبکر غازیپوری

marfat.com

وقفة مع اللامذهبية
فى
شبة القارة الهندية (عربی)

مولانا ابوبکر غازی پوری کی ایک نہایت معرکۃ الآرا کتاب
اپنے موضوع پر بالکل اچھوتی اور پہلی پیشکش

یہ کتاب آپکو بتائے گی کہ غیر مقلدین کی تاریخ کیا ہے۔ انکے واقعی عقائد کیا ہیں
اس کتاب نے غیر مقلدین کے اس ڈھونگ کی قلعی کھولدی ہے کہ وہ سلفی ہیں،
کتاب پڑھکر آپکو اندازہ ہوگا کہ غیر مقلدین، بدعتیوں، قبر پرستوں اور بہت سے
گمراہ فرقوں سے بھی اپنے خرافاتی عقائد میں دوچار ہاتھ آگے ہیں، ہربات ٹھوس اور
مستند حوالوں سے انداز بیان نہایت دلچسپ، ہندوپاک کے علاوہ علمائے عرب
نے بھی اس کتاب کو پسند کیا ہے۔
گردوپیش نہایت خوبصورت، صفحات ۳۸۹ قیمت ۱۵۰ روپئے۔ اہل علم
اور طلبائے مدارس کے لئے خاص رعایت۔ ۱۱۲ روپئے میں ان کو کتاب رجسٹری سے
بھیجی جائے گی، وی پی سے ہرگز طلب نہ کریں۔

marfat.com

مسائل غیر مقلدین

کتاب و سنت اور مذہب جمہور کے آئینے میں

اس کتاب میں غیر مقلدین حضرات کے اس پُرشور دعوے کو نہایت مدلل انداز میں چیلنج کیا گیا ہے کہ وہ "اہلحدیث" ہیں اور ان کا عمل سنتوں اور تمام صحیح حدیث پر ہوتا ہے اور کہ وہ دینی و شرعی مسائل کے اختیار کرنے میں سلف کے طریقہ پر ہیں۔

—— تالیف :- ——

محمد ابوبکر غازی پوری

—— ناشر :- ——

مکتبہ اثریہ قاسمی منزل سید واڑہ غازی پور (یو۔پی) انڈیا

دہلی میں :- —— ربانی بک ڈپو، کٹرہ شیخ چاند لال کنواں۔

بنارس میں :- —— مولانا رضوان احمد جامعہ اسلامیہ، ریوڑی تالاب۔

دیوبند میں :- —— مکتبہ حسینیہ۔

مئو میں :- —— مدرسہ مرقاۃ العلوم۔

marfat.com

مکتبہ اثریہ جلد ہی پیش کر رہا ہے

غیر مقلدین کے لئے

لمحۂ فکریہ

از قلم .... مولانا محمد ابو بکر غازی پوری

پی ایچ ڈی غیر مقلد مبلغ اور گاؤں کے چودھری کے درمیان دلچسپ گفتگو انوکھا طرز استدلال اور گاؤں کے چودھری کے سامنے غیر مقلد پی ایچ ڈی کا اعتراف کہ مذہب غیر مقلدیت محض ایک دھوکا، ایک فریب اور ایک فراڈ ہے۔

اس کتاب میں مولانا عبد الرحمٰن مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تحفۃ الاحوذی اور ابکار المنن کا بھی خاصا تعارف آگیا ہے، کتاب اتنی دلچسپ ہے کہ بلا ختم کئے قارئین ہاتھ سے رکھیں گے نہیں۔

یہ کتاب بہت جلد منظر عام پر آرہی ہے

marfat.com